



دہلی کے بائیس خواجه

(دہلی کے بائیس اولیائے کرام کا تذکرہ)

حضرت
خواجہ امیر خسرو
رحمۃ اللہ علیہ

حضرت
نصیر الدین چراغ دہلی
رحمۃ اللہ علیہ

حضرت
نظام الدین اولیاء
رحمۃ اللہ علیہ

حضرت خواجہ
قطب الدین بختیار کاکی
رحمۃ اللہ علیہ

حضرت شاہ
عبدالحق محدث دہلوی
رحمۃ اللہ علیہ

حضرت شاہ
کلیم اللہ شاہ جہان آبادی
رحمۃ اللہ علیہ

حضرت
خواجہ باقی باللہ
رحمۃ اللہ علیہ

ڈاکٹر ظہیر الحسن شارب

دہلی کے بائیس خواجه

(دہلی کے بائیس اولیائے کرام کا تذکرہ)

اس کتاب میں ان بائیس حضرات بابرکات کے حالات درج کئے گئے ہیں جن کو بجا طور پر قطبِ زمان و مرشدِ دوراں کہا جاسکتا ہے اسی باعث دہلی کو بائیس خواجه کی چوکھٹ کہا جاتا ہے۔ اس سلطنت کی بنیاد جن اصولوں پر رکھی گئی تھی، وہ اصول انسانیت کی فلاح کے ضامن ہیں

ڈاکٹر ظہور الحسن شارب

زاویہ پبلشرز

C-8 دربار مارکیٹ، لاہور

Price: 042-7248857 Mobile: 0300-9467047

Email : zaviupublishers@yahoo.com

جملہ حقوق محفوظ ہیں

2010ء

باراول 1000

ہدیہ 170

زیر اہتمام نجابت علی ناز

لیگل ایڈوائزرز

رائے صلاح الدین کھرل ایڈوکیٹ ہائی کورٹ (لاہور) 0300-7842176

محمد کامران حسن بھٹا ایڈوکیٹ ہائی کورٹ (لاہور) 0300-8800339

ملنے کے پتے

051-5536111 اسلامک بک کارپوریشن، کمیٹی چوک، راولپنڈی

051-5558320 احمد بک کارپوریشن، کمیٹی چوک، راولپنڈی

051-5552929 کتاب گھر، کمیٹی چوک، راولپنڈی

0301-7241723 مکتبہ بابا فرید، چوک چنی قبر، پاکپتن شریف

0213-4944672 مکتبہ قادریہ، پرانی سبزی منڈی، کراچی

0213-4219324 مکتبہ برکات المدینہ، بھادر آباد، کراچی

0213-2216464 مکتبہ رضویہ، آرام باغ، کراچی

051-5534669 مکتبہ ضیائیہ، کمیٹی چوک، اقبال روڈ، راولپنڈی

0321-3025510 مکتبہ سنی سلطان، ہیدر آباد

055-4237699 مکتبہ قادریہ، سرکلر روڈ، گوہر نوالہ

0300-4798782 علامہ فضل حق پبلیکیشنز، دربار مارکیٹ، لاہور

061-4545486 کتب خانہ حاجی مشتاق احمد، بوہر گیٹ ملتان

051-5541452 رائٹ بک کمپنی، کمیٹی چوک، اقبال روڈ، راولپنڈی

خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتیؒ
کی بارگاہ میں یہ چند اوراق بصدعجز و نیاز پیش کرتا ہوں
”مگر قبول اُفتد زبے عتو و شرف“

شارب

یا اُمّہد!

فخر عالم مددے دلبرِ داور مددے
یا حسد بکنِ عالمی و مضطر مددے

نورِ اول مددے مُرسلِ آخر مددے

مہاجبِ جوہر و عطا تید و سرور مددے

رہبرِ گل مددے محسنِ اکبر مددے

ابرِ رحمت مددے شایعِ عشر مددے

تشنہ کام آمدہ ام برورت اے بندہ نواز

بحرِ رحمت مددے ساقیِ کوثر مددے

از غم و رنج و الم گشتہ پریشاں شارب

بہرِ حسنینِ و پئے زہرا و حیدر مددے

حُسنِ یکتائے رسولؐ

روشنی بزمِ محبتِ رُوئے زیبائے رسولؐ

زینتِ ایوانِ وِعدتِ حُسنِ یکتائے رسولؐ

حشر تک جائے نہ میرے سترے سوادائے رسولؐ

بعدِ مُردن بھی رہے دل میں تولائے رسولؐ

صورتِ بے صورتی کا راز ظاہر ہو گیا

جب منقش ہو گیا دل پر سترِ اپنے رسولؐ

میری دُنیا ئے محبت ہو گئی رشکِ چناں

آگیا جس دم خیالِ رُوئے زیبائے رسولؐ

عرش سے تانسرشِ بارش ہو رہی ہے نوکی

دونوں عالم میں قدخشاں ہے تجھائے رسولؐ

ہو گئے سترِ شاربِ جامِ عشق سے سب تہِ سہام

جب مئے توحید لے کر بزم میں آئے رسولؐ

آزوبے شاربِ خستہ کہا ہے پروردگار

بلوہ گزدین میں رہے اس کے سترِ اپنے رسولؐ

فہرست مضامین

حصہ سوم	باب	رقبہ
۱۹۱	باب ۱ حضرت مخدوم سار الدین بہروردیؒ	۹
حصہ چہارم		
۲۰۱	باب ۱ حضرت خواجہ باقی باللہؒ	۱۲
۲۰۸	باب ۱ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلویؒ	۱۳
۲۱۶	باب ۱ حضرت شاہ کلیم اللہ شاہ جہان آبادیؒ	۱۴
۲۲۳	باب ۱ محبت نبوی حضرت مولانا محمد فوز الدین فخر جہاںؒ	۱۵
حصہ پنجم		
۲۲۵	باب ۱ حضرت خواجہ مرزا جان بابا منظر شہیدؒ	۱۶
۲۳۲	باب ۱ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ	۱۷
۲۳۹	باب ۱ حضرت شاہ محمد فراز دہلویؒ	۱۸
۲۵۲	باب ۱ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ	۱۹
۲۶۱	باب ۱ حضرت شاہ محمد آفاقؒ	۲۰
۲۶۵	باب ۱ حضرت خواجہ ابوسعیدؒ	۲۱
حصہ اول		
دیباچہ		
باب ۱ خالق کا آئینہ		
حصہ اول		
۱۲	باب ۱ قلب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیاکانؒ	۱
۱۴	باب ۱ حضرت قاضی حمید الدین ناگوریؒ	۲
۸۸	باب ۱ حضرت خواجہ بد الدین غزنویؒ	۳
حصہ دوم		
۱۱	باب ۱ حضرت خواجہ نجیب الدین متوکلؒ	۴
۱۱۲	باب ۱ شیخ المصباح حضرت نظام الدین اولیاءؒ	۵
۱۳۶	باب ۱ حضرت نصیر الدین چلدار دہلویؒ	۶
۱۵۸	باب ۱ حضرت خواجہ امیر خسروؒ	۷
۱۶۶	باب ۱ حضرت خواجہ شمس الدین محمد مکیؒ	۸
۱۷۳	باب ۱ حضرت خواجہ علاؤ الدین نیلی چشتیؒ	۹
۱۷۹	باب ۱ حضرت خواجہ مکی الدین کاشانیؒ	۱۰
۱۸۵	باب ۱ حضرت خواجہ کمال الدینؒ	۱۱

دیباچہ

دہلی کو دارالاولیاء اور بیت الفقراء ہونے کا فخر حاصل ہے۔
ہزاروں مشہور و معروف، صاحب نسبت اور صاحب اجازت اہل اللہ اس
شہر میں بجناب نوشیں استراحت فرما رہے ہیں۔

اس کتاب میں ان بانیس حضرات بابرکات کے حالات
درج کئے گئے ہیں جن کو بجا طور پر قطبِ زماں و مرشدِ دوراں کہا جاسکتا ہے
اسی باعث دہلی کو "بانیس خواجہ کی چوکٹ" کہا جاتا ہے۔

قطبِ الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے بفسان
اپنے پیر و مرشد خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی دہلی میں منگوت
اختیار فرمائی۔ آپ نے جس روحانی سلطنت کی بنیاد دہلی میں رکھی اس کے آثار
آج تک نمایاں ہیں۔ زمین، زماں، زمانہ اور حالات و واقعات اس سلطنت
کو شانہ کے۔

اس سلطنت کی بنیاد جن اصولوں پر رکھی گئی تھی، وہ اصول انسانیت
کی فلاح کا ضامن ہیں۔

ان بزرگوں کو ایسی مقبولیت حاصل ہوئی کہ ان میں سے کوئی
 "قطب الاقطاب" کوئی "محبوب الہی" کوئی "چراغ دہلی" کوئی "متوکل" کوئی
 "باقی باللہ" کوئی "فنائی اللہ" کوئی "محب الہی" کوئی "مخدوم" اور کوئی
 "علامہ" کہلایا۔

ان حضرات سے وہ سلسلے جاری ہوئے جو آج ہندوستان،
 پاکستان اور دور دراز ممالک کے شہروں، قصبوں اور گاؤں میں پھیلے ہوئے ہیں۔
 اس کتاب میں میں نے نہایت اختصار کے ساتھ ان بائیس بزرگان
 کے حالاتِ طیبات، غرائب واقعات و حکایات، نادر اسرافات و تعزّات،
 ترک لذات، مراقبات و مشاہدات اور ادو وظائف و معمولات، کلماتِ طیبات
 و تعلیمات، کشف و کرامات اور مجاہدات و عبادات قلم بند کئے ہیں۔

یہ کتاب اپنی نوعیت کی پہلی کوشش ہے۔

اگر یہ کتاب ان بائیس بزرگان نے قبول فرمائی تو میرے لئے

باعثِ فخر ہوگا۔

ظہور الحسن شارب

شارب انسٹی ٹیوٹ آف اسلامک لٹریچر، شارب ہاؤس

باب ۱

حقائق کا آئینہ

بزرگانِ دین نے اپنی گفتار اور اپنے کردار سے ایک معیاری زندگی کا جوہر پیش کیا۔ کم کھانا، کم بولنا، کم سونا اور لوگوں سے کم میل جول رکھنا ان کا طریقہ کار تھا۔ عشقِ الہی میں وہ ایسے سرست و سرشار تھے کہ ان کو اپنی ہستی کا پتہ نہ تھا۔ تسلیم و رضا، توکل و قناعت، امید و بیم، محبت و اخوت، علوم و خدمت، فقر و فاقہ، ایثار و استقامت ان کا شعار تھا۔

وہ اپنے دردا و دلپنے دربان، اپنی دعا و دعا اپنی دوا، اپنے سوز اور اپنے سلاہ اپنی زندگی اور اپنی موت، اپنی فتح اور شکست کو خدا کی طرف منسوب کرتے تھے۔ وہ عشقِ الہی کے اسیر تھے، دین کے نصیر تھے، وہ روشن ضمیر تھے، بے کسوں کے دستگیر تھے، کامل پیر تھے۔ وہ دُور بیش بہا و بے نظیر تھے۔

طالبوں کی طلب جب اُن کو ان حضرات کے مینانے میں لاتی وہ ان کو تائب کر کے آلائش دنیا سے پاک و صاف کر دیتے تھے۔

وہ جبر و تشدد کو ناز و رکعت سمجھتے تھے۔ محبت اور غلوں کے دل نشین ہتھیاروں سے غیروں کو اپنا کرتے تھے۔

وہ امیر شریعت تھے، جو رائے حقیقت تھے، صاحبِ نسبت، صاحبِ اجابت تھے، شمعِ شبستانِ ہدایت تھے۔ چراغِ دودمانِ ولایت تھے۔
علمِ باطن اور علمِ ظاہر میں کامل تھے۔

مخلوق سے بے نیاز تھے، قومی اور نسلی امتیازات سے پاک و صاف تھے۔ مذہبی تعصبات سے آزاد تھے۔

وہ اہلِ صفا تھے، ولیِ خدا تھے، عالمِ باعمل تھے، صاحبِ جوہر و کرم تھے۔
وہ شمس و قمر میں، جان و جگر میں، لعل و گہر میں، شام و سحر میں، برگ و شجر میں، آتشِ نمرود میں، گلزارِ ابرہہ میں خدا کا جلوہ کار فرما دیکھتے تھے۔

ان کی زندگی حکمتِ طریقت کا ذریعہ تھی حقیقت و معرفت کا آئینہ تھی، دھولِ الی اللہ کا ذریعہ تھی، معرفتِ الہیہ کا سرچشمہ تھی۔

فرض انہوں نے اپنی روحانی طاقت، اپنے کردار اور اپنی گفتار، اپنے ایثار اور اپنے غلوں اور سعادت داری سے ایک نئے سماج کی تشکیل کی۔

الَّذِينَ يُوَفُّونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ

الْمِيثَاقَ ۝

پ ۱۳ - رعد - ۴۳

ترجمہ: یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ کے ساتھ جو عہد کر لیتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں اور اپنے اقرار کو نہیں توڑتے۔

حِصَّةَ أَوْلَىٰ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

باب ۲

قطبِ اَکْوَاطَاب

حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکیؒ

قطب الاقطاب حضرت قطب الدین بختیار کاکیؒ قطبِ آفاق ہیں۔
شیخ علی الاطلاق ہیں۔ قطب المشائخ بالاتفاق ہیں۔
آپ قبلہ اہل یقین ہیں۔ قدوۃ واصلین ہیں۔ مطلع انوار رب العالمین ہیں۔
سداوعلین ہیں۔ دلیل السالکین ہیں۔

آپ خاندانِ چشت کے چشم و چراغ ہیں۔
خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی سمرکیؒ کے دلبر ہیں۔ بابا
فرید الدین گنج شکر کے رہبر ہیں۔

حضرت نظام الدین اولیاءؒ، حضرت علاء الدین صابزہؒ، حضرت نصیر الدین
چراغ دہلویؒ اور حضرت بندہ نواز گیسو درازؒ کے روحانی پیشوا ہیں۔
آپ اپنے وطن کو چھوڑ کر ہندوستان تشریف لائے اور خواجہ غریب نواز
کی خدمت اور صحبت کو اپنے لئے باعث برکت سمجھا۔ اس صحبت اور خدمت کا

آپ کو یہ صلہ ملا کہ آپ کو خواجہ غریب نواز کے جانشین، خلیفہ اکبر اور سجادین ہونے کا فخر حاصل ہے۔ خواجہ غریب نواز نے دہلی کی ولایت آپ کے سپرد فرمائی۔

خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی سمرکی نے نورد معرفت اور حق و صداقت کی جو شمع اجمیر میں روشن کی، اس شمع کو حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے نہ تو تند و تیز ہواؤں سے بجھنے دیا اور نہ اس کی روشنی کو کم ہونے دیا۔ آپ کے بعد آپ کے جانشین حضرت بابا فرید الدین گنج شکر اور ان کے جانشینان نے اس شمع کی روشنی کو برقرار رکھا۔ یہ شمع آج بھی پوری تائبانی کے ساتھ روشن ہے۔ اس شمع کے پروانے ہر شہر اور ہر گاؤں میں ملیں گے۔

خواجگانِ چشت کو ہندوستان میں جو مقبولیت حاصل ہوئی اس پر چشتیہ خاندان کے افراد جتنا بھی فخر کریں کم ہے۔ خواجگانِ چشت نے اپنی گفتار اور کردار سے ایک ایسا انقلاب پیدا کیا کہ جس کا اثر ہندوستانی تہذیب و تمدن، افکار و خیالات، علم و ادب، شعر و شاعری، غرض زندگی کے ہر شعبہ پر ایسا گہرا پڑا کہ اس کے آثار اور خدو خال آج بھی نمایاں ہیں۔

قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی
قربت داریاں ساداتِ حسینی سے ہیں آپ سیدنا حضرت امام حسینؑ کی اولادِ امجاد میں سے ہیں۔

آپ کے شجرہ نسب میں کافی اختلاف ہے۔ آپ کا شجرہ
نسب نامہ پدیری نسب حسب ذیل ہے۔

۱۔ اختلاف کی تفصیلات جہاں فریدی، "تیسرے الاقطاب"، خزینتہ الامنیۃ، "نائب المصوبین" اور "مرآۃ الانساب" میں درج ہیں۔ ۲۔ مرآۃ الانساب۔

خواجہ قطب الدین بن سید موسیٰ بن کمال الدین بن سید احمد بن سید محمد بن سید احمد
 بن اسحاق حسن بن سید معروف بن سید احمد بن سید رضی الدین بن سید حسام الدین بن سید
 رشید الدین بن سید عبدالنہ جعفر معروف بن علی بن علی النعمانی بن سیدنا نقی الجواد ابو جعفر
 بن سیدنا علی رضا بن سیدنا موسیٰ کاظم بن سیدنا جعفر صادق بن سیدنا ابو جعفر بن سیدنا
 محمد باقر بن سیدنا علی اوسط امام زین العابدین بن سیدنا امام حسین بن سیدنا امام الاولیاء
 حضرت علی کرم اللہ وجہہ -

آپ کا شجرہ نسب بموجب "سیر الاقطاب" ذیل میں دیا جاتا ہے۔
 حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بن سید موسیٰ بن سید احمد بن سید
 کمال الدین بن سید محمد بن سید احمد بن سید اسحاق حسین بن سید المعروف بن سید احمد
 چشتی بن سید رضی الدین بن سید حسام الدین بن سید رشید الدین بن سید جعفر بن امیر المومنین
 حضرت امام محمد نقی الجواد بن امیر المومنین حضرت امام علی موسیٰ رضا بن حضرت امام
 موسیٰ کاظم بن امام محمد باقر بن حضرت امام زین العابدین بن امیر المومنین امام الاولیاء
 سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ -

ولادت شریف
 آپ کی ولادت مبارک مژدہ جانفرا ہے۔ امن وامان
 کا پیغام ہے۔ روحانی انبساط کا پیش خیمہ ہے۔ مخلوق
 کے لئے باعث برکت ہے۔ جب آپ شکم مادری میں تھے اسی وقت سے آپ
 کی بزرگی اور عظمت کے آثار نمایاں ہو گئے تھے۔ آپ کی والدہ محترمہ
 فرماتی ہیں کہ :

” دورانِ حمل جب میں تہجد کی نماز پڑھنے کے لئے اٹھتی تو میری

لہ سیر الاقطاب -

عقلم میں سے ذکر اللہ اللہ کی آواز سننے میں آتی۔ یہ آواز
ایک ساعت تک رہتی تھی۔“

آدمی رات کے وقت آپ اس عالم فانی میں جلوہ گر ہوئے۔ نور نے
آپ کے سارے گھر کو روشن کر دیا۔ نور کی اس روشنی سے آپ کی والدہ محترمہ کو
خیال ہوا کہ سورج نکل آیا ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ حیران تھیں۔ آپ کی والدہ محترمہ
نے دیکھا کہ حضرت قطب صاحب کا سر مبارک سجدے میں ہے اور آپ زبان
فیض ترجمان سے اللہ اللہ فرما رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد حضرت قطب صاحب نے
سر سجدے سے اٹھایا۔ وہ نور کم ہوتا گیا۔

غیب سے آواز آئی :

ایں نور کہ دیدی سرے بود از اسرار الہی کہ اکنون در دل
فرزندت تہادیم لہ

ترجمہ : یہ نور جو تو نے دیکھا ہے، اسرار الہی میں سے ایک سر ہے۔
جس کو اب ہم نے تیرے فرزند کے دل میں شکن کر دیا ہے۔

آپ کی جائے پیدائش اوش ہے۔ اس اوش کو بغداد کے مضافات میں بتایا
گیا ہے۔ اس اوش کو فارس میں بھی بتایا گیا ہے۔ بعض نے اوش کو قصبات اور رانہ میں
لکھا ہے اور بعض نے ولایت فرغانہ میں توابع اندجان لکھا ہے۔ شہزادہ دارا شکوہ
نے آپ کی جائے پیدائش اوش ولایت فرغانہ میں توابع اندجان لکھا ہے:
”.... و مولد واصل ایشان از اوش فرغانہ است و آل قصبہ

لہ سیرالقطاب۔ لہ مولد افغانی ص ۶۹۲۔ لہ مرقعہ خواجهکان ص ۶۶۔ لہ سیرالعارفین
ص ۵۵ ساکب السالکین۔

ایست از توابع اندجان...“ لہ

ترجمہ : اور جاتے پیدائش اور خاندانی تعلق اوش فرغانہ (ولایت

فرغانہ میں) سے ہے۔ اور وہ قصبہ ہے توابع اندجان...“

آپ کی تاریخ پیدائش کے متعلق کافی اختلاف ہے۔ آپ

سنہ ولادت ۵۶۹ھ ہجری ہے۔

نام نامی آپ کا اسم گرامی قطب الدین ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ آپ کا نام

در اصل آپ کے بختیار کہلانے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پیر و مرشد

خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین حسن چشتی آپ کو بختیار کہہ کر پکارتے تھے۔ اسی

وجہ سے آپ بختیار کہلانے لگے۔

آپ حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتیؒ سے بیعت ہیں۔ چونکہ آپ خاندان

چشت میں بیعت ہیں، اس لئے آپ بھی چشتی کہلاتے ہیں۔

خطاب آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتیؒ نے آپ کو

قطب الاقطاب کے خطاب سے سرفراز فرمایا۔

آپ کا لقب کاکی ہے۔

لقب آپ کے کاکی کہلانے کے چند جوہات ہیں۔ جب قطب الاقطاب

حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکیؒ نے وہن میں رہنا شروع کیا تو آپ نے

ظاہری اسباب سے قطع تعلق کر لیا۔ آپ سے متعلقین نہایت عسرت سے گزار کرتے

۱۔ حقیقۃ الاولیاء از شہزادہ داراشکوہ ص ۹۲ لہ صلیب افغانی میں آپ کا سنہ ولادت ۵۶۹ھ ہجری رنج ہے۔

۲۔ سیر الاقطاب۔ کبہ مرآة الاسرار۔ روضۃ الاقطاب ص ۲۔

تھے۔ حضرت قطب صاحب عالم استغراق میں رہتے تھے۔ آپ کی اہلیہ محترمہ خور و
 نوش کا انتظام فرماتی تھیں۔ ایک بقال جس کا نام شرف الدین تھا، آپ کے پر وں
 میں رہتا تھا۔ حضرت قطب صاحب کی اہلیہ محترمہ اس بقال کی بیوی سے قرض لے
 کر گزارہ کرتی تھیں اور کچھ آنے پر اس کا قرضہ ادا کر دیتی تھیں۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔
 ایک دن اس بقال کی بیوی نے آپ کو طعنہ دیا اور کہا "اگر وہ قرض نہ لے تو ان کا
 کام کیسے چلے۔ یہ بات حضرت قطب صاحب کی اہلیہ محترمہ کو ناگوار ہوئی۔ آپ نے
 اس سے قرض لینا بند کر دیا۔ جب یہ بات حضرت قطب صاحب کے علم میں آئی
 تو آپ لے ہدایت فرمائی کہ قرض نہ لیا جائے، بلکہ ضرورت کے وقت بعتدیر
 ضرورت بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر حجرہ کی طاق سے روٹیاں اٹھالی جائیں۔
 آپ کی اہلیہ محترمہ ایسا ہی کرتیں۔ ایک دن آپ نے بقال کی بیوی کو اس بات
 سے آگاہ کر دیا۔ اس دن سے کاک نہ بٹلنا بند ہو گئے۔

داراشکوہ آپ کے کاک کی کہلانے کی وجہ کے متعلق لکھتے ہیں:

... وکاک ازال جہت گویند کہ چوں دروہی متوطن شدہ اند
 وفتوح از کس قبول نمی فرمودند و خود ہمیشہ مستغرق می بودند و بر
 فرزندان ایشان عسرت می گذشت و آنها و از زن بقالی کہ در ہم
 سایہ ایشان بود بعد از فاقہا جزوی قرض نموده اوقات گذاری
 خودی نمودند۔

روزے زن آل بقال گفت اگر من در ہماگی شما نمی بودم کار شما
 بہلاکت می رسید۔ این سخن بطبعیت ایشان گراں آمد۔ عہد کردند

کہ از و قرمن نگیرم۔ روزی ای قنیه را بعرض خواجہ رسا نیدند
 فرمودند کہ ہرگز من از کے قرمن نمی گیرم و در وقت حاجت بطائی
 کہ در حجرہ ماست دست انداختہ بقدر حاجت نان پنختہ بردارند
 و صرف خورد کنند و بہر کہ خواہند پندند۔ بعد ازاں ہر گاہ کہ می خواستند
 ازاں طاق می گرفتند ای نان را کاک می گویند۔

ترجمہ: اور کاک اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جب دہلی میں سکونت اختیار کی، آپ
 فتوحات کسی سے قبول نہ فرماتے تھے اور ہمیشہ استغراق میں رہتے تھے، اور آپ
 کے لڑکوں (متعلقین) کی عنسرت سے گذراوقات ہوتی تھی۔ وہ ایک بقال کی
 بیوی سے کہ وہ ان کے پڑوس میں رہتی تھی، فاقہ ہونے پر کچھ قرمن لے لیتے تھے،
 اور اس سے اپنا وقت گزارتے تھے۔

ایک روز اس بقال کی بیوی نے کہا، اگر میں تمہارے پڑوس میں نہ ہوتی تو
 تمہارا بہت ہی بُرا حال ہوا ہوتا۔ یہ بات ان کو ناگوار گذری۔ انہوں نے
 عہد کیا کہ اس سے قرمن نہ لیں گے۔ ایک دن یہ واقعہ خواجہ (خواجہ قطب صاحب)
 کے گوش گزار ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ میں کبھی کسی سے قرمن نہیں لیتا ہوں۔ ضرورت
 کے وقت اس طاق میں سے جو ہمارے حجرے میں ہے، اٹھ ڈال کر ضرورت
 کے مطابق پکی ہوئی روٹیاں نکال لیں اور خود صرف کریں، اور جس کو چاہیں
 دیں۔ اس کے بعد جب چاہتے اس طاق سے نان نکالتے۔ ان نانوں کو
 کاک کہتے ہیں۔

آپ کو کاک کہنے کی ایک دوسری وجہ بھی بتائی جاتی ہے۔ ایک دن حضرت
 امیر خسرو نے حضرت نظام الدین اولیاءؒ سے دریافت کیا کہ قطب الاقطاب حضرت
 خواجہ قطب الدینؒ کو کاک کی کیوں کہتے ہیں۔

سلطان المشائخ نے جواب دیا :

”ایک دن آپ مع احباب حوض شمس پر تشریف فرما تھے۔ ہوا سرد چل رہی تھی۔ یاروں نے عرض کیا کہ اگر اس وقت کاکھائے گرم ملتے تو خوب ہوتا۔ آپ یہ سن کر بانی میں تشریف لے گئے، اور کاکھائے گرم پانی سے نکال کر یاروں کو عطا فرمانے لگے۔ اس روز سے آپ کاکی مشہور ہوتے پئے

ابتدائی زندگی آپ اپنے والدین کے سائے عاطفت میں پرورش پائے تھے۔ والد اور والدہ آپ پر نازاں تھے۔ گھر کی برکت کو وہ اپنے شیرخوار بچے سے منسوب کرتے تھے۔

ابھی حضرت قطب صاحب کی عمر مبارک ڈیڑھ سال -
زندگی کا پہلا صدمہ کی تھی کہ والد کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا۔

اب آپ کی پرورش کا پورا بار آپ کی والدہ محترمہ پر تھا۔
آپ کی پرورش انہوں نے آپ کی تعلیم و تربیت کو ایک مقدس فریضہ سمجھا۔ آپ کی ابتدائی تعلیم والدہ کی آغوش میں ہوئی۔

بسم اللہ خوانی ۱۱۷۷ھ / ۱۷۷۳ھ ہجری

جب حضرت قطب صاحب کی عمر چار سال چار ماہ اور چار دن کی ہوئی تو آپ کی والدہ کو آپ کی بسم اللہ خوانی کی فکر دامن گیر ہوئی۔ اتفاق سے ان ہی ایام میں حضرت خواجہ معین الدین حسینی اوشی میں مقیم تھے۔ آپ سیر و سیاحت کرتے ہوئے اوش

لے روئے الاقطاب ص ۱۸۔

آتے ہوئے تھے۔ آپ کی برگزیدگی کا شہرہ سارے اوش میں تھا۔ حضرت قطب صاحب کی والدہ ماجدہ نے حضرت خواجہ غریب نواز کا اوش میں قیام اپنے اور اپنے لڑکے حضرت قطب صاحب کے لئے فال نیک سمجھا۔ آپ نے طے کیا کہ خواجہ غریب نواز جیسے جلیل القدر بزرگ سے وہ اپنے لڑکے کی بسم اللہ پڑھوائیں گی۔ آپ نے حضرت قطب صاحب کو خواجہ غریب نواز کی خدمت بابرکت میں بسم اللہ خوانی کی غرض سے بھیجا۔

خواجہ غریب نواز نے حضرت قطب صاحب کی تختی لکھنا چاہی۔ غیب سے آواز آئی کہ :

”اے خواجہ! ابھی لکھنے میں توقف کرو۔ قاضی حمید الدین ناگوری آتا ہے۔ وہ ہمارے قطب کی تختی لکھے گا اور تعلیم دے گا۔“
یہ آواز سن کر خواجہ غریب نواز رگ گئے۔

اتنے میں قاضی حمید الدین ناگوری آگئے۔ خواجہ غریب نواز نے تختی ان کو دے دی۔ قاضی حمید الدین ناگوری نے حضرت قطب صاحب سے دریافت کیا کہ :

”تختی پر کیا لکھیں؟“

حضرت قطب صاحب نے جواب دیا۔

مُتِمَّانَ الَّذِي آمَنَ بِعَبْدِكَ بِبَيْتِكَ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ط

قاضی حمید الدین ناگوری یہ سن کر سخت متحیر ہوئے۔ آپ نے دریافت کیا!

یہ تو پندرہویں سپارہ میں ہے۔ تم نے قرآن مجید کس سے پڑھا۔

حضرت قطب صاحب نے جواب دیا۔

”میری والدہ ماجدہ کو پندرہ سپارہ یاد ہیں۔ وہ میں نے شکم ماور

میں حق تعالیٰ کی تعلیم سے یاد کر لئے۔“

یہ سن کر قاضی صاحب نے تختی پر لکھا :

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا - إِلَى آخِرِ السُّورَةِ

آپ نے حضرت قطب صاحب کو چاروں میں قرآن شریف یاد کرا دیا۔

جب حضرت قطب صاحب کی عمر پانچ سال کی ہوتی تو

مکتب میں داخلہ چاہا۔ یہ ایک خوشی کا موقع تھا۔ اس خوشی میں آپ کی والدہ محترمہ نے دعوت کی،

کچھ مٹھائی اور کچھ روپیہ دے کر حضرت قطب صاحب کو ایک خادم کے ہمراہ محلہ

کے مکتب میں بھیجا۔ جب آپ خادم کے ساتھ محلہ کے مکتب میں جا رہے تھے تو راستے

میں آپ کو ایک بزرگ ملے۔ ان بزرگ نے خادم سے دریافت فرمایا :

”اس سعید ازل کو کہاں لے جاتے ہو؟“

خادم نے جواب دیا :

”محلہ کے معلم کے پاس لے جا رہا ہوں“

یہ سن کر ان بزرگ نے زور دیتے ہوئے کہا :

”اس کو مولانا ابانص کے پاس لے جانا چاہئے کہ وہ کامل ہیں

اور اس لڑکے کی تعلیم ان سے ملا کر رکھتی ہے۔“

ان بزرگ کی رائے کے موافق آپ بجائے محلہ کے معلم کے مولانا ابانص کی

کی خدمت میں پہنچے، جب آپ وہاں پہنچے تو ان بزرگ نے مولانا ابانص سے کہا :

”اس بچے کی تعلیم اچھی طرح سے کرو کہ اس سے بہت کام لینے

ہیں۔“

حضرت قطب صاحب کو مولانا ابانص کے پاس سپرد کر کے وہ بزرگ چلے

گئے ان کے جانے کے بعد مولانا ابانص نے خادم سے پوچھا !

”کیا تو جانتا ہے یہ بزرگ کون تھے؟“

خادم نے جواب دیا :

”مجھے معلوم نہیں۔“

مولانا اباحفص نے بتایا !

”یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے“

تلاشِ حق
قطب الاقطاب حضرت خواجہ صاحب نے تلاشِ حق کے جذبے سے متاثر ہو کر اپنے وطن کو چھوڑا۔ آپ ایک شہر میں پہنچے، اس شہر میں کچھ دن قیام کیا، آبادی سے کچھ فاصلہ پر ایک مسجد تھی۔ مسجد کے صحن میں ایک اونچا مینارہ تھا۔

حضرت قطب صاحب کو ایک ایسی دعا معلوم تھی کہ اگر اس دعا کو پچھلی رات میں بعد ادا سے دو گنا مینارہ پر پڑھا جائے تو دعا کے پڑھنے والے کو حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات نصیب ہو، آپ نے اس موقع کو غنیمت سمجھا، دو گنا ادا کیا۔ پھر وہ دعا پڑھی۔ مینارہ سے نیچے اترے اور حضرت خضر علیہ السلام کا انتظار کرنے لگے۔ مسجد میں کوئی شخص نظر نہ آیا۔ آپ مسجد سے باہر آ گئے۔ ایک بزرگ کو دیکھا۔ ان بزرگ نے حضرت قطب صاحب سے دریافت کیا۔

”تو اس سسنان میدان میں تین تنہا کیا کر رہا ہے؟“

حضرت قطب صاحب نے حضرت خضر سے ملنے کا شوق اور آپ سے ملنے کے لئے دعا پڑھنے کا حال بتایا۔
یہ سن کر ان بزرگ نے پوچھا :

۱۰ فرشتہ جلد ویم (حالاتِ قطب صاحب) مولانا انصاری ص ۶۳۹ سیر العارفين ص ۱۰۱۔

”کیا تو دنیا چاہتا ہے!“
حضرت قطب صاحب نے جواب دیا:

”نہیں!“

پھر ان بزرگ نے دریافت کیا:

”کیا تو کسی کا قرض دار ہے؟“

حضرت قطب صاحب نے جواب دیا:

”نہیں!“

ان بزرگ نے زور دیتے ہوئے کہا:

”پھر تو خضر کو کیوں تلاش کرتا ہے۔ وہ تو خود مثل تیرے سرگرداں

ہے۔ چنانچہ اس شہر میں ایک بزرگ حق تعالیٰ کے ساتھ مشغول

ہیں۔ اس نے ان سے (حضرت خضر سے) ملنے کی سات بار خواہش

کی مگر مسترد ہوئی“

گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ ایک اور بزرگ مسجد سے باہر آئے اور پہلے بزرگ

کے قریب کھڑے ہو گئے۔ ان بزرگ نے حضرت قطب صاحب کا ہاتھ پکڑا اور پہلے

بزرگ سے کہنے لگے:

”یہ نہ دنیا چاہتا ہے نہ کسی کا قرض دار ہے، یہ تو صرف آپ

کی ملاقات کا مستحق ہے“

قطب صاحب نے جب یہ سنا تو آپ کو خوشی ہوئی۔ آپ سمجھ گئے کہ پہلے بزرگ

حضرت خضر علیہ السلام ہیں اور دوسرے بزرگ رجال الغیب میں سے ہیں۔ اتنے میں

کیا دیکھتے ہیں کہ دونوں بزرگ فائب ہو گئے۔

۱۵ سیر العارفين - سیر اللاديار -

بیعت ۶۱۱۸۶/۵۸۲ء

حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکیؒ مرید ہونا چاہتے تھے۔ حضرت شیخ محمود مصنفانی ایک درویش کامل تھے۔ حضرت قطب صاحب کو آپ سے گہرا تعلق اور عقیدت تھی، قطب صاحب ان سے بیعت کرنا چاہتے تھے لیکن ہوتا تو وہ ہے جو منظورِ خدا ہوتا ہے۔ ان ہی دنوں میں خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری بسلسلہ سیر و سیاحت اصفہان پہنچے۔ حضرت قطب صاحب کو جب یہ معلوم ہوا کہ حضرت خواجہ غریب نواز اصفہان میں تشریف فرما ہیں تو آپ کو ان سے ملنے کی خواہش ہوئی آپ ان کی خدمتِ بابرکت میں حاضر ہوئے۔ حضرت خواجہ غریب نواز اس وقت دہلی آ رہے ہوئے تھے۔ وہ دہلی آئے آپ نے حضرت قطب صاحب کو مرحمت فرمائی یہ دہلی دینے کے معنی یہ ہونے کہ خواجہ غریب نواز نے حضرت قطب صاحب کو شرفِ مریدی بخشا۔ حضرت قطب صاحب کو خواجہ غریب نواز کی جدائی گوارا نہ تھی، آپ ان کے ہمراہ رہنے لگے۔ سفر میں بھی خواجہ غریب نواز کے ہمراہ رہتے تھے۔

پیرو مرشد کے ساتھ سفر خواجہ غریب نواز نے رخصت سفر باندھا۔ آپ اصفہان سے خانہ کعبہ کی زیارت کے لئے روانہ ہوئے۔ قطب صاحب آپ کے ہمراہ تھے۔ اسی سفر کے حالات کے متعلق حضرت قطب صاحب فرماتے ہیں کہ:

”جب دعا گو (قطب صاحب) خواجہ معین الدینؒ کے ساتھ

لے دو تھی۔ گئے سیر العارفین مکہ۔ گئے معین الدینؒ کا گھر ظہور الحسن شارب ملا

کعبہ کے سفر میں تھا۔ ایک دن صبح کی نماز کے بعد روانہ ہو کر ہم ایک شہر میں پہنچے۔ یہاں ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی۔ یہ صومعہ کے اندر معتلت تھے۔ ایک فارسی شل سوکھی لکڑی کے اپنی آنکھیں ہوا میں کھولے عالم حیرت میں کھڑے تھے۔ ایک ماہ تک ہم ان کے پاس رہے۔ اس عرصہ میں وہ صرف ایک مرتبہ عالم صحر میں آئے۔ ہم نے اٹھ کر سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا اور فرمایا:

”اے عزیز! تمہیں میرے اس حال سے صدمہ ہوا، مگر تمہارے اس ملال سے مکانات میں بخشش ہوگی۔ کیوں کہ اہل صفا فرماتے ہیں کہ جو درویش کی خدمت کرتا ہے وہ مقبول ہوتا ہے۔“
الغرض انہوں نے بیٹھنے کے لئے فرمایا۔ ہم بیٹھ گئے، پھر فرمانے لگے:

”میں شیخ محمد اسلم طوی کا فرزند ہوں۔ تیس سال سے عالم تعمیر میں متفرق ہوں، نہ مجھے دن کی خبر ہے، نہ رات کی، خدائے تعالیٰ تمہاری وجہ سے آج مجھے عالم صحر میں لایا ہے۔ تمہیں دوبارہ آنے سے تکلیف ہوگی۔ مگر یہ بات اس فقیر کی یاد رکھنا کہ جب تم آنے طریقت میں قدم رکھا ہے تو ہوائے نفس سے دنیا کی طرف متوجہ نہ ہونا۔ خلقت سے عزت رکھنا۔ جو کچھ ملے اسے صرف کر دینا۔ اس میں سے کچھ نہ بچانا۔ کیوں کہ ذخیرہ جمع کرنا شومی ہے۔ سوائے حق تعالیٰ کے مشغول نہ ہونا تاکہ خستہ نہ ہو۔“
وہ بزرگ یہ نصیحت کر کے پھر عالم تعمیر میں مشغول ہو گئے۔

حضرت قطب صاحب
حرمین شریف کی زیارت ۶۱۱۸۷/۵۸۳ھ میں خواجہ غریب

نواز کے ساتھ مکہ معظمہ پہنچے۔ زیارت کعبہ سے مشرف ہوئے۔

مدینہ منورہ سے خواجہ غریب نواز مع حضرت
بغداد میں آمد ۶۱۱۸۹/۵۸۵ھ قطب صاحب بغداد شریف پہنچے۔ بغداد

پہنچ کر آپ نے وہاں کچھ دن آرام کیا۔

حضرت قطب صاحب کی بیعتِ خلافت سے مشرف ہونے کی تفصیل
خلافت حسب ذیل ہے:

خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی نے چالیس روز متواتر سرور
کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مع اراج مشائخین کرام خواب میں
یہ ارشاد فرماتے ہوئے دیکھا:

”اے معین الدین! قطب الدین خدا کا دوست ہے۔ اس کو

خلافت دے اور خرقہ عظیم پہنا“

ایک دن خواجہ غریب نواز نے فرمایا:

”آج رات میں نے حضرت ذوالجلال قادر باکمال کو خواب میں

دیکھا۔ وہاں بھی یہ حکم ہوا کہ:

اے معین الدین! قطب الدین بختیار کاکی کو درویشی کا خرقہ اور

خلافت عطا کر۔ کیوں کہ قطب الدین ہانا دوست اور محمد صلی اللہ

علیہ وسلم کا بھی دوست ہے۔ ہم نے اسے برگزیدہ بندہ بنا دیا

۱۵ سیر الاقطاب ص ۱۴۵۔ بیس سنابل ص ۲۲۱، ۲۲۲۔ سیر العارفین ص ۱۲۲، ۱۲۳۔

ہے اور اس کا نام اپنے دوستوں میں درج کیا ہے۔“

پس خواجہ غریب نواز نے ۵۸۵ ہجری میں حضرت قطب صاحب کو خواجہ

ابواللیث سمرقندی کی مسجد میں بیعتِ خلافت سے مشرف فرمایا۔

اس موقع پر حضرت شیخ شہاب الدین بہروردی، شیخ داؤد کرمانی، شیخ برہان الدین

محمدی اور شیخ تاج الدین محمد مصفاہانی موجود تھے۔

حضرت قطب صاحب کا شجرہ طریقت حسب ذیل ہے:

شجرہ طریقت

قطب الدین دہلوی، خواجہ معین الدین حسن سنجری و ہومن خواجہ عثمان

ہارونی چشتی و ہومن حضرت حاجی شریف زندنی و ہومن حضرت قطب الدین نور و چشتی

و ہومن حضرت خواجہ ناصر الدین ابویوسف چشتی و ہومن حضرت خواجہ ابو محمد چشتی و ہومن حضرت

خواجہ ابوالاحمد ابدال چشتی و ہومن حضرت خواجہ ابواسحاق چشتی و ہومن حضرت خواجہ شمشاد علی

دیوری و ہومن حضرت شیخ امین الدین ہبیرۃ البصری و ہومن حضرت سدید الدین حلیفۃ المرثی

و ہومن حضرت سلطان ابراہیم بن ادم بلخی و ہومن حضرت ابو فضیل بن عیاض و ہومن خواجہ

عبدالواحد بن زید و ہومن حضرت خواجہ حسن بصری و ہومن امام الاولیاء سیدنا حضرت

علی کرم الشریح۔

آخر کار خواجہ غریب نواز نے کوچ کیا۔ آپ ۵۸۶ھ مطابق

۱۱۹۰ء بغداد سے روانہ ہوئے۔ حضرت قطب صاحب اپنے

پیرو مرشد حضرت خواجہ غریب نواز کے ہمراہ تھے۔ بغداد سے روانہ ہو کر خواجہ غریب

نواز مع حضرت قطب صاحب چشت میں رونق افروز ہوئے، بعد ازاں خواجہ غریب

نواز مع حضرت قطب صاحب ہرات پہنچے۔

۱۔ سیرالقطاب۔ ۱۹۷۔ سیرالقطاب۔

۲۔ سیرالقطاب۔ ۱۷۹۔ خزینۃ الاحیاء جلد اول ص ۱۵۸۔

ہرات سے خواجہ غریب نواز اور حضرت قطب صاحب مبارک دار میں رونق
افروز ہوتے ہیں

مبارک دار میں کچھ دن قیام کر کے حضرت قطب صاحب بہ ہمراہی خواجہ غریب
نواز لاہور پہنچے۔ لاہور سے آپ اور خواجہ غریب نواز سماتا ہوتے ہوئے دہلی سے
گذرے۔ دہلی سے روانہ ہو کر خواجہ غریب نواز اور حضرت قطب صاحب جمیر
پہنچے۔ اس سفر کے متعلق حضرت قطب صاحب فرماتے ہیں کہ پٹنہ

”لاہور سے روانہ ہو کر ۵۸۷ میں دو ماہ سفر میں رہنے کے بعد
وارد جمیر ہوتے۔۔۔۔“

بابا فرید الدین گنج شکر کی باریابی

کچھ دن جمیر میں قیام کرنے کے بعد خواجہ غریب نواز عزیز تشریف لے
گئے۔ آپ کے مریدین و معتقدین بھی آپ کے ہمراہ ہونے لگے۔ حضرت خواجہ قطب صاحب
کو اپنی والدہ محترمہ سے رخصت ہوتے کافی عرصہ ہو گیا تھا۔ آپ اوش تشریف
لے گئے۔ جب خواجہ غریب نواز واپس جمیر تشریف لے آئے تو حضرت قطب صاحب
بھی ہندوستان روانہ ہوئے آپ ۱۱۹۲ھ / ۱۷۹۰ء میں ملتان میں رونق افروز ہوئے۔
ان دنوں ملتان علم و فنون کا مرکز تھا۔ بڑے بڑے عالم یہاں رہتے تھے۔
لوگ دور دراز سے تحصیل علم کی غرض سے ملتان آتے تھے۔ حضرت بابا فرید الدین
گنج شکر تلاش علم میں ملتان آئے۔ آپ نے مولانا منہاج الدین ترمذی کی مسجد
میں قیام کیا۔

۱۱۹۲ھ تذکرۃ الاولیاء ہند۔ کہ دلیل العارفین از حضرت قطب صاحب۔

ایک دن کا واقعہ ہے کہ بابا فرید الدین گنج شکر قبلہ روز بیٹھے کتاب پڑھ رہے تھے۔ اس کتاب کا نام "نافع" تھا۔ حضرت قطب صاحب جب ملتان میں رونق افروز ہوئے تو آپ اسی مسجد میں گئے، جہاں بابا فرید الدین گنج شکر مطالعہ میں مشغول تھے، جوں ہی حضرت بابا صاحب نے حضرت قطب صاحب کو دیکھا آپ بے چین ہو گئے۔ حضرت قطب صاحب کے رونے مبارک پر جو آپ کی نظر پڑی تو آپ اماں والہانہ جذبے سے متاثر ہو کر بے اختیار کھڑے ہو گئے۔ آداب بجالانے تعظیم کے اظہار کے بعد بابا صاحب ایک طرف موڑ بانہ بیٹھ گئے۔

حضرت قطب صاحب نے دو گانہ تحیۃ المسجد ادا کیا۔ پھر بابا صاحب کی طرف مخاطب ہوئے :

آپ نے بابا صاحب سے دریافت فرمایا :
"تم کیا پڑھتے ہو؟"

بابا صاحب نے موڑ بانہ جواب دیا :
"کتاب نافع پڑھتا ہوں"

یہ جواب سُن کر حضرت قطب صاحب نے زبانِ فیض ترجمان سے فرمایا :
"جانتے ہو کہ نافع سے تمہیں نفع ہوگا"

حضرت بابا فرید گنج شکر نے نہایت عاجزی سے عرض کیا :
"مجھے تو حضرت کی سعادتِ قدم بوسی نافع ہوگی"

یہ کہہ کر حضرت بابا صاحب والہانہ انداز میں اُٹھے اور حضرت قطب صاحب کے قدموں پر اپنا سر رکھ دیا۔

حضرت قطب صاحب کی نظر کیا اثر اپنا کام کر چکی تھی۔ حضرت بابا صاحب کو اب حضرت قطب صاحب کی جدائی گوارا نہ تھی۔ ہر وقت حضرت قطب صاحب

کی صحبت میں رہنے لگے۔ آپ کو حضرت قطب صاحب سے بے پناہ عقیدت ہو گئی۔

ملتان میں کچھ دن قیام فرما کر حضرت قطب صاحب دہلی روانہ ہو گئے۔ حضرت بابا صاحب نے بھی آپ کے ہمراہ دہلی جانا چاہا، لیکن حضرت قطب صاحب نے حضرت بابا فرید گنج شکر کی تکمیل تعلیم پر زور دیا۔ حضرت بابا صاحب تین منزل تک حضرت قطب صاحب کے ہمراہ آئے۔ وہاں سے رخصت ہو کر ملتان تشریف لے گئے۔ ملتان سے بلخ و بخارا تشریف لے گئے۔ آپ حضرت قطب صاحب سے ملنے کو بے چین تھے۔ دہلی پہنچ کر حضرت قطب صاحب کے دیدار سے مشرف ہوئے۔

حضرت بابا صاحب کا بیعت ہونا ۵۹۰ھ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر پہلی ہی مجلس

میں قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے دستِ حق پرست پر بیعت ہو گئے۔ یہ حضرت نظام الدین اولیاء نے بوقت بیعت حضرت بابا صاحب کی عمر پندرہ سال تباکی ہے۔

حضرت بابا صاحب کا دہلی میں قیام بابا صاحب کا دہلی میں کچھ عرصہ قیام رہا۔ اپنے پیر و مرشد حضرت قطب صاحب کا کھرا آپ قندھار روانہ ہو گئے۔ وہاں آپ نے علمِ ظاہری حاصل کرنے میں اتہائی محنت کی۔ وہاں سے آپ بعد تحصیلِ علم ظاہری عراق، تراسان، ماوراء النہر، مکہ معظمہ و مدینہ منورہ ہوتے ہوئے اور شاخین عظام سے ملے اور روحانی فیوض حاصل کرتے ہوئے اپنے پیر و مرشد حضرت قطب صاحب کی خدمتِ بابرگت

۱۔ راحت القلوب ۲۔ آفتاب الانوار اور سیر الاولیاء میں آپ کے بیعت سے مشرف ہونے کا سال ۵۹۰ھ بتایا ہے۔
۳۔ سیر الاولیاء صفحہ: ۶۰، ۶۱، سیر الاقطاب صفحہ: ۱۶۳، رؤفۃ الاقطاب صفحہ: ۵۹

میں حاضر ہوئے۔

حضرت قطب صاحب کو بابا صاحب کی آمد سے بے حد خوشی ہوئی۔ بابا صاحب غزنی دروازہ کے قریب ایک حجرہ میں رہنے لگے۔ آپ اپنے پیر و مرشد حضرت قطب صاحب کے فرمان کے مطابق عبادات، ریاضات اور مجاہدات میں لگے رہتے۔ اس زمانے میں آپ نے سخت سے سخت ریاضتیں کیں۔ آپ اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں روزانہ حاضر نہیں ہوتے تھے بلکہ دو ہفتہ کے بعد اپنے پیر و مرشد کے جمال پر انوار سے مشرف ہوتے تھے یہ

حضرت بابا فرید الدین گنج شکرؒ ابھی ریاضات و مجاہدات میں مشغول تھے کہ اجیر سے حضرت خواجہ غریب نواز دہلی تشریف لائے اور حضرت قطب صاحب کی خانقاہ میں قیام فرمایا۔ خواجہ غریب نواز کا دہلی میں قیام دہلی والوں کے لئے باعث برکت تھا۔ اب روحانی فیض کا چشمہ ان سے قریب تھا۔ عرفان کی بارش ہو رہی تھی۔ ہر قسم کی دولت تقسیم ہو رہی تھی۔ ہر شخص چاہتا تھا کہ اپنا دامن مراد بھر لے۔ ہر ایک کی قیمت تھی اور اس کا دامن تھا۔

حضرت قطب صاحب کے حصے میں وہ نعمت آئی کہ جس پر جتنا بھی فخر کیا جائے کم ہے۔ حضرت قطب صاحب نے اپنے مریدوں کو خواجہ غریب نواز کے حضور میں پیش کیا۔ ہر ایک اپنی قابلیت اور استطاعت کے مطابق خواجہ غریب نواز سے فیض یاب ہوا۔ جب خواجہ غریب نواز جی بھر کے عرفان کی دولت لٹ چکے تو آپ نے خود ہی حضرت قطب صاحب سے دریافت فرمایا:

”تہا سے مریدوں میں سے کیا کوئی نعمت پانے سے رہ گیا ہے؟“

اے مالک السالکین۔ فرشتہ

قطب صاحب نے عرض کیا :

”مسعود (بابا فرید الدین گنج شکر) رہ گیا ہے۔ وہ چلہ میں بیٹھا ہے“

یہ سن کر خواجہ غریب نواز کھڑے ہو گئے اور قطب صاحب سے مخاطب

ہو کر آپ نے فرمایا :

”آؤ، اسے دیکھیں“

حضرت خواجہ غریب نواز اور حضرت قطب صاحب اس مقام پر تشریف

لے گئے جہاں حضرت بابا فرید گنج شکر چلہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاں پہنچ کر

چلہ کا دروازہ کھولا وہاں بابا صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ اتنے کم زور ہو گئے تھے

کہ خواجہ غریب نواز اور حضرت قطب صاحب کی تعظیم کے واسطے کھڑے نہ ہو سکے

باچشم پر آب سر نیاز زمین پر رکھ دیا۔

حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کا یہ حال دیکھ کر خواجہ غریب نواز نے

حضرت قطب صاحب سے فرمایا :

”اے قطب! کب تک اس بے چارے کو مجاہدہ میں گھلاؤ گے۔

آؤ اسے کچھ عطا کریں“

یہ کہہ کر خواجہ غریب نواز نے حضرت بابا فرید گنج شکر کا داہنا ہاتھ پکڑا حضرت

قطب صاحب نے بائیں بازو پکڑا۔ اس طرح ہر دو بزرگوں نے بابا صاحب کو کھڑا

کیا۔ خواجہ غریب نواز نے آسمان کی طرف منہ کر کے بارگاہ ایزدی میں بابا فرید الدین

گنج شکر کے واسطے دعا فرمائی۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے عرض کیا :

”خدا یا! ہمارے فرید کو تسبیل فرما اور اکل درویش کے مرتبہ پر

پہنچا“

غیب سے ندا آئی :

”ہم نے فرید کو قبول کیا۔ یہ وحید عصر ہوگا“

حضرت خواجہ غریب نواز نے پھر حضرت قطب صاحب کو اس امر کی تاکید

کی اور ہدایت فرمائی کہ:

”اسم اعظم جو خواجگانِ چشت میں سینہ بہ سینہ چلا آتا ہے

اسے تلقین کرو“

اس اسم اعظم کی برکت سے، حضرت بابا صاحب خداری سید ہو گئے۔ آپ پر

علم لدنی کا انکشاف ہوا، اور عجایب کے پردے اکٹھے ہو گئے۔

خواجہ غریب نواز نے بابا صاحب کو خلعت سے سرفراز فرمایا۔

حضرت قطب صاحب

حضرت بابا صاحب کا خلافت کے سرفراز ہونا نے حضرت بابا

فرید الدین گنج شکر کو دستار، مثال، اور خلافت کے دیگر لوازمات سے نوازا۔

اس موقع پر خواجہ غریب نواز نے حضرت

بابا صاحب کے متعلق پیش گوئی

بابا صاحب کے متعلق پیش گوئی فرمائی

آپ نے حضرت قطب صاحب کو مخاطب کر کے فرمایا:

”قطب! بڑے شہباز کو دام میں لائے۔ اس کا آشیانہ

صدرۃ المنتهی ہوگا“

اس محفل میں صوفیائے کرام، پیرانِ عظام اور شاہنشین والا احترام موجود تھے

قاضی عیاد الدین ناگوری، مولانا علی کرمانی، سید نور الدین غزنوی، مولانا مبارک، شیخ

نظام الدین ابوالموائمہ، مولانا شمس الدین ترک، خواجہ محمد مونیہ دوزاد اور دیگر اصحاب

موجود تھے۔

ایک شاعر نے جو اس مبارک موقع پر موجود تھا، فی البدیہہ حسبِ ذیل اشعار پڑھے

بخشش کوین از سخنین شد و رباب تو باد شاهی یافتن از بادشاہان جہاں
 ملک دنیا و دین گشتہ سلم بر ترا عالم گن گشتہ اقطاع تو اے شاہ جہاں
 حضرت قطب صاحب اپنی والدہ محترمہ سے ملنے کے
 سفرِ اوش اور واپسی لے بے چین تھے۔ آپ ۶۰۲ھ میں اپنی والدہ محترمہ
 کی قدم بوسی کی غرض سے اوش تشریف لے گئے۔

اوش سے آپ بغداد تشریف لے گئے۔ وہاں آپ حضرت شیخ شہاب الدین
 عمر سہروردی اور شیخ احمد الدین کرمانی سے ملے۔ ان کے علاوہ اور کئی دیگر شاہین
 کبار سے ملے۔

بغداد میں آپ کو حضرت جلال الدین تبریزی سے معلوم ہوا کہ آپ کے پیرو
 مرشد حضرت خواجہ معین الدین حسن سمرقانی خراسان سے ہندوستان تشریف لے گئے
 ہیں اور وہی میں قیام ہے۔

جب حضرت قطب صاحب کو یہ خبر
 ملتان میں آمد ۶۱۲۱۴ھ / ۶۱۱ھ ملی تو آپ اپنے پیرو مرشد کی قدم بوسی
 کے شوق میں ہندوستان روانہ ہو گئے۔ شیخ جلال الدین تبریزی آپ کے ساتھ ہوئے۔
 آپ مع شیخ جلال الدین تبریزی ملتان میں رونق افروز ہوئے۔ یہ زمانہ سلطان
 شمس الدین لہنس کا تھا۔ قباچہ بیگ ملتان کا حاکم تھا۔ ملتان میں حضرت بہار الدین
 زکریا ملتانی رشد و ہدایت فرما رہے تھے۔

قباچہ بیگ کی درخواست ۶۱۲۱۴ھ / ۶۱۱ھ حضرت قطب صاحب
 نے وہی کا قصد کیا۔

۱۵ سالک الالکین جلد دوم ۱۵ سالک الالکین جلد دوم۔ فرشتہ جلد دوم۔

تباہ بیگ آپ کو ملتان میں روکنا چاہتا تھا۔ اس نے بعد ما جزی حضرت قطب صاحب سے عرض کیا کہ حضور ملتان میں سکونت اختیار فرمائیں۔

حضرت قطب صاحب نے اس کی یہ درخواست منظور نہ کی، آپ نے فرمایا: "یہ مقام عالم غیب سے شیخ بہا الدین ذکر ریا کے ذمہ لکھا گیا ہے۔

علاوہ ازیں میں اپنے پیرو مرشد خواجہ معین الدین کی اجازت کے بغیر کہیں بھی سکونت پذیر نہیں ہو سکتا"۔

حضرت قطب صاحب دہلی روانہ ہو گئے۔ ملتان

روائی ۶۱۲۱۳/۶۱۱ھ سے آپ لاہور پہنچے، اور لاہور سے آپ دہلی میں

رونق افروز ہوئے۔ شیخ جلال الدین تبریزی یہاں سے واپس غزنی تشریف لے گئے۔

ملتان میں حضرت قطب صاحب سے لوگ بیعت کرنا چاہتے تھے لیکن

حضرت قطب صاحب نے اس وجہ سے منع فرمایا کہ ملتان کو حضرت شیخ بہا الدین

ذکر یا ملتان کی ولایت سے علاقہ ہے۔

حضرت قطب صاحب جب ملتان سے روانہ ہوئے تو کچھ لوگ آپ کے

ہمراہ ہوئے۔ آپ نے ان لوگوں کو ملتان کی حدود سے باہر مقام ہانسی شرف

بیعت سے نوازا۔

حضرت قاضی حمید الدین ناگوری کا خواب

حضرت قاضی حمید الدین ناگوری نے اسی زمانہ میں ایک خواب دیکھا:

آفتاب جہاں تاب نے دہلی میں آکر ملک کو روشن کر دیا ہے اور

۱۵ فرشتہ جلد دوم۔ ۱۵ سالک اسالین جلد دوم۔

وہ ان کے گھر میں آیا ہے اور کہتا ہے کہ میں تیرے گھر میں رہوں گا۔

جب اس خواب کی تعبیر لی تو معلوم ہوا کہ

آفتاب سے مراد وہی کامل ہے جو وہلی میں رونق افروز ہوگا اور

قاضی صاحب کے گھر میں سکونت پذیر ہوگا۔

حضرت قطب صاحب نے وہلی پہنچ کر کیلو کرڈی میں قیام فرمایا۔

آپ کی جائے قیام کافی قاصد پر تھی۔ لوگوں کو اور خود بادشاہ کو

وہاں آنے جانے میں کافی وقت لگتا تھا۔

سلطان شمس الدین التمش نے حضرت خواجہ

قطب صاحب سے عرض کیا، کہ اگر آں حضرت

بجائے کیلو کرڈی کے ہر وہلی میں رہنے لگیں تو وہ خود اور لوگ دور دراز سے آنے جانے کی تکلیف سے بچ جائیں گے۔ سلطنت کے کام میں بھی کوئی ہرج نہ ہوگا، اور لوگوں کو بھی سہولت پہنچے گی۔

حضرت قطب صاحب نے ازراہ غایت و کرم سلطان شمس الدین التمش کی

درخواست منظور فرمائی۔ آپ کیلو کرڈی سے ہر وہلی تشریف لے آئے پہلے ایک

کابینائی کے یہاں قیام فرمایا۔ یہ نانیائی حضرت قطب صاحب سے عقیدت رکھتا تھا۔

حضرت قاضی حمید الدین ناگوری پھر آپ کو اپنے گھر لے آئے۔ کچھ دن

بعد آپ نے وہاں قیام فرمایا۔ پھر آپ نے مسجد اعزا الدین کے قریب رہنا سہنا شروع کر دیا۔

حضرت جمال الدین محمد بسطامی ادہلی میں شیخ الاسلام کے

جلیل عہدہ پر فائز تھے۔ ان کے انتقال کے بعد سلطان

دوسری درخواست

۱۵ سیر الاقطاب منہ ۱۵ سیر العارفين ۱۲۱۔ ۱۵ مالک التالکین۔

شمس الدین التمش کی خواہش تھی کہ حضرت قطب صاحب یہ عہدہ قبول فرمائیں۔
جب سلطان التمش نے حضرت قطب صاحب سے اس امر کی درخواست کی تو آپ
نے عہدہ قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ سلطان التمش نے آئندہ کار شیخ
نجم الدین صغریٰ کا اس عہدہ پر تقرر کیا۔

حضرت قطب صاحب کو اپنے پیرو مرشد حضرت خواجہ
آپ کا معروضہ معین الدین حسن چشتیؒ کی قدم بوسی کا بے حد اشتیاق تھا۔
آپ نے حضرت خواجہ غریب نواز کی خدمت میں ایک درخواست امبیز بھیجی۔ اس
درخواست میں آپ نے شوق قدم بوسی کا اظہار کیا اور خدمت میں حاضر ہونے کی
اجازت چاہی۔

حضرت خواجہ غریب نواز نے جواب دیا :
” اگرچہ در ظاہر بعد است اما در باطن قرب است ہما بخا
باید بود۔۔۔۔۔“

ترجمہ : اگرچہ ظاہر میں دوری ہے، لیکن روحانی طور پر قریب
ہو۔ وہیں رہو۔“

حضرت خواجہ

خواجہ غریب نواز کی دہلی میں آمد ۱۲۱۴ھ / ۱۸۱۱ھ غریب نواز

نے حضرت قطب صاحب کو دہلی آنے سے منع فرما دیا تھا۔ آپ نے نفس نفیس دہلی تشریف
لے گئے۔ آپ نے حضرت قطب صاحب کی خانقاہ میں قیام فرما کر حضرت قطب صاحب
کی عزت افزائی فرمائی۔ دہلی میں کچھ دن قیام فرما کر اور عرفان کی دولت لٹا کر

۱۵ سالک التاکیں ۲۰ سفینۃ الاولیاء ص ۹۵ سالک التاکیں جلد دوم ص ۲۹۹، خزینۃ الاصفیاء جلد اول ص ۲۶۸۔

خواجہ غریب نواز امیر واپس تشریف لے آئے۔

اس مرتبہ حضرت خواجہ غریب نواز بغیر
دوسری مرتبہ ۱۲۲۲ھ ۶۲۱ھ اطلاق دہلی میں رونق افروز ہوتے لے
حضرت قطب صاحب کو سخت تعجب ہوا۔

اس مرتبہ حضرت خواجہ غریب نواز ایک کسان کی سفارش اور اپنے فرزند
حضرت خواجہ فخر الدین کے لئے موضع ماندن کی معافی کی غرض سے دہلی تشریف
لے گئے تھے۔

حضرت قطب صاحب کو جب یہ معلوم ہوا تو آپ سلطان شمس الدین
التمش کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ نے کسان کا معاملہ کسان کے حق میں طے
کرا دیا۔ خواجہ غریب نواز کو نہیں جانے دیا۔ آپ نے موضع ماندن کی معافی کا
فرمان غریب نواز کے فرزند حضرت خواجہ فخر الدین کے حق میں حاصل کیا۔

شیخ نجم الدین صغریٰ دہلی میں شیخ الاسلام تھے۔ خواجہ غریب نواز کے
بے رُحی ان سے دیرینہ تعلقات تھے۔ خراسان میں ملاقات ہو چکی تھی۔
خواجہ غریب نواز سے دہلی میں سب ملنے آئے لیکن نجم الدین صغریٰ نہ آئے خواجہ
غریب نواز کو تعجب ہوا کہ وہ کیوں نہ آئے۔ آپ خود ہی ان سے ملنے ان کے مکان پر
تشریف لے گئے۔

اس وقت شیخ نجم الدین صغریٰ ایک صوفی تعمیر کر رہے تھے۔ انہوں نے
خواجہ غریب نواز کی طرف سے بے رُحی برتی۔ اس بے رُحی کے برتاؤ سے خواجہ
غریب نواز کورنج ہوا۔

لے تفصیل "میں الہند" ص ۱۰۴، ۱۰۵ میں درج ہے۔

آپ نے شیخ نجم الدین صغریٰ سے فرمایا :

”اے نجم الدین! ایسی کیا تجھ پر بلا آئی کہ شیخ الاسلامی کے نقشے میں

انسانیت سے درگزرا، اور راہ و رسم دیرینہ اور وضع داری قدیم

کو یک بارگی ترک کیا۔“

شیخ نجم الدین صغریٰ یہ سن کر شرمندہ ہوئے۔ آپ نے خواجہ غریب نواز کے

قدموں پر سر رکھا۔ معذرت کے خواہاں ہوئے اور عرض کیا :

آپ سے رشک و حسد

”میں پہلے جیسے آپ کا مخلص تھا، ویسا ہی اب ہوں، مگر

قطب الدین کا کی نے میری منزلت برباد کر دی ہے۔ جب

سے وہ آپ کا مرید یہاں آیا ہے تمام مخلوق اس کی طرف

رجوع ہے، میں برائے نام شیخ الاسلام ہوں، کوئی میری پرستش

نہیں کرتا۔“

دراصل شیخ نجم الدین صغریٰ کو خواجہ غریب نواز سے شکایت تھی کہ اے

”تو خلیفہ خود را در این جا گذاشتی کہ ہمہ مردم شہر دہلی بر درشش

چنداں ہجوم دارند کہ کسے مرا یک برگ سبزے ہم یاد نمی کند۔“

ترجمہ : آپ نے اپنے خلیفہ کو اس جگہ چھوڑ دیا ہے۔ دہلی کی ساری

مخلوق اس کے در پر جمع رہتی ہے اور مجھ کو ایک سبز پتے سے بھی کوئی

یاد نہیں کرتا۔ کوئی میری پرستش نہیں کرتا۔

اجمیر کو روانگی یہ سن کر خواجہ غریب نواز مسکرائے۔ آپ نے شیخ نجم الدین صغریٰ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا :

”تو خاطر جمع رکھ۔ میں اس بار گراں کو جو تیرے دل پر ہے، اپنے

ہمراہ اجمیر لے جاؤں گا۔“

دہلی سے روانگی کے وقت حضرت خواجہ غریب نواز نے حضرت قطب صاحب

سے فرمایا :

”بابا قطب الدین تو ہمراہ ہم بیا کہ بعضے مرد ماں ایں حساب از تو

ناما من اند۔“

ترجمہ : بابا قطب الدین تم بھی میرے ہمراہ آؤ (چلو) کیوں کہ

بعض لوگ تم سے یہاں خفا ہیں۔

خواجہ غریب نواز نے دہلی سے اجمیر کو روانہ ہوتے وقت حضرت قطب صاحب

کو اپنے ہمراہ لیا پس حضرت قطب صاحب برکاب سعادت اپنے پیرو مشد روانہ ہوئے۔

یہ خبر سارے شہر میں پھیل گئی۔ لوگ آپ کے پیچھے بولتے۔ حضرت قطب صاحب دہلی

میں اس قدر ہر دل عزیز تھے کہ آپ کی جدائی کسی کو گوارا نہ تھی۔ سلطان شمس الدین

التمش کو جب یہ خبر ملی تو وہ خواجہ غریب نواز کی خدمت میں حاضر ہوا، اور آپ سے

عرض کیا :

”حضور! قطب صاحب کو اجمیر نہ لے جائیں یہیں رہنے دیں۔“

خواجہ غریب نواز کو لوگوں کی دل شکنی پسند نہ تھی جب آپ نے دیکھا کہ

دہلی کے لوگ حضرت قطب صاحب کے جانے سے رنجیدہ ہیں تو آپ نے حضرت

قطب صاحب سے فرمایا :

• بابا قطب! تم یہیں رہو۔ تمہا لکے جانے سے اہل شہر پریشان و
بے قرار ہیں، میں نہیں چاہتا کہ اتنے لوگوں کے دلوں کو تمہاری
آنکھ سدائی سے کباب کروں۔ میں نے اس شہر کو تمہاری حمایت
میں چھوڑا۔“

حسب فرمان پیر و مرشد حضرت قطب صاحب واپس آگئے، اور دہلی میں
رہنے لگے۔

شوق قدم بوسی کچھ مدت دہلی میں قیام فرمانے کے بعد حضرت قطب صاحب
اپنے پیر و مرشد کی قدم بوسی کے لئے بے چین ہوئے۔ آپ
نے ایک عریضہ اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتیؒ کی خدمت اقدس
میں بھیجا۔

آپ کے پیر و مرشد کا جواب آیا کہ :

• مانیزی خمستیم تا آن فرزندار جہند را بطلم و راہی اشنہ
ما سلا رسید۔ می باید کہ زود بیایند کہ این ملاقات آخریت در دنیا
ترجمہ : میں بھی چاہتا تھا کہ فرزندار جہند کو بلاؤں کہ اسی اشنہ میں
ملا سلا ملا۔ تم کو چاہئے کہ جلد آؤ کہ یہ ملاقات اس دنیا میں آخری ہے۔

حضرت قطب صاحب یہ جواب ملتے ہی امیر شریف
رعانہ ہو گئے۔ امیر پوچھا کہ آپ اپنے پیر و مرشد حضرت
خواجہ معین الدین حسن چشتیؒ کے دیدار سے مشرف ہوئے۔ خدمت بابرکت میں رہنے لگے۔

۱۵ سیرالقطاب (فارسی) ص ۱۵۰

آخری مجلس کے حالات حضرت قطب صاحب نے اس طرح تحریر فرمائے ہیں:

..... چوں خواجہ این تمام کرد بگریست۔ فرمود کہ اے درویش!

مارا کہ ایں جا آورده اند مدفن ما ایں جا خواهد بود۔ میان چند روز

ما سفر خواہیم کرد۔

ترجمہ:..... حضرت خواجہ یہ فرما کر رونے لگے۔ فرمایا کہ اے

درویش اس سرزمین میں جو مجھے پہنچا گیا ہے تو اس کا سبب یہی ہے کہ

یہیں میری قبر بنے گی۔ چند دنوں میں ہم سفر کریں گے۔

تبرکات کی سپردگی اسی مجلس میں حضرت خواجہ غریب نواز نے احکام نامہ

فرمائے۔ حضرت قطب صاحب تحریر فرماتے ہیں:

شیخ علی سجری حاضر بودند اور فرمان شد کہ مثال بنویس بردست

شیخ قطب الدین بختیار کاکی مابده تا در وہلی رود کہ خلافت

اورا وادیم کہ وہلی تمام اوست۔

بعد ازاں مثال تمام شد۔ بردست دعا گو داد۔ روتے بر زمین

آورد۔ فرمان شد کہ نزدیک بیا۔ نزدیک تر شدم۔ دستار

باکلاه بر سر من بردست خود نهاد، عصائے شیخ عثمان ہارونی رم

ورداء در برد دعا گو کرد، مصلحت و مصلحت نیز داد۔

فرمود ایں امانتے است از رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔

از خواجگان چشت ہمار سیدہ است من ترا وادام۔ باید کہ چنانچہ

از ایشان ما بجا آوریم شما نیز حق ایں بجا آرید۔ تا فرمائے قیامت

لے دلیل العارفين لے دلیل العارفين۔

میان خواجگان مارا شرمندہ نگر دانی۔

ترجمہ : شیخ علی سبزی حاضر تھے۔ ان کو حکم دیا کہ فرمان لکھا جائے اور ہمارے شیخ قطب الدین بختیار کاکی کو دیا جائے تاکہ وہ وہلی جائے۔ ہم ان کو خلافت دیتے ہیں، اور وہلی ان کے قیام کے لئے تجویز کرتے ہیں۔

پھر جب فرمان مکمل ہو گیا۔ دعا گو (قطب صاحب) کو عطا فرمایا۔ میں آداب بجالایا۔ حکم ہوا کہ نزدیک آ۔ میں اور نزدیک ہو گیا۔ دستار اور کلاہ اپنے دست مبارک سے میرے سر پر رکھا۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی کا عصا اور خرقہ عنایت فرمایا۔ قرآن مجید اور مصلابھی عنایت فرمایا۔ ارشاد فرمایا فرمایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس امانت ہے جو خواجگان چشت کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے، میں تم کو یہ سونپ رہا ہوں۔ تم کو لازم ہے کہ جس طرح ہم نے ان چیزوں کو اپنے پاس رکھا ہے، تم بھی اسی طرح رکھو گے، تاکہ کل قیامت کے دن خواجگان کے سامنے مجھے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔

حضرت قطب صاحب فرماتے ہیں کہ اس کے بعد
”دعا گو سر بر زمین آورو۔ دو گانہ نماز گلا رو۔

فرمود، برو۔ بخدا سپردم و ترا بمنزل گاہ عزت رسانیدم“
ترجمہ : دعا گو (قطب صاحب) پھر آداب بجالایا۔ دو رکعت

لہ دلیل العارفين۔

نماز شکرانہ ادا کی۔

ارشاد ہوا، جاؤ۔ میں نے تم کو خدا کے سپرد کیا، اور تمام عزت اور بزرگی پر فائز کیا۔

حضرت قطب صاحب کے پیرو مرشد خواجہ غریب نواز نے آپ کو نصیحت فرمائی کہ چار باتیں بڑی خوبی

پیرو مرشد کی نصیحت

کی ہیں۔ ان پر عمل کرنا باعث خیر و برکت ہے۔ ان چاروں باتوں میں سے پہلی بات تو ایسی درویشی ہے کہ جس سے تو نگری ظاہر ہو۔

دوسری بات بھوکوں کا پیٹ بھرنا ہے۔

تیسری بات یہ ہے کہ غم کی حالت میں خوشی کا اظہار کرے۔

چوتھی بات یہ ہے کہ اگر کوئی دشمنی سے پیش آئے تو جواب میں دوستی کا مظاہرہ کرے۔

اس آخری مجلس کا واقعہ ہے حضرت خواجہ غریب نواز نے حضرت قطب صاحب سے فرمایا:

پیرو مرشد کی دعا

”آؤ“

حضرت قطب صاحب آگے بڑھے۔ قدم بوس ہوئے۔ خواجہ غریب نواز نے فاتحہ خیر پڑھ کر فرمایا:

”رہنے نہ خراشی۔ مرد شدہ بیاش“

ترجمہ: رنجیدہ خاطر نہ ہون۔ مرد بن کر رہو۔

حضرت قطب صاحب اپنے پیرو مرشد سے رخصت ہو کر دہلی واپس تشریف لائے اور دہلی میں سکونت اختیار کر کے

اجمیر سے واپسی

لہ دلیل العارفين۔

بقیہ عمر وہیں گزار دی۔

آپ کی روانگی کے میں دن بعد آپ کے پیرومرشد حضرت خواجہ
عظیم صمدی معین الدین چشتی واصل بحق ہوئے۔

آپ کا خواب
جس دن آپ کو اپنے پیرومرشد کی وفات شریف کی خبر
موصول ہوئی آپ حالت غم و رنج میں مصلے پر نماز پڑھ کر لیٹ
ہے۔ آپ نے اپنے پیرومرشد کو خواب میں دیکھا، آپ قدم بوس ہوئے کیفیت
حال دریافت کی۔ ارشاد ہوا کہ سہ

”خداوند تعالیٰ نے رحمت خاص سے نوازا اور فرشتوں اور

ساکنانِ عرش کے نزدیک جگہ دی۔ میں یہیں رہتا ہوں۔“

آپ کی پہلی شادی آپ کے وطن اوش میں ہوئی تھی۔ آپ
ازواج و اولاد کی والدہ ماجدہ نے آپ کا عقد ایک خاتون کے ساتھ

کر دیا۔ تین روز بعد حضرت قطب صاحب نے بیوی کو طلاق دے دی۔ اس شادی سے
آپ کے اوراد میں فرق آیا اور یہ بات آپ کو گوارا نہ ہوئی۔

حضرت قطب صاحب کا ورد تھا کہ رات کو سوتے وقت تین ہزار مرتبہ درود

شریف پڑھا کرتے تھے جو درود شریف آپ پڑھتے تھے وہ یہ ہے :

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَحَبِيبِكَ وَرَسُولِكَ

الْبَيْتِ الْأَمِيِّ وَالْإِهْلِ وَسَلِّمًا

شادی کے بعد آپ تین شب درود شریف نہ پڑھ سکے۔

تیسرے دن آپ کے ایک مرید نے جن کا نام رئیس احمد تھا، خواب دیکھا کہ

ایک عالی شان محل ہے، خلقت کا ہجوم ہے، اور ایک شخص جس کی صورت لورانی ہے، محل میں بلا تکلف آ جا رہے ہیں۔ لوگوں کا پیغام لے کر محل میں جاتے ہیں، اور پیغام کا جواب لے کر باہر آتے ہیں۔ — آہوں (رئیس احمد) نے محل اور ان بزرگ کے متعلق ایک شخص سے معلوم کیا۔ اس شخص نے ان کو بتایا کہ سرورِ عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس محل میں تشریف رکھتے ہیں اور وہ بزرگ جو آتے جاتے ہیں، ان کا نام حضرت عبداللہ بن مسعود ہے۔

رئیس احمد یہ سُن کر حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس گئے اور ان سے عرض کیا، کہ ان کا پیغام بھی سرورِ عالم کو پہنچا دیں کہ وہ بھی دیدارِ شمس الانوار کا مشتاق ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود یہ پیغام لے کر محل میں گئے اور وہاں سے جواب لاتے کہ سرورِ عالم کا اشارہ ہے کہ

”ابھی اس شخص میں میرے دیدار کی اہلیت اور لیاقت نہیں ہے، میرا سلام قطب الدین اوشی کو پہنچا اور میری طرف سے کہنا کہ کیا بات ہے کہ جو تھوڑے ہر رات ہمارے پاس بھیتے تھے اب تین رات سے نہیں بھیکتا۔“

رئیس احمد کی آنکھ کھلی تو آپ سرورِ عالم کا یہ پیغام پہنچانے کے لئے بہرین تھے۔ آپ نے حضرت قطب صاحب کی خدمت میں حاضر ہو کر خواب سنایا۔ قطب صاحب نے جو سرورِ عالم کا پیغام سنا تو کھڑے ہو گئے، اور رئیس احمد سے پوچھنے لگے: ”اے کیا فرمایا ہے؟“

رئیس احمد نے عرض کیا کہ سرورِ عالم نے فرمایا ہے کہ ”جو تھوڑے تم مجھے ہر شب بھیکتا کرتے تھے وہ تین شب سے کیوں نہیں بھیکتا۔“

حضرت قطب صاحب فوراً سمجھ گئے کہ تھوڑے سے کیا مراد ہے بشادی کی

وجہ سے تین رات سے درود شریف ناتمہ ہو گیا تھا۔ پس :

”خواجہ ہمال نے کہ خواستہ بود بطلبیدہ و ہرا و بدور سائید
و طلاق داد باز یہ اور او و طائف خود مشغول گشت“ لے

ترجمہ : خواجہ نے (قطب صاحب) اس عورت کو جس سے آپ
کی شادی ہوئی تھی بلایا اور اس کا ہر اس کے حوالے کیا، اور
اس کو طلاق دے دی، اور پھر اپنے اور او و طائف میں مشغول
ہو گئے۔“

اس کے بعد آپ نے ایک مدت تک شادی نہیں کی۔

دوسرا نکاح آپ نے دوسری شادی دہلی میں سکونت اختیار کرنے کے بعد
کی۔ یہ شادی آپ نے آخری عمر میں کی لے آپ کے در لڑکے

ہوتے، ایک لڑکے کا نام احمد تھا اور دوسرے کا نام شیخ محمد تھا۔ شیخ محمد کا سات
سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ جب اُن کے انتقال پر اُن کی والدہ کے رونے کی
آواز حضرت قطب صاحب کے کانوں تک پہنچی تو آپ نے شیخ بدرالدین سے
پوچھا کہ ”یہ رونے کی آواز ہمارے گھر سے کس وجہ سے آرہی ہے“

انہوں نے عرض کیا : ”حضور کے صاحبزادے شیخ محمد کا انتقال ہو گیا

ہے۔ اُن کی والدہ رورہی ہیں“

یہ سن کر حضرت قطب صاحب نے فرمایا کہ افسوس اُن کو خبر نہ ہوئی۔

اگر ان کو خبر ہوتی تو وہ خداوند تعالیٰ سے اس کی زندگی مانگتے اور اگر :

”می خواستم می یافتم“۔ اگر مانگتا تو ضرور پاتا۔

لے اقتباس الانوار لے ایضاً۔

آپ اپنی اہلیہ محترمہ کو صبر کی تلقین فرما کر مراقبہ میں پھر مشغول ہو گئے یہ
 آپ کی نسل آپ کے بڑے صاحبزادے خواجہ احمد سے چلی۔ آپ خواجہ
 محمد تاجی کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ بلند پایہ بزرگ تھے۔
 وفات سے قبل ایک عید کے موقع پر حضرت قطب صاحب عیدگاہ سے
 مدفن واپسی پر ایک افتادہ اور غیر آباد زمین پر تشریف لائے یہی وہ مقام
 ہے جہاں اب آپ کا مزار مبارک ہے۔ یہاں کچھ دیر تک آپ سوچا سوچا رہے
 رہے۔ جو لوگ ہمراہ تھے انہوں نے عرض کیا کہ "حضور کس شکر میں ہیں؟" آپ نے
 جواب دیا کہ: "اے

"مرا زمین زمین بونے دلہائی آید۔ مالک اس زمین را حاضر کنید"
 ترجمہ: مجھ کو اس زمین سے دلوں کی بول آتی ہے۔ اس زمین کے
 مالک کو حاضر کرو۔

مالک زمین حاضر ہوا۔ حضرت قطب صاحب نے اس زمین کو اپنے زرِ خالص
 سے خرید لیا اور اس زمین کو اپنے مدفن و مرقدِ مطہر کے لئے مقرر کر لیا۔
 اس جگہ کو جہاں حضرت قطب صاحب کا مزار
 مبارک ہے خاص فضیلت حاصل ہے۔ حضرت
 سلیمان علیہ السلام کا تخت اڑتے اڑتے ایک بار اس جگہ پہنچا، جہاں حضرت
 قطب صاحب کا جائے مدفن ہے۔ آپ کو یہ دیکھ کر سخت تعجب ہوا کہ عرش سے
 فرش تک نور ہی نور ہے، اور نور کے طبق فرشتے آسمان سے لارہے ہیں اور اس
 زمین پر ڈال رہے ہیں۔ حضرت سلیمان نے دریافت فرمایا کہ یہ خوب صورت جگہ

۱۵ فرشتہ جلد دوم صفحہ: ۲۸۰، ۲۸۱ ۱۵ سیر الاقطاب (فارسی) صفحہ: ۱۵۹ -
 ۱۵ سیر الاقطاب (فارسی) صفحہ: ۱۵۹۔ سیر الاولیاء مالک اس لکین۔

اور یہ پرفضا مکان کس مرد باصفا کا مسکن یا مدفن ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ سہ
 "ایں سرزمین مسکن و مدفن خواجه قطب الدین محبوب اللہ است
 کہ در امت رسول اللہ آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پیدا خواہد بود و ہم
 دریں بقعہ خواہد آسود"۔

یہ سرزمین مسکن و مدفن اللہ کے محبوب خواجه قطب الدین
 کا ہے کہ پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی
 امت میں پیدا ہوں گے اور اس جگہ آسودہ ہوں گے۔

ایک روز شیخ علی سنجر کی خانقاہ میں محفل مباح ہو رہی تھی۔ صاحب
 آخری ایام حال اور اہل کمال درویش محفل میں شریک تھے۔ حضرت قطب صاحب
 بھی نفس نفیس تشریف رکھتے تھے۔ قوال یہ شعر پڑھ رہے تھے:

عاشق رویت کجا بیند مکیں

بستہ رویت کجا یا بد خلاص

حضرت قطب صاحب پر وجد طاری ہوا۔ قوال اس شعر کو کچھ دیر تک گاتے
 رہے۔ اس کے بعد قوالوں نے حضرت احمد جام کی غزل گانا شروع کی۔ جب
 صلاح الدین اور اس کے لڑکوں، کریم الدین اور نصیر الدین نے یہ شعر پڑھا ہے

کشتگان خنجر تسلیم را

ہرزماں از غیب جان دیگر است

تو حضرت قطب صاحب پر ایسا وجد طاری ہوا کہ آپ اس کیفیت میں بے ہوش ہو گئے
 قاضی حمید الدین ناگوری اور شیخ بدر الدین غزنوی آپ کو اسی حالت میں مکان

لائے، قوال بھی ساتھ آئے۔ قوالی ہوتی رہی۔ جب آپ کو کسی قدر ہوش آتا تو آپ اس شعر کی تکرار کا حکم فرماتے اور پھر آپ پر وجد طاری ہو جاتا۔ چار روز تک آپ پر یہ کیفیت رہی۔ آپ بے ہوش تھے۔ نماز کے وقت آپ کو ہوش آ جاتا۔ آپ نماز ادا کرتے، اور پھر وہی حالت ہو جاتی۔

تیسرے روز آپ کے ہر بطن منہ سے تسبیح اسم ذات کی آواز آتی تھی اور ہر بطن منہ سے خون کے قطرے ٹپکنے لگتے، جو قطرہ زمین پر گرتا اس سے نقش اللہ پیدا ہوتا اور اس دل کش نقش سے اللہ کی آواز آتی تھی۔ دوسرے روز ہر بطن منہ سے سبحان اللہ کی آواز آتی تھی اور خون کا قطرہ جو گرتا اس سے نقش سبحان اللہ ظاہر ہوتا۔

قوالی جاری رہی۔ جب قوال پہلا مصرعہ پڑھتے تو حضرت قطب صاحب کے قائب سے روح مبارک غائب ہو جاتی اور جب قوال دوسرا مصرعہ پڑھتے، تو روح مبارک واپس آ جاتی۔ جب آپ آہ کرنا یا نعرہ لگانا چاہتے تو قاضی حید الدین ناگوری آپ کا دہن مبارک بند کرتے اور کہتے کہ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ مادی دنیا کو جلادیں۔ آپ کا دہن مبارک تو بند رہا، لیکن آپ کا جسم مبارک سوختہ و گد رختہ ہو گیا۔

آپ کی نبض دیکھ کر حکیم شمس الدین نے کہا :
 "یہ مرض عشق ہے۔ آتش عشق نے دل و جسم کو بالکل جلادیا ہے۔
 اب علاج کی کوئی گنجائش نہیں۔"

آپ پر ۱۰ ربیع الاول ۶۲۲ھ کو کیفیت طاری ہوئی تھی۔ چار شبانہ روز یہی حالت رہی۔ پانچویں شب میں جب کہ مصرعہ اولیٰ کی تکرار ہو رہی تھی قطب لاقطاب۔

۱۔ سیر الاقطاب (فارسی) صفحہ : ۱۶۰۔ سالک اتا لکین جلد دوم، خزینۃ الانبیاء
 ۲۔ روزغۃ الاقطاب صفحہ : ۶۹۔ سالک اتا لکین جلد دوم

حضرت قطب الدین تختیار کاکیؒ نے ۱۴ ربیع الاول ۶۴۲ھ مطابق ۲ نومبر ۱۲۲۵ء کو رحلت فرمائی۔

آپ کی وفات کی خبر و ہشت اثر سے دہلی میں کہرام مچ گیا۔ سلطان شمس الدین التمش، دہلی کے فقراء، مشائخ، صوفی، عوام اور خواص غرض سب ہی نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔

جنازہ جب تیار ہو گیا تو مولانا ابو سعید نے حضرت قطب صفا
آپ کی وصیت

کی وصیت بیان کی۔ آپ نے کہا کہ:

”حضرت خواجہ ماوصیت فرمودہ کہ امامت جنازہ من کے کندک
از او بندش بحرام نہ کشادہ باشد و سنت نماز عصر و تکبیر اولے
گا ہے از وفوت نہ شدہ باشد“

ترجمہ : ہمارے خواجہ نے وصیت فرمائی ہے کہ میرے جنازہ کی
نماز وہ شخص پڑھائے کہ جس نے کبھی حرام نہ کیا ہو اور جس سے
سنت عصر اور تکبیر اولے کبھی فوت نہ ہوئی ہو۔

جب حضرت قطب صاحب کی یہ وصیت لوگوں کو معلوم ہوئی تو
نماز جنازہ لوگ حیران تھے کہ آخر وہ کون خوش قسمت شخص ہے کہ جو آپ کے
جنازہ کی نماز پڑھائے گا۔ کچھ دیر سکوت طاری رہا۔ آخر سلطان شمس الدین التمش آگے
بڑھے۔ آپ نے کہا کہ :

”مجھے ہرگز منظور نہ تھا کہ کسی کو میرے حال سے آگاہی ہو۔ مگر
حضرت قطب الاقطاب کی مرضی سے چارہ نہیں“

سلطان شمس الدین التمش نے امامت کے فرائض انجام دئے۔

جلوسِ جنازہ آپ کے جنازہ کے ساتھ لوگوں کی کثیر تعداد تھی۔ سلطان

التمش نے نماز پڑھانے کے بعد ایک طرف سے جنازہ کو
کاٹھا دیا اور دوسرے اہل دہلی نے باقی تین طرف سے جنازہ کو کاٹھا دیا۔ آپ
کو اسی جگہ پر دفن کیا گیا کہ جس جگہ کو آپ نے اپنی حیات ظاہری میں اپنی آخری
آرام گاہ کے لئے منتخب فرمایا۔

آپ کا مزار پُرانوار مہرولی (قریب نئی دہلی) میں واقع ہے اور مرجع خاص و
عام ہے۔ ہر سال آپ کا عرس مبارک ۱۲ اور ۱۳ ربیع الاول کو مہرولی میں بڑے
تذک و احتشام سے ہوتا ہے۔ ۱۰ جمیر میں بھی آپ کے چاہ پران ہی تاریخوں میں آپ کا
سالانہ عرس ہوتا ہے۔

آپ کے بعض خلفاء حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر کو حضرت
قطب صاحب کا خلیفہ اکبر اور جانشین ہونے کا
فخر حاصل ہے۔ آپ کے بعض خلفاء حسب ذیل ہیں :

شیخ بدر الدین غزنوی، شیخ برہان الدین بلخی، شیخ ضیاء رومی، مولانا فخر الدین حلوانی،
مولانا برہان الدین حلوانی، شیخ محمد سماجی، شیخ احمد بلخی، شیخ حسین، شیخ فیروز،
شیخ بدر الدین موٹے تاپ، شاہ خضر قلندر، شیخ نجم الدین قلندر، شیخ سعد الدین، شیخ
عمود بہاری، مولانا محمد جاجری سلطان نصیر الدین غازی، بابا بھری بھردریا،

حضرت بابا صاحب کا تبرکات پانا حضرت بابا صاحب اپنے پیرو
مرشد حضرت قطب صاحب
کی خدمت میں رہ کر روحانی فیوض و برکات سے مستفیض ہوتے رہے۔

ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت بابا صاحب اپنے پیرو مرشد حضرت

قطب صاحب کی خدمتِ بابرکت میں حاضر تھے۔ آپ ایک دم اٹھے اور ہانسی جانے کی اجازت طلب کی۔ حضرت قطب صاحب کو حضرت بابا فرید صاحب سے انتہائی محبت تھی۔ آپ آنکھوں میں آنسو کھیر لائے اور فرمایا :

”اے فرید! البتہ تم جاؤ گے“

حضرت بابا صاحب نے عرض کیا۔

”جیسا حکم ہو سجا لاؤں“

حضرت قطب صاحب نے فرمایا :

”جاؤ۔ میں کیا کروں۔ منشا نے قدرت اسی طرح ہے کہ میری

وفات کے وقت تم موجود نہ ہو، اور میں بھی حضرت خواجہ

(حضرت خواجہ معین الدین چشتیؒ) کی وفات کے وقت موجود

نہ تھا۔“

حضرت قطب صاحب نے اس قدر فرمایا اور پھر عجیب غور و خوض میں

سر مبارک جھکا لیا۔ پھر آپ نے سر اٹھایا، اور خانہٴ مجلس کی طرف

مخاطب ہو کر فرمایا :

”آؤ، ہم سب مل کر اس درویش کی دین و دنیا کی نعمت کی

ترقی اور استقامت کے لئے سورۃ فاتحہ و اخلاص پڑھیں“

سب نے سورۃ فاتحہ و اخلاص پڑھی۔

حضرت قطب صاحب نے بھی فاتحہ پڑھی اور بابا فرید صاحب کے

واسطے دعائے خیر کی کہ :

”خداوند تعالیٰ تجھ کو مشائخ کبار میں سے بنائے اور استقامت

کے درجہ تک پہنچائے“

پھر حضرت قطب صاحب نے خاص مصطلے اور عصا بابا فرید الدین گنج شکرؒ کو عنایت کیا اور فرمایا :

” میں تمہاری امانت یعنی سجادہ باخرقہ دستار اور نعلین، کہ جو دست بدست پیرانِ پشت سے مجھ کو پہنچی ہیں قاضی حمید الدین ناگوری کے سپرد کر دوں گا اور جب تم پانچویں روز اوفات کے (ہنسی سے میری قبر پر آؤ گے، وہ یہ امانت پیرانِ تم کو پہنچا دیں گے اور خرقہ پہنادیں گے۔ میرے مقام کو خود اپنا مقام سمجھو اور تم اس جگہ ذوقِ دراحت کے ساتھ بیٹھو گے اور رشتہ و ہدایت کرو گے اور اپنے فیض سے خاص و عام کو فائدہ پہنچاؤ گے۔“

قطب الاقطاب حضرت قطب صاحب نے جب یہ بات نصیحت ختم کی مجلس میں ایک شور برپا ہوا۔ حاضرین مجلس رونے لگے۔ سب نے حضرت بابا فرید گنج شکرؒ کے واسطے دعائے خیر کی یہ۔

وصیت حضرت قطب صاحب نے جس مجلسِ سماع میں وصال فرمایا، اسی مجلس میں حضرت قاضی حمید الدین ناگوری اور حضرت بدر الدین غزنویؒ کو وصیت فرمائی کہ تبرکاتِ پیرانِ عظام جو ان کے پاس ہیں وہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکرؒ کو جب وہ ان کے وصال کے بعد یہاں آئیں، دے دینا۔ حضرت بابا فرید کی امانت ان تک پہنچا دینا، اور نہایت عزت کے ساتھ حضرت بابا فرید صاحب کو خرقہ پہنانا۔

۱۵ روز قبل الاقطاب صفحہ ۶۸

حضرت قطب صاحب نے اس محفلِ سماج میں تبرکات، خرقہ خاص، عصا، نعلین چوبیس، اور دو مائی سوزنی حضرت قاضی حمید الدین ناگوری اور حضرت بدر الدین غزنوی کو دکھائے۔

جس رات حضرت قطب صاحب واصل بحق ہوئے، اسی رات **خواب** بابا فرید صاحب نے خواب دیکھا کہ حضرت قطب صاحب اُن کو بلا تے ہیں۔

یہ خواب بابا صاحب کے لئے کافی اشارہ تھا۔ آپ سمجھ گئے کہ حضرت قطب صاحب کا وصال ہو گیا۔ اقبال و خیراں، پریشان و حیران آپ ہانسی سے روانہ ہوئے۔ آپ کی آنکھوں سے اشکوں کا دریا بہ رہا تھا۔ ادھر حضرت قاضی حمید الدین ناگوری نے حضرت بابا صاحب کی خدمت میں ایک آدمی بھیجا۔ ہم پر حضرت بابا صاحب کی حضرت قاضی صاحب کے فرستادہ آدمی سے ملاقات ہوئی۔ وہ خط جس میں حضرت قطب صاحب کی وفات کی اطلاع تھی، حضرت بابا صاحب کو بلا۔

حضرت بابا فرید صاحب چوتھے روز وہلی پہنچے۔ پانچویں روز حضرت قطب صاحب کے مزار پر انوار کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ حضرت قاضی حمید الدین ناگوری اور شیخ بدر الدین غزنوی نے حسب فرما قطب الاقطاب حضرت قطب الدین بختیار کاکی تمام تبرکات حضرت بابا صاحب کے سپرد کئے۔

حضرت بابا فرید صاحب نے اپنے پیرومرشد کا خرقہ پہنا۔ اس مصلے پر دو ادا کیا۔ آپ نے اپنے پیرومرشد کے مکان میں قیام فرمایا۔

۱۵ فرشتہ جلد دوم صفحہ ۲۸۲ - سیرالادبیا صفحہ ۷۳ - روضۃ الاقطاب صفحہ ۶۹ -

کچھ دن دہلی میں قیام کر کے حضرت بابا فرید صاحب انسی تشریف لے گئے۔ آپ نے فرمایا: اے

نعتی کہ حق در حق من عطا کردہ ہمراہ من است۔ چہ در شہر و چہ

در بیابان“

ترجمہ: خدا تعالیٰ نے جو نعمت مجھے عطا کی ہے وہ میرے ساتھ ہے خواہ شہر ہو یا جنگل۔

قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نائب سیرت پاک رسول فی الہند کے نائب ہیں۔ آپ خواجہ معین الدین حسن چشتی کے نائب خلیفہ اکبر اور جانشین ہیں۔ آپ قطب مشائخ ہیں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے آپ کے متعلق تحریر فرمایا ہے کہ: اے

”از اکابر اولیاء واجلہ اصنیلاست“

ترجمہ: (آپ) اکابر اولیاء اور جلیل القدر صوفیائے کرام میں سے ہیں۔

آپ کی بزرگی اور بزرگی میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اس میں کسی کو اختلاف کی گنجائش نہیں کہ:

”جمع مشائخ العصر معتقد و حلقہ مجوسش آل حضرت بووند و شائخ

عظیم ورتبہ رفیع داشت و مستجاب الدعوات بود ماہر چہ از زبان

مبارکش برآمدے ہاں شدے و ہر کہ صحبت پاک آل حضرت

اختیار کردے صاحب ولایت شدے بہر کہ نظر لطف نمودے

۱۵ روضۃ الاقطاب صفحہ ۶۹ لے اخبار الاخبار۔

از عرش تا اثری ہماں ساعت اور اکشف شدے " لہ
 ترجمہ : اس زمانے کے تمام مشائخ آل حضرت کے معتقد اور حلقہ
 بگوش تھے۔ بڑی شان والے اور بلند مرتبہ والے تھے۔ آپ کی
 دعا قبول ہوتی تھی۔ جو کچھ زبان مبارک سے فرماتے وہ سب ہی ہو جاتا۔
 جو شخص آل حضرت کی صحبت پاک میں رہتا وہ صاحب ولایت
 ہو جاتا اور جس پر آپ نظر ڈالتے اسی وقت اس کو عرش سے تخت
 تحت الثرے تک منکشف ہو جاتا۔

عبادات
 آپ کو عبادت میں بہت لطف آتا تھا۔ آپ حافظ قرآن تھے۔
 روزانہ ایک قرآن ختم کرتے تھے۔ لوگوں سے چھپ کر آپ
 عبادت کرتے تھے۔ آپ فرائض پنج گانہ کی ادائیگی میں ہمیشہ مستعد رہتے تھے۔
 اس کے علاوہ آپ تین سو رکعت نفل روزانہ پڑھتے تھے۔ یہ رات کو سوتے وقت
 تین ہزار مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے۔

گوشہ نشینی
 آپ عزت اور گوشہ نشینی پسند فرماتے تھے، کم کھانا، کم سونا
 اور کم بولسا آپ کا شعار تھا۔ خالق سے مشغول تھے اور مخلوق
 سے بے نیاز۔

حضرت محمد گیسو دراز نے آپ کے متعلق لکھا ہے کہ آپ ہمیشہ خاموش اور
 رنجیدہ رہتے تھے۔ آپ گریہ وزاری میں زیادہ وقت گزارتے تھے۔ دروازہ بند
 کئے تنہا بیٹھے رہتے۔ لوگوں سے الگ رہتے تھے
 آپ کے متعلق شیخ نور بخش لکھتے ہیں کہ

”خواجہ قطب الدین بختیار اوشی کان من الاولیاء التالکین
والمرتاضین والمجاهدین بالخلوة والعزلة وقلة الطعام وقلة
النمام وقلة الكلام والذکر بالدوام فی الاربعینات وفی الاحوال
الباطنة شان کیسہ معین المکاشفین“

ترجمہ : خواجہ قطب الدین بختیار اوشی اولیائے سالکین اور
برگزیدہ مرتاضین و مجاہدین میں سے تھے۔ خلوت اور گوشہ نشینی
میں بسر کرتے، کم کھاتے، کم سوتے، کم بولتے، اور پوشیدہ
طور پر ذکر میں مشغول رہتے۔ اپنے حالات کو چھپانے میں
کوشاں رہتے۔

شب بیداری اول اول تو آپ کچھ دیر رات کو سوتے اور تھوڑا آرام فرماتے۔
لیکن آخر عمر میں رات کا آرام اور سونا آپ نے ترک کر دیا
تھا۔ راتوں کو جاگتے تھے۔ قرآن مجید کی تلاوت اور ذکرِ جلی و خفی میں مشغول رہتے تھے۔
فقروفاقہ حضرت قطب صاحب کو اپنے فقر و فاقہ پر فخر تھا۔ آپ کی
زندگی نہایت عسرت، سختی اور تنگی میں گزرتی تھی۔ آپ کو آپ
کے اہل و عیال کو اور آپ کے وابستگان کو اکثر فاقہ رہتا تھا۔ لیکن کسی پر یہ ظاہر نہ
کرتے تھے کہ گھر میں فاقہ ہے۔ فاقہ کی حالت میں بھی صبر و شکر کا دامن تھامے رہتے۔
ابتداءً حال میں آپ کے گھر میں دسترخوان، رکابی اور پیالہ تک نہیں تھا۔
مذرانہ سے امریکار آپ مذرانہ قبول نہیں فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ
ہے کہ سلطان شمس الدین التمش نے پھر روپے اور اشرفیا

لہ سیر الاولیاء لہ راحت القلوب۔

آپ کی خدمت میں بھیجیں، اور آپ سے استعفا کی کہ یہ نذرانہ آپ قبول نہ فرمائیں
آپ نے قبول نہیں کیا لہ

پیرانِ عظام کی پیروی
آپ اپنے پیرانِ عظام کی پیروی اپنے لئے

سعادت اور نجات سمجھتے تھے اور اس میں سخی
کوشاں رہتے تھے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ سلطان آلتمش کا وزیر حاضر خدمت ہو
اور چوگاؤں کا فرمان اور ایک کشتی طلائع اشرفیوں سے بھری ہوئی پیش کی۔ وزیر
نے عرض کیا کہ سلطان آلتمش کی آرزو ہے کہ آپ اس کو قبول فرمائیں۔ یہ آپ کے
خادمان اور مخلصان کے واسطے ہے۔ اس وقت بابا منیر الدین گنج شکر حاضر
حاضر تھے یہ

حضرت قطب صاحب مسکرائے اور فرمایا:

”میرے پیروں نے ایسی چیزیں کبھی قبول نہیں کی ہیں۔ میں کبھی
قبول نہیں کر سکتا۔۔۔ اگر آج میں ان کی پیروی نہ کروں
گا اور گاؤں اور اشرفیوں کو قبول کروں گا تو کل (قیامت کے
دن) ان کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اور ان کے زمرہ میں کیوں کر شامل
ہوں گا۔۔۔“

آپ دن رات مراقبہ میں رہتے تھے بلکہ نماز کے وقت آنکھیں
استغراق کھولتے تھے فیصل فراتے تھے اور تازہ وضو کر کے نماز پڑھتے

آپ کے استغراق کا یہ عالم تھا کہ جب کوئی آپ کی زیارت کے لئے آتا تو اس کو
انتظار کرنا پڑتا تھا۔ اطلاع ہونے پر آپ ہوشیار ہوتے تھے۔ آپ کے کبف ہونے
کا یہ حال تھا کہ ایک مرتبہ سات شبانہ روز آپ عالمِ تحسیر میں رہے۔ نماز کے

۱۴۰ تذکرۃ الافعیہ کہ رحمت القلوب کہ اسرار العالین

مدد بوش میں آئے۔

لوگوں آپ مخلوق سے کنارہ کش رہتے تھے۔ بابا فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں کہ حضرت قطب صاحب کا توکل واقعی توکل تھا۔ آپ میں مال کا عالم توکل میں رہے۔ کسی سے کوئی سروکار نہ رکھتے تھے۔ باورچی خانے کا خرچہ اس طرح چلتا تھا کہ جب ضرورت ہوتی خادم حاضر خدمت ہوتا۔ آپ کسی طرف اشارہ کر دیتے۔ جس قدر ضرورت ہو لے لو۔ جب صوفیوں کے لئے ضرورت ہوتی تو آپ مہلتے کے نیچے سے اشرفیاں نکال کر خادم کو دے دیتے تھے۔ دن بھر کے خرچے میں یہ سب رقم حصر ہو جاتی تھی۔ کوئی مسافر یا ضرورت مند آپ کے در سے خالی ہاتھ واپس نہیں آیا۔

تخلئے حال حضرت قطب صاحب اپنے حال کو لوگوں پر ظاہر کرنا پسند نہیں فرماتے تھے۔ زہد و ریاضت، عبادات و مجاہدات کو چھپاتے تھے۔ اپنے مریدوں کو بھی اس بات کی تلقین فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے آپ سے چلہ کشی کی اجازت چاہی۔ آپ نے اجازت نہیں دی، اور فرمایا :

”اس کی ضرورت نہیں، کیوں کہ ان باتوں سے بھی شہرت ہوتی ہے، اور فقیروں کے لئے شہرت کا ہونا آفت ہے۔ ہمارے پیروں میں کسی نے ایسا نہیں کیا۔“

آپ کو سماج کا بے حد شوق تھا۔ سماج سے آپ کی طبیعت بھئی سیر نہیں ہوتی تھی، سماج میں آپ پر کیفیت طاری ہوتی

تو آپ کئی کئی روز بے خود اور بے ہوش رہتے تھے۔ بعض اوقات جب آپ پر وجد طاری ہوتا تو آپ کھڑے ہو جاتے اور صحن میں رقص کرنے لگتے۔ البتہ نماز کے وقت آپ کو ہوش آ جاتا۔ آپ نماز ادا کرتے اور پھر پہلی ہی حالت ہو جاتی۔

ایک دن کا واقعہ ہے کہ مغل سماع ہو رہی تھی۔ حضرت قطب صاحب رونق افروز تھے۔ قوالوں نے یہ شعر پڑھا :

سرود چلیت کہ چندیں فسوں عشق دروست

سرود محرم عشق است و عشق محرم اوست

یہ شعر سن کر آپ پر وجدانی کیفیت طاری ہوئی۔ سات روز تک بے ہوش رہے، نماز کے وقت جب ہوش آتا تو آپ نماز ادا کر لیتے تھے۔

قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار
آپ کا علمی ذوق کاکی ایک بلند پایہ مصنف بھی ہیں۔ ایک اچھے شاعر

بھی ہیں۔ آپ کی تصانیف حسب ذیل ہیں :

دلیل العارفین : اس کتاب میں آپ نے اپنے پروردگار حضرت خواجہ

معین الدین حسن چشتی کے ملفوظات تحریر کئے ہیں۔

زُبْرَةُ الْمُحْتَلِقِ : یہ کتاب شائع نہیں ہوئی ہے۔

رسالہ : آپ نے ایک رسالہ بھی مرتب کیا ہے۔

مثنوی : ایک مثنوی بھی آپ سے منسوب کی جاتی ہے۔

آپ کا دیوان : یہ دیوان فارسی میں ہے اور شائع ہو چکا ہے۔ اس میں حضرت

قطب صاحب کا تخلص کہیں "قطب الدین" ہے اور کہیں "قطب دین" ہے۔ آپ نے اپنی شاعری کو توحید عرفان اور حقیقت و معرفت کے اظہار کا ذریعہ بنایا۔
نمونہ کلام حسب ذیل ہے :

اے لال درشنائے صفات زبان ما
وے در صفات وحدت تو عقل مارا
بے چون و بے جگونہ و بے مثل آدمے
در کمنہ ذات تو نزد عقل انبیا
موجود از وجود تو باشد ہر آنچہ هست
فانی شوند جملہ و باشد ترا بت
سرگشتگان بادیہ عشق خویش را
ہم خود دلیل باش کہ ہستی تو رہنا
از بحر خویش قطرہ بر قطب دیں مثال
تو بادشاہ حسی و او بسندہ گدا

ز وصل یار خود بشادانم امروز
کہ کردہ جہانے اندر جانم امروز
بکام دل چشیدہ شربت وصل
خلاص از آتش ہجرانم امروز
نباشد احتیاجم با طبیعے
کہ کردہ یار خود در مانم امروز

زمن دُوری مجھ کو دستِ رستم
 انیسِ حسرتِ جانانم امروز
 بگیراے غم ز قطب الدین کتارہ
 کہ شادی خیمہ زد در جانم امروز

آئی کہ ترا نیست مقام و منزل
 در ہر دو جہاں ذات تو کی می گنجہ
 چیزے غیر تو نیست مارا حاصل
 یارب تو چگونہ جائے کر دی در دل

عاشق باید کہ زرد باشد نگش
 روزے صد بار اگر کند توبہ عشق
 روز جملہ کائنات آید نگش
 چوں شیشہ و گریز ز بندہ عشق

حضرت قطب صاحب کی تعلیمات میں موجودہ مشکلات
 کا حل ملتا ہے۔ آپ کے ملفوظات بابرکات کو اپنے خلیفہ
 اکبر و سجادہ نشین حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر نے بطریق مجالس جمع فرمایا ہے۔
 آپ نے اپنی اس کتاب کا نام "فوائد السالکین" رکھا۔ ذیل میں چند مجالس کے حال سے
 حضرت قطب صاحب کی تعلیمات کی اہمیت و افادیت کا اندازہ ہوگا۔
 حضرت قطب صاحب نے مجلس کو مخاطب کرتے ہوئے
مرشد کا عرض فرمایا:

"مرشد کو اس قدر قوت اور تفتیح خاطر چاہئے کہ جب طالب
 اس کی خدمت میں واسطے حصولِ بیعت کے حاضر ہوئے اُسے

واجب ہے کہ ایک ہی نگاہ میں تمام الائنس دُنیا جو اس کے سینہ میں ہوں کل الوجوہ تکمال ڈالے اور ایسا صاف کرے کہ کوئی کدورت، رنگ اور لگاؤ دنیاوی باقی نہ رہے بعد اُسے اپنی بیعت سے ممتاز بنا کر واصلِ اِنی اللہ کرے۔ اگر اس قدر قوت پیر میں نہ ہو تو جانا چاہئے کہ پیر اور مرید دونوں باہرِ ضلالت میں ہیں۔“

صاحبِ سجادہ کی حضرت قطب صاحب نے حضرت خواجہ ابوبکر شبلیؒ کی ایک درویش سے ملاقات کا حال بیان فرمایا۔ ان درویش نے حضرت ابوبکر شبلیؒ سے صاحبِ سجادہ کی خصوصیت ان الفاظ میں بیان فرمائی :
 ”اے شبلیؒ! سجادہ پر وہ شکن ہووے اور دوسرے کا ہاتھ وہ شخص پکڑے جسے صاحبِ سجادہ ہونے کی طاقت ہو۔ اور طاقت اس کی یہ ہے کہ جس کا ہاتھ پکڑے اسے صاحبِ سجادہ بنا دے۔“

مرد کی کمالیت حضرت قطب صاحب نے فرمایا :
 ”اہلِ سلوک لکھتے ہیں کہ کمالیت مرد کی چار چیز سے پیدا ہوتی ہے، اول کم سونا، دوم کم بولنا، سوم کم کھانا۔ چہارم خلق سے کم صحبت رکھنی۔“

آپ نے پھر بابا فرید الدین گنج شکر سے مخاطب ہو کر فرمایا :
 ”اے درویش! جب تک تھوڑا نہ کھائے اور کم نہ سوئے اور کم نہ بولے اور خلق سے صحبت کم نہ رکھے ہرگز جوہرِ درویشی حاصل نہ ہوگا۔ درویش کا گروہ وہ گروہ ہے جنہوں نے سونا اپنی ذات

پر حرام کر لیا ہے اور صحبتِ خلق ناروا فی سے بدتر جانتے ہیں۔“

آلش دنیا آپ نے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کو مخاطب کر کے فرمایا :
 ”اے درویش! حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمبر باد
 تفرید میں بدرجہ کامل اکمل تھے جب انہیں آسمان پر لے گئے
 آواز آئی کہ انہیں الگ ہی رکھو کہ آلش دنیا ان کے ساتھ ہے
 حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہایت حیرت زدہ ہوئے۔ اسبابِ دنیوی
 اپنے کپڑوں میں دیکھنے لگے۔ خرقة شریف میں ایک سوئی اور ایک
 کاسہ چوبیس پایا۔ عرض کی، بار خدایا! اس کا کیا کروں۔ وحی
 ربانی ہوئی، پھینک دو۔ آپ نے اسے پھینک دیا۔ تب آسمان پر
 گذر ہوا۔“

یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد آپ نے فرمایا :
 ”اے درویش! جب قلیل و کم مایہ چیز ہونے سے ایسے اولوالعزم
 پیغمبر پر اعتراض ہوا تو افسوس اس بزرگ کے حال پر جو دنیا میں
 بالکل آلودہ ہو رہا ہے۔“

تسليم و رضا حضرت قطب صاحب نے فرمایا :
 ”حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلق پر معازین نے چپڑی
 رکھی اور گھلا کاٹنے لگے۔ آپ نے شدتِ درد سے چاہا کہ سرِ یاد
 کریں، اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف
 لاتے اور کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر آپ نے اُن کی تو نام

آپ کا جریدہ پیغامِ بیک سے محروم کر دیا جائے گا۔ حضرت یحییٰ
 علیہ السلام نے اس حکم کے سننے پر اُفت تک نہ کی اور نہایت
 صبر کے ساتھ جانِ جانِ آفریں کو سونپی۔“

حضرت زکریا کا واقعہ حضرت قطب صاحب نے پھر حضرت زکریا

علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ: اے
 ”اسی طرح جب آ رہے حضرت زکریا علیہ السلام کے سر مبارک
 پر رکھا گیا اور حیرنے لگے آپ نے بھی شدت تکلیف سے
 آہ کرنی چاہی۔ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور وہی
 حکم خداوندی سنایا۔ آپ بھی خاموش ہو رہے۔ یہاں تک
 کہ جسم مبارک کے آرے سے دو ٹکڑے ہو گئے۔“

حضرت رابعہ بصری کا طریقہ حضرت قطب صاحب نے فرمایا کہ: اے

”رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ
 عنہا کی رسم تھی کہ جس روز ان پر بلا نازل ہوتی آپ نہایت خوش
 ہوتیں اور فرماتیں کہ دوست نے میری یاد کی اور جس روز بلا
 نازل نہ ہوتی فرماتیں اور بدرجہ اتم رنج کرتیں کہ کیا سبب ہوا
 جو آج میری یاد نہ ہوتی۔“

حسن اعتقاد مریدوں کے حسن اعتقاد کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔
 حضرت قطب صاحب نے فرمایا کہ: اے

”بغداد شریف میں ایک درویش کو کسی اتہام میں پکڑ کر قاضی

لے فوائد لکھیں۔

کے روپرولائے۔ قاضی نے بعد تحقیقات کے حکم قتل کا سنایا۔
 جلاویہ حکم سن کر درویش کو سیاست گاہ میں لے گیا اور موافق
 قاعدہ کے قبلہ رخ کیا اور چاہا کہ قتل کرے۔ اس درویش نے
 منہ قبلہ سے پھیر کر رخ بجانب مزار اپنے پیر کے کر لیا۔ جلاویہ
 نے کہا، وقت موت منہ بجانب قبلہ کرنا چاہئے۔ درویش نے
 کہا کہ تو اپنے کام میں مشغول ہو۔ میں نے منہ اپنے قبلہ کی جانب
 کر لیا ہے۔ وہ دونوں اسی حصے میں رہیں تھے کہ قاصد خلیفہ کا حکم
 لے کر آیا کہ ہم نے قصور اس درویش کا معاف کیا، لازم ہے کہ
 چھوڑ دیا جائے۔“

حضرت قطب صاحب نے اس واقعہ پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا:
 ”دیکھو، اس کی خوش عقیدگی نے صاف قتل سے بچالیا۔“

ایک روز تکبیر کہنے کے متعلق گفت گور ہو رہی تھی کہ درویش مگلی کوچے میں
تکبیر تکبیر کیوں کہتے ہیں، حضرت قطب صاحب نے فرمایا کہ نہ
 ”یہ تو کہیں نہیں لکھا ہے کہ ہر گلی کوچے میں تکبیر کہی جائے اور
 نہ یہ طریقہ نیک ہے۔ البتہ واسطے شکرانہ نعمت کے تکبیر کہنا
 حدیث شریف میں آیا ہے کہ تکبیر کہنے سے نعمت مزید ہوتی
 ہے۔“ بعد ازاں ارشاد ہوا: لے

”تکبیر کے معنی حمد ہیں اور شکر نعمت میں حمد کرنی چاہئے۔“

آپ نے فرمایا کہ:

خدا کے خاص بندے ”خدا تے توالے کے ایسے بھی بندے

۲۵ فوائد لیکن عہ جہاں سزا دی جاتی ہے۔

ہیں کہ جب اپنی جگہ ہوتے ہیں کعبہ کو حکم ہوتا ہے کہ اسی جگہ جاوے کہ وہ بزرگ اس کا طواف کریں۔“

کھانے کا ادب ایک روز کا واقعہ ہے کہ مجلس ختم نہ ہوئی تھی کہ حضرت کھانا شروع کر دیا۔ اتنے میں شیخ نظام الدین ابوالمؤید آئے اور آداب سجا لائے۔ حضرت قطب صاحب نے التفات نہ برتا۔ سلام کا جواب بھی نہ دیا۔ جب آپ کھانے سے فارغ ہوئے تو شیخ نظام الدین ابوالمؤید نے اس امر کی شکایت کی۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکیؒ نے جواب دیا: ”میں طاعت میں مشغول تھا تجھے کیوں کر جواب دیتا، کیونکہ درویش کھانا واسطے قوت عبادت کے کھاتے ہیں۔ جب یہ نیت ہے وہ عین عبادت میں ہیں اور وقت طاعت جواب نہیں دیا جاتا۔ پس لازم ہے کہ جب کوئی کھانا کھاتے تو سلام نہ کرے۔ بعد اکل طعام سلام کرے۔“

ارشادات عالیہ حضرت قطب صاحب کے چند اقوال پیش کئے جاتے ہیں جو حسب ذیل ہیں:

عارف: عارف وہ ہے کہ ہر لحظہ و ہر لمحہ اس پر عجیب حالات ظاہر ہوں اور وہ عالم مسکرمین غرق ہوں اگر اس وقت اس کے سینے میں زمین و زمان و مافیہا داخل ہو جائیں اُسے ان کے اترنے سے مطلق خبر نہ ہو۔

عارف وہ ہے کہ جس پر ایک ایک لمحہ میں ہزاروں عالم اسرار کھلیں، اور وہ

لہ قوائد لکین۔

عالم فکری میں ایسا محو ہو کہ اگر ہر روز ہزار عالم اس کے سینے میں داخل ہوں اور باہر آئیں لیکن اس مطلق خبر نہ ہو۔

● راہ سلوک : راہ سلوک میں درویشی دوسری چیز ہے۔ انبار داری دوسری چیز ہے۔
● راہ سلوک میں زعل و وسوسہ چاہئے تاکہ اسرار جگہ پکڑیں اور فاش نہ ہونے پائیں۔ کیوں کہ راز ستر دوست ہے۔

● سلطان راہ سلوک وہ شخص ہے جو سر سے پاؤں تک دریائے محبت میں غرق ہے اور کوئی ایسی ساعت نہیں کہ اس کے سر پر عالم محبت سے بارش نہ ہوتی ہو سالک : سالک کے لئے دنیا سے بڑھ کر کوئی حجاب نہیں۔
● محبت : جو شخص محبت کا دعویٰ کرے اور تکلیف کے وقت فریاد کرے وہ محبت میں صادق نہیں بلکہ کاذب اور دروغ گو ہے۔

● کامل : جو شخص کامل ہوتا ہے وہ کبھی دوست کا راز فاش نہیں کرتا۔
● کامل اکمل ایسے کبھی ہوتے ہیں کہ ان سے کسی حالت میں کبھی ستر دوست فاش نہیں ہوا، اور وہ دوسرے رازوں سے واقف ہونے چلے گئے۔
● درویش : درویش وہ ہے جو بروقت رہروئی ہزاروں ملک پاؤں کی نیچے سے نکالے اور قدم آگے بڑھائے۔

● درویش کے ایک کلمہ میں آگ اور دوسرے میں پانی ہوتا ہے۔
● درویش جب کامل ہو جاتا ہے تو جو کچھ حکم دیتا ہے وہی ہوتا ہے۔
● درویش کو مقام قرب اس وقت تک حاصل نہ ہوگا جب تک وہ سب میگالوں سے بے گانہ نہ ہو جائے اور تجرباً اختیار نہ کرے اور آلائش دنیا سے پاک و صاف نہ ہو۔

● جو درویش دنیا کو دکھانے کی غرض سے اچھا لباس پہنے وہ درویش نہیں

بلکہ راہِ سلوک کا رہن ہے۔

● جو درویش خواہش نفسانی سے پیٹ بھر کر کھانا کھائے وہ نفس پرست ہے درویش نہیں۔

● درویش کو مجبور رہنا چاہئے کہ اس سے اس کے مدارج کی ترقی ہوتی ہے۔

● درویش کا فاقہ بہ اختیار خود ہے۔

● حق تعالیٰ نے تمام مملکت درویش کے اختیار میں کی ہے۔

● درویش کے لئے ضروری ہے کہ ہمیشہ عالمِ تہجد میں رہے۔ ہر روز ایک ملاک سے گذرے اور ترقی کرتا رہے۔

● درویشی : درویشی راحت نہیں بلکہ دنیا کی مصیبتوں میں مبتلا رہنا ہے۔

● درویشی میں سب سے مشکل کام یہ ہے کہ رات کو فاقہ سے رہے، تاکہ معراج کو پہنچے۔

● درویشی کی نعمت سے کوئی نعمت بالاتر نہیں ہے۔

● مرشد : پیر میں اتنی قوت ہونا ضروری ہے کہ مرید کے قلب کی سیاہی کو اپنی باطنی قوت سے صاف کر دے اور اس کو حق تعالیٰ تک پہنچا دے۔

● مرید : مرید کو پیر کے حضور وغیبت میں یکساں رہنا چاہئے اور جب ان کا وصال ہو جائے اس وقت زیادہ ادب کرنا لازم ہے۔

● اگر حضور مرشد حاصل نہ ہو اور توبہ میں لغزش واقع ہو تو اپنے پیر کے کپڑے آگے رکھے اور ان سے بیعت کرے۔

● سماج : جو لذت سماج میں ہے وہ کسی دوسری چیز میں نہیں ہے، اور وہ کیفیت ایسی ہے کہ بغیر سماج کے حاصل نہیں ہو سکتی۔

● انبیاء اور اولیاء : انبیاء علیہم السلام معصوم ہیں اور اولیائے کرام محفوظ ہیں۔

عالم سکریں بھی کوئی فعل آن سے خلاف شریعت سرزد نہیں ہوتا۔
حسنِ عمل : جو شخص مقامِ حقیقت میں پہنچا، حسنِ عمل سے پہنچا۔

خوفِ الہی : خداوند تعالیٰ کے خوف کا تاز یا نہ بندہ کی تادیب کے لئے ہے۔
جب دل میں جگہ پاتا ہے تو دل کو پارہ پارہ کر دیتا ہے۔

آدابِ مجلس : مجلس میں جب آئے جہاں خالی جگہ ہو بیٹھ جائے۔

کشف و کرامات : درحقیقت مرد وہی ہے کہ کشف و کرامات کے مرتبے
میں اپنی ذات کو ظاہر نہ کرے تاکہ سلوک کے کل درجات حاصل ہو جائیں۔

کشف و کرامت کے اظہار سے بقیہ درجات سے محروم رہنا پڑے گا۔

جو بات عقل میں نہ آئے اور عقل کی اس میں رسائی نہ ہو وہ کرامت ہے۔

اکسیر : نیک بزرگوں کے کلمات اکسیر کی خاصیت رکھتے ہیں۔

اورادو و وظائف

حضرت قطب صاحب کے بتاتے ہوئے چند اوراد و وظائف حسب ذیل ہیں:

حاجت پوری ہونے کے لئے
بقرہ پڑھنا چاہئے۔

حضرت بابا فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت قطب صاحب
کو خداوند تعالیٰ سے کچھ حاجت تھی۔ آپ نے سورۃ بقرہ پڑھنا شروع کی۔ ابھی
ایک ہی روز ہوا تھا، آپ نماز پورے طور پر پڑھنے نہ پاتے تھے کہ آپ کا
مقصد پورا ہو گیا۔

قرآن شریف حفظ کرنے کے واسطے سورہ یوسف کا ورد مفید ہے یہ

حج کی نیت سے جو شخص اول ماہ ذی الحجہ میں دو رکعت نماز اس طرح
حج کا ثواب پڑھے کہ اول رکعت میں سورہ فاتحہ کی پہلی آیت سورہ انعام
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ لَعَلَّهُمْ يَكْفُرُونَ تک پڑھے، اور دوسری رکعت
میں سُورَةُ فَاتِحَتَا كَيْ بَدَّلُ قُلُوبَهُمْ لِيَكْفُرُوا بِمَا كَفَرُوا تک پڑھے۔ اللہ تعالیٰ حج
کا ثواب اس شخص کے نامہ اعمال میں لکھے گا۔

حضرت قطب صاحب نے
آفت سے محفوظ رہنے کے واسطے فرمایا کہ جو شخص آیتہ الْكُوسَى

پڑھ کر گھر سے باہر نکلے، اس کے تعلق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ہے کہ خداوند تعالیٰ اس کے گھر کو آفت سے محفوظ رکھتا ہے۔

معاشر میں فراخی کے واسطے آپ نے فرمایا کہ جس شخص کی معاش
میں تنگی ہو اسے چاہئے کہ اکثر اوقات

یہ دعا پڑھتا رہے: ۱۵

يَا دَائِمَ الْعِزِّ وَالْمَلِكِ وَالْبَقَاءِ يَا ذَا الْجَبَلِ وَالْجُودِ
وَالْفِضْلِ وَالْعَطَاءِ يَا دُودَ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدِ يَا فَعَالَ تَبَا يُرِيدُ

قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار
کاشف و کرامات کا کتب سے بہت سی کراٹیں ظاہر ہوئیں۔ یہ نظر احتقاً

۱۵ فوائد لیکن ص ۲۶۱ ۱۵ راحت القلوب ص ۹۶۔ بابا فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں کہ حضرت قطب صاحب
کے اوراد میں بروایت حضرت ابو ہریرہ منقول ہے ۱۵ بروایت حضرت بابا فرید الدین گنج شکر
راحت القلوب ص ۸۳ ۱۵ راحت القلوب ص ۸۳، ۸۴۔ بروایت بابا فرید الدین گنج شکر۔

چند کراہتیں پیش کی جاتی ہیں جو حسب ذیل ہیں :

آپ کو سماع کا بہت شوق تھا۔ جب آپ دہلی تشریف لائے تو آپ اور قاضی حمید الدین ناگوری سماع سنتے تھے۔ جب اس کی اطلاع سلطان شہاب الدین کو ہوئی تو وہ بہت برا بیگنہ ہوا۔ اس نے کہا :

” اگر پھر مجھے معلوم ہوا کہ انہوں نے سماع سنا ہے تو اسی وقت دار پر کھنچو اور گایا مثل عین الفضلہ جلا کر خاک سیاہ کر دوں گا۔“

حضرت قطب صاحب نے یہ سن کر فرمایا :

” اچھا اگر وہ سلامت رہے گا تو ہمیں دار پر کھنچو اور دے گا، یا جلا کر خاک کر دے گا۔“

اس پہنچنے میں سلطان شہاب الدین خراسان کی طرف چلا گیا۔ چند روز کے اندر ہی اندر اس کا انتقال ہو گیا۔

حضرت قطب صاحب ملتان میں مقیم تھے۔ قباچہ بیگ (ناصر الدین قباچہ) ملتان کا حاکم تھا۔ ایک دن وہ حضرت قطب صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ :

” مغلوں کا لشکر ملتان فتح کرنے آیا ہے۔ مجھے مقابلہ و مجاہدہ کی قوت نہیں۔ خدا کے لئے میری امداد کیجئے۔“

حضرت قطب صاحب نے اس کو ایک تیر دیا اور ہدایت کی کہ :

” مغرب کی نماز کے بعد بڑھ کر حصار پر برآمد ہو کر یہ تیر بندر لیسہ کمان دشمن کی طرف پھینک دینا اور خدا کی قدرت کا تماشہ“

۱۔ ساکب التاکیں جلد دوم۔ سیرالقطاب ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴۔ سیرالعارفین ص ۱۴۷

دیکھنا۔“

تباہی بیگ نے ایسا ہی کیا۔ تیرکاگرناتھا کہ مغلوں کے لشکر نے راوندر
اختیار کی اور واپس چلا گیا۔

ایک روز قاضی حمید الدین ناگوری کے یہاں مجلس سماع تھی۔ حضرت
قطب صاحب بھی رونق افروز تھے۔ سماع ختم ہونے پر قاضی صاحب نے حضرت
قطب صاحب سے عرض کیا کہ حاضرین مجلس کو کھانا ملنا چاہئے۔ حضرت قطب صاحب
نے اپنی آستین بھاڑی۔ پس حاضرین مجلس کے سامنے دو دو کاک مع گرم حلوسے کے
موجود تھے۔

ایک دن قاضی حمید الدین ناگوری کے یہاں مجلس سماع ہو رہی تھی۔ قاضی
صاحب وجد میں تھے۔ قاضی صادق اور قاضی عماد کا وہلی کے بڑے علماء میں شمار تھا۔
یہ دونوں حضرات مجلس میں پہنچے۔ اس وقت حضرت قطب صاحب کی عمر اٹھارہ سال
کی تھی۔ ریش مبارک برآمد نہیں ہوتی تھی۔ ان دونوں حضرات نے حضرت قطب صاحب
سے مخاطب ہو کر کہا کہ :

”اہل تصوف کے مذہب میں مرد کا مغل سماع میں ہونا خلاف
قاعدہ ہے۔“

یہ سن کر حضرت قطب صاحب نے لبیم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دونوں
ہاتھ منہ پر پھیرے۔ ہاتھوں کا پیرنا تھا کہ اسی وقت ڈاڑھی برآمد ہوئی۔
آپ نے ان دونوں حضرات سے مخاطب ہو کر فرمایا :
”میں امر نہیں ہوں بلکہ مرد ہوں۔“

لہ سیر العارفين ص ۱۴۷۔ فرشتہ جلد دوم۔ سالک اتالیق جلد دوم مکہ بیع سنابل

وہ دونوں عالم یہ کرامت دیکھ کر سخت حیران اور شرمندہ ہوتے رہے
ایک دن سلطان شمس الدین التمش حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے خواب
میں مشرف ہوا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ سرور دین دُنیا گھوڑے پر سوار ہیں
اور ایک مقام پر حبلہء افروز ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں :

”اے شمس الدین! اس مقام پر حوض تیار کرانا کہ مخلوق خدا کو
فائدہ پہنچے۔“

سلطان التمش نے خواب سے بیدار ہو کر حضرت قطب صاحب کو
اطلاع کرائی کہ اس نے ایک خواب دیکھا ہے اور خدمت میں حاضر ہونے کی
اجازت چاہی۔ حضرت قطب صاحب نے خواب میں سلطان التمش سے کہہ سلا
بھیجا کہ :

”ماجرائے خواب مجھے معلوم ہے۔ میں اس مقام پر جاتا ہوں ،

جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حوض تیار کرانے کا حکم

فرمایا ہے۔ تم جلد میرے پتہ پر چلے آؤ۔“

سلطان التمش ایک جگہ پہنچا۔ دیکھا کہ حضرت قطب صاحب نماز ادا کر رہے

ہیں۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو سلطان التمش آداب بجالایا۔ اس نے جس

جگہ سرور عالم کو خواب میں دیکھا تھا اسی جگہ گھوڑے کے سم کے نشان پائے۔

پانی جاری تھا۔ اسی جگہ حوض شمسی کی تعمیر کرائی۔

سلطان شمس الدین التمش کی داد و بخش کا بڑا شہرہ تھا۔ مشہور شاعر ناصری

شاہی دربار میں باریابی کی غرض سے دہلی، حضرت قطب صاحب کی خدمت

بارکت میں حاضر ہو کر دعا کا طالب ہوا۔ آپ نے زبان فیض ترجمان سے فرمایا :
 ”جاؤ بہت انعام پاؤ گے“

ناصری نے چھپن اشعار کا ایک قصیدہ سلطان کی تعریف میں لکھا اور دربار
 میں پیش کیا۔ سلطان نے کچھ التفات نہ برتا۔ ناصر کی سخت پریشان ہوا۔ اس نے
 اپنے دل میں حضرت قطب صاحب سے مدد چاہی۔ مدد کا چاہنا تھا کہ سلطان نے
 ناصر کی طرف توجہ ہو کر کہا :
 ”ہاں قصیدہ پڑھو“

اس نے قصیدہ پڑھا۔ قصیدہ کا مطلع یہ ہے :

اے فتنہ از نہیب تو ز تہار خواستہ
 تیغ تو مال و قیل ز کفار خواستہ

سلطان شمس الدین التمش قصیدہ سن کر بہت خوش ہوا۔ ناصر کو چھپن ہزار
 روپے بطور انعام دئے۔ روپیہ لے کر ناصر خوش خوش حضرت قطب صاحب
 کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سب روپے آپ کے سامنے رکھ دئے۔ آپ نے اس
 میں سے کچھ مستبول نہیں فرمایا۔ وہ واپس وطن چلا گیا یہ

آپ کی وفات کے بعد بھی آپ کے فیض کا چشمہ جاری ہے۔ سلطان الشارح
 اکثر آپ کے مزار پر انوار بر حاضر ہوا کرتے تھے۔ ایک دن مزار شریف کو جاتے ہوئے
 آپ کو یہ خیال آیا کہ آنے جانے والوں کی آپ کو خبر بھی ہوتی ہے یا نہیں۔ جب آپ
 مزار اقدس کے قریب پہنچے تو مزار شریف سے یہ آواز آئی :
 ۱۰

مرا زندہ بندار چوں خوشن
 من آیم بجاں گر تو آئی بہ تن

۱۰ جمہر فریدی ص ۱۸۱ ۱۲ سیرالادویا ص ۵۱۰

ایک فاسق و فاجر آدمی حضرت قطب صاحب کے پائیں دفن کیا گیا۔
لوگوں نے اُسے خواب میں دیکھا کہ جنت کی سیر کر رہا ہے۔ اس سے دریافت کیا
کہ کس عمل کے بدلے اسے جنت ملی۔ اس شخص نے جواب دیا:

”جب عذاب کے فرشتے میری متبر میں آئے تو آپ کی
(حضرت قطب صاحب کی) روح مبارک کو تکلیف ہوئی
پس خداوند تعالیٰ نے مجھ سے عذاب کو دور کر دیا اور
مجھ کو بخش دیا“

آپ کا فیض باطنی جاری ہے۔ آپ کے تصرفات باطنی سے لوگ اب
بھی مستفیض ہو رہے ہیں۔

باب ۳

حضرت قاضی حمید الدین ناگوری

حضرت قاضی حمید الدین ناگوری جامع کمالات معنوی و صوری ہیں، آپ قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکیؒ کے استاد ہیں۔ آپ ایک بہت بڑے عالم تھے اور ساتھ ہی ساتھ ایک خدارسیدہ بزرگ تھے۔

خاندانی حالات : آپ بخارا کے شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔

والد ماجد : آپ کے والد ماجد کا نام عطاء اللہ محمود ہے۔ آپ بخارا کے بادشاہی لے لئے آپ سلطان عطاء اللہ محمود کہلاتے تھے۔

نسب نامہ پدیری : آپ کا نسب نامہ پدیری حسب ذیل ہے :
شیخ محمد بن سلطان عطاء اللہ محمود بن سلطان احمد

لہ برہان الجاہلین

بن سلطان محمد بن شیخ یوسف بن شیخ طیب بن شیخ اسمعیل بن طاہر بن یعقوب بن اسحق
بن اسمعیل بن قاسم بن محمد بن امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیقؓ بن تمّاذ بن عامر بن عمر بن
کعب بن سعد بن نسیم بن مرہ (کہ جدِ نغم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں)

ولادت شریف : آپ ۴۶۲ ہجری میں پیدا ہوئے۔

نام : آپ کا نام محمد ہے۔

خطاب : آپ مدینہ منورہ میں حاضر تھے۔ آپ کو "قاسمی حمید الدین ناگوری" کا خطاب بارگاہ رسالت سے عطا ہوا۔ آپ اسی خطاب سے مشہور ہوئے۔

ابتدائی زندگی : آپ نے اپنے والد ماجد کے سایہ عاطفت میں پرورش پائی۔ آپ کے والد ماجد نے آپ کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ دی۔

تخت نشینی : آپ کے والد ماجد نے کچھ تو معینی کی وجہ سے اور کچھ محبت کی وجہ سے آپ کو تخت پر بٹھا کر خود حکومت سے کنارہ کش ہو گئے۔ اس وقت حضرت قاضی صاحب کی عمر باون سال کی تھی۔ آپ نے اپنی ذمہ داریوں کو بحسن و خوبی انجام دیا۔

آپ کی شریک حیات بی بی ماہر نے داعی اجل کو پہلا قدم لیکر کہا۔ حضرت قاضی صاحب کے لئے یہ صدمہ ایسا تھا کہ جس سے ان کی زندگی اور ان کے خیالات میں کافی تبدیلی واقع ہوئی۔

یہی کے انتقال کے بعد حضرت قاضی صاحب کی زندگی میں کا پاپٹ اکثر تنہائی میں بیٹھ کر موت اور زندگی کے فلسفہ

کے متعلق سوچا کرتے تھے۔ آپ کو محسوس ہوا کہ دنیا ناپائیدار ہے۔ یہاں کی ہر چیز فانی ہے، پھر خالق سے کیوں دل نہ لگایا جاتے جس کو فنا نہیں۔ آپ انہیں خیالات میں رہتے تھے۔ ایک دن شکار کے لئے نکلے۔ آپ نے ایک ہرن کا پیچا کیا آپ نے اس کے ایک تیر مارا۔ وہ زخمی ہوا۔ جب آپ اس ہرن کے قریب پہنچے تو اس ہرن نے آپ سے مخاطب ہو کر کہا :

”اے عزیز! تو بندہ پروردگار ہے۔ مجھ بے گناہ کو کیوں مارا ہے۔

اپنے پروردگار کو کیا جواب دے گا۔“

آپ محل واپس آئے تخت و تاج کو ٹھکرا کر تلاشِ حق میں نکلے۔

کرمان میں قیام بخارا سے روانگی کے وقت آپ کے والد ماجد بھی

آپ کے ساتھ ہوئے۔ آپ کرمان پہنچے۔ کرمان میں آپ نے خواجہ ابوبکر کرمانی کے یہاں قیام فرمایا۔ کرمان میں آپ کی دوسری شادی خواجہ ابوبکر کرمانی کی لڑکی بی بی حمیرا سے ہوئی۔

تلاشِ حق آپ نے اپنے اہل و عیال کو کرمان میں چھوڑا اور خود مع والد بزرگوار کے تلاشِ حق میں نکلے۔ حضرت خواجہ خضر علیہ السلام کو حکم ہوا کہ محمد بن عطاء یعنی حضرت قاضی صاحب کو علم لدنی تعلیم کرو۔ حضرت خواجہ خضر نے بارہ برس تک آپ کو اپنی خدمت میں رکھا اور تعلیم دی۔ جب تعلیم پوری ہو گئی، خضر علیہ السلام نے آپ کو بغداد جانے کا حکم دیا۔

بعیت و خلافت جس وقت آپ بغداد پہنچے۔ آپ کے پاس اپنی چہار تصانیف تھیں۔ بغداد میں آپ حضرت شیخ شہاب الدین بہروردی کی بعیت سے مشرف ہوئے۔ آپ کے پیرو مرشد نے سرورِ عالم کا جبہ مبارک آپ کو عطا فرمایا۔ آپ کو خلافت سے سرفراز فرمایا۔

زیارتِ حرمین شریفین و بغداد سے آپ مکہ معظمہ گئے۔ حج کا فریضہ بجا لائے۔ وہاں سے مدینہ منورہ گئے۔ مدینہ منورہ میں آپ نے ایک سال دو مہینے اور سات دن قیام کیا۔ ایک روز آپ کو بارگاہ رسالت سے قاضی حمید الدین ناگوری کا خطاب عطا ہوا۔ آپ ناگور سے واقف نہ تھے۔ جب آپ کو یہ معلوم ہوا کہ ناگور ہندوستان میں ہے تو آپ نے ہندوستان کا ارادہ کیا۔

ہندوستان میں آمد سے مدینہ منورہ سے آپ مکہ معظمہ آئے۔ حج کیا اور تین سال تک وہاں قیام کیا۔ وہاں سے روانہ ہو کر بغداد آئے اور اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بغداد سے مع جبہ مبارک ہندوستان کے لئے روانہ ہوئے۔ راستے میں کرمان پڑتا تھا۔ وہاں چند روز قیام فرمایا۔ کرمان سے اپنے اہل و عیال اور والد بزرگوار کو ساتھ لے کر پشاور پہنچے۔ پشاور میں کچھ عرصہ قیام کیا۔ اپنے اہل و عیال اور والد ماجد کو وہیں چھوڑا اور خود حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اور دیگر بزرگان کے ساتھ ہندوستان میں داخل ہوئے۔

ناگور میں تشریف آوری آخر کار آپ ۵۶۱ھ میں ناگور میں جلوہ افروز ہوئے اور ایک بوڑھی عورت کے یہاں جو قوم کی تیلن تھی قیام فرمایا۔ ناگور کو آپ نے اپنی روحانی قوت سے فتح کیا۔ لوگوں نے آپ کا پیغام حق مقبول کیا۔

اوش و بغداد کو روانگی ناگور میں آپ نے کچھ دنوں قیام فرمایا۔ ایک دن حضرت قاضی صاحب کو ہاتھ غیب سے آواز آئی کہ :

”اوش پہنچ کر ہمارے قطب کو تعلیم کرو۔“

آپ فوراً اوش روانہ ہو گئے اور وہاں پہنچ کر قطب الاقطاب حضرت
خواجہ قطب الدین نختیار کاکیؒ کو بسم اللہ پڑھائی۔ حضرت قطب صاحب کو پندرہ
پارے یاد تھے۔ آپ نے باقی پندرہ پارے حضرت قطب صاحب کو پڑھائے۔
حضرت قطب صاحب کی تعلیم کے بعد آپ بغداد روانہ ہو گئے۔

بغداد سے آپ دہلی روانہ ہوئے۔ راستے میں پشاور میں قیام
دہلی میں آمد فرمایا۔ پشاور سے اپنے اہل و عیال اور والد ماجد کو ہمراہ لے
کر دہلی تشریف لائے۔ دہلی میں آپ نے ایک دعوتی مکان خریدیا اور اس میں
رہنے لگے۔

وَالدَّمَا جِدَّكَ اِنْتَقَالَ اَبَّكَ كَالدَّمَا جِدَّكَ اِنْتَقَالَ دَهْلِي مِيں ہوا۔

دہلی میں سماع کی مجلسیں حضرت قطب الدین نختیار کاکیؒ اور حضرت
قاسمی صاحب نے دہلی میں سماع کی مجلسیں منعقد
کیں۔ قاسمی سعد اور قاسمی عماد نے اعتراض کیا۔ بحث و مباحثہ کے بعد یہ طے پایا
کہ پہلے حضرت قاسمی صاحب بغداد جا کر سماع جاری کرائیں، پھر دہلی میں بھی اعتراض
کی گنجائش نہیں رہے گی۔

بغداد کو روانگی حضرت قاسمی صاحب بغداد روانہ ہوئے۔ بغداد پہنچ کر
آپ نے اپنے ایک مرید کے یہاں قیام فرمایا۔ بغداد میں
سماع کی سخت مانعت تھی۔ آپ نے اپنے مرید کے یہاں شہنائی سنی۔ آپ کو واحد
ہوا جب اس کی خبر شہر میں پھیلی، وہاں ایک شور برپا ہوا، حضرت قاسمی صاحب
نے اپنے مرید کے یہاں ایک مجلس سماع کرائی، اور اس میں مفتی، قاسمی اور شہر کے

دیگر لوگوں کو بلایا۔ بحث و مباحثہ کے بعد حضرت قاضی صاحب کی رائے سے سب نے اتفاق کیا کہ اہل حق کو سماعِ حلال ہے اور تا اہل کو سماعِ حرام ہے۔ اس دعوت میں حضرت قاضی صاحب نے بہتر (۷۲) مزامیر جمع کئے تھے، اور مکان کے صحن میں ان پر سرپوش رکھ کر رکھ دئے تھے۔ جب قاضی صاحب نے ان مزامیر کی طرف توجہ کی وہ آواز دینے لگے۔ حاضرین پر وجد طاری ہوا۔ سب نے اترا کر کیا کہ سماعِ اہل کے واسطے باج ہے۔ اور اہلیت ایک ایسی چیز ہے جس کو سوائے خدا کے اور کوئی نہیں جانتا۔ جو سماعِ کا اہل ہوتا ہے وہ اس کے اہل کو پہچان لیتا ہے۔ عام لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔

ولہی دہلی بغداد سے حضرت قاضی صاحب دہلی واپس آنے — حضرت قطب صاحب اور آپ سماع کئے تھے۔ حضرت قاضی صاحب کا اقتدار بعض لوگوں کو ناگوار تھا۔ انہوں نے سماع کی آڑ میں آپ کی مخالفت شروع کی۔ قاضی سعد اور قاضی عماد کو حضرت قطب صاحب کی ایسی بددعا لگی کہ ان دونوں کو اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑے۔

آپ کا ناگور کا قاضی ہونا سلطان شمس الدین لٹش نے آپ کو ناگور کا قاضی مقرر کیا۔ آپ نے اس عہدہ کو قبول کیا۔ تیس سال تک آپ نے قنارہ کے عہدے کو زینت بخشی۔ آپ نے قصبہ رحل آباد کیا۔ بہ فرمانِ سرورِ عالم آپ حرمین شریف چلے گئے اور قنارہ کا عہدہ اپنے دوسرے ارٹ کے مولانا ظہیر الدین صاحب کو سپرد فرمایا۔

مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ سے دہلی واپس تشریف لائے۔

آپ نے دو شادیاں کیں۔ آپ کی پہلی شادی بی بی ماہرو ازواج و اولاد سے ہوئی تھی۔ آپ کی دوسری شادی بی بی حمیرا سے ہوئی۔

ان سے سات لڑکے اور دو لڑکیاں ہوئیں۔ لڑکوں کے نام حسب ذیل ہیں :

مولانا ناصر الدین۔ مولانا احمد ظہیر الدین۔ شیخ علیم الدین۔ شیخ

حسام الدین۔ شیخ وجیہ الدین۔ شیخ عبداللہ۔

لڑکیاں : بی بی الہدیہ۔ بی بی صاحب دولت۔

نماز تراویح میں آپ نے قرآن شریف ختم کیا۔ نماز کے بعد

سجدہ کیا، اور سجدہ میں انتقال فرمایا۔ لوگ یہ سمجھے رہے

کہ آپ سجدہ میں ہیں۔ آپ کی وفات کا حال بہت دیر میں معلوم ہوا۔ آپ نے

۹۔ رمضان ۶۲۲ھ میں وصال فرمایا۔ بوقت وفات آپ کی عمر ایک سو اسی (۱۸۰)

سال کی تھی۔ آپ کا مزار مبارک مہرولی میں واقع ہے۔

آپ کے خلفاء حسب ذیل ہیں :

آپ کے خلفاء : شیخ احمد نہروانی۔ شیخ عین الدین قصاب۔ شیخ

شاہی موتیاب۔ شیخ محمود موئینہ دوز۔

حضرت قاضی صاحب، صاحب دل ہونے کے علاوہ صاحب

سیرت پاک، علم بھی تھے۔ آپ علم ظاہر و باطن میں کمال رکھتے تھے۔ آپ

کو سماع کا بہت شوق تھا۔ دہلی میں سماع کا سکہ آپ ہی نے بجایا تھا۔

آپ کا علمی ذوق : سماع کے بارے میں آپ نے بہتر (۷۲) رسالے لکھے

ہیں۔ آپ کی مشہور تصانیف حسب ذیل ہیں :

طوالح الشمس شرح اسمائے حسنة۔ لوامع۔ لواج۔ مطالع شرح چہل

حدیث۔ کتاب ہفت اجاب۔ رسالہ (قاضی عید الدین ناگوری)

لہ سفینۃ الاولیاء، گلزار بارگاہ فائد القوائد ص ۱۹۵

آپ کی تعلیمات اسرار حقیقت و معانی طریقت
کا بیش بہا خزانہ ہیں۔

خدا کے ساتھ معاملہ آپ نے فرمایا کہ : اے
"جس شخص کا خدا کے ساتھ معاملہ نہیں ہے،
اس کی بات کسی کے دل میں اثر نہیں کرتی۔ تو معلوم کر کہ نمازیں
تجکیر مقام ہدیت ہے۔ قیام مقام قربت ہے۔ قرأت مقام
مکالت ہے۔ رکوع مقام خوف ہے۔ سجود مقام شاہدہ ہے۔
قعود مقام اگت ہے۔"

آپ نے فرمایا کہ : اے
"قبلے چار ہیں :

۱۔ قبلہ حواہج ہے جو تمام مومن مسلمانوں پر فرض ہوا۔ جس کی طرف
نماز پڑھتے ہیں۔

۲۔ قبلہ دل ہے کہ اصحاب طریقت کو اس سے توجہ ہے اور اس میں
ان کی مشغولی ہے۔

۳۔ قبلہ پیر ہے کہ مریدوں کی توجہ شیخ کی جانب ہو۔

۴۔ قبلہ وجہ اللہ ہے اور تمام قبلوں کو محو کرنے والا ہے اور رسل و
انبیاء و عباد اخص اولیاء کی توجہ اس جانب ہے۔"

بعض اقوال آپ کے بعض اقوال حسب ذیل ہیں :
فراوشی نفس یاد حق ہے۔ پس وہ دل نہیں مرتاج اس صفت

۱۵ رسالہ حضرت قاضی حمید الدین ناگوری لے رسالہ حضرت قاضی حمید الدین ناگوری۔

سے متصف ہو جس کو یاد حق نہیں ہے، وہ فانی ہو گا۔

- ہر چیز کی غایت ہے، اور غایت عبادت کی عقل ہے۔ اس واسطے کہ عبادت بے علم رنج بہودہ ہے اور علم بے عقل درد سر ہے، اور محبت روز قیامت ہی عقل ہے۔
- احوالِ درویش بساری محبت و شیوخ ہے۔ جب درویشوں کو محبت غالب ہوتی ہے۔ دوست کی تجلی میں اس طرح محو ہو جاتے ہیں کہ اس وقت دوسرے کسی کا خیال نہیں رہتا۔

- روزہ، مجازی کھانے پینے سے باز رہنا ہے۔ روزہ حقیقی خواب و بیداری میں اور اٹھتے بیٹھتے عبادت میں رہنا ہے۔

کرامات بغداد سے دہلی آتے ہوئے آپ کو ایک جوگی جس کا نام گیان ناتھ تھا ملا۔ اس نے آپ کو کسی گھاس کی جڑ پیش کی، جس سے اکیر بنتی تھی۔ حضرت قاضی صاحب نے وہ جڑی دریا میں پھینک دی۔ جوگی نے انسوں کیا۔ آپ نے دریا میں ہاتھ ڈال کر اس جڑی کو نکال دیا۔ پھر آپ نے اس سے آنکھیں بند کرنے کو فرمایا۔ جب اس نے آنکھیں بند کر کے کھولیں، وہ عرش سے تحت الثریٰ تک دیکھ سکتا تھا۔ ہر چار طرف سوتا نظر آتا تھا، وہ جوگی بہت متاثر ہوا، اور آپ سے بیعت ہوا۔

ایک مرتبہ دہلی میں بارش نہیں ہوئی۔ بادشاہ نے شامخ سے دُعا کی درخواست کی۔ حضرت قاضی صاحب نے شامخ کی فرمائش کی۔ بادشاہ نے کھانے اور شامخ کا انتظام کیا۔ کھانے کے بعد شامخ شروع ہوا۔ ایسی بارش ہوئی کہ لوگ کہنے لگے کہ اب رک جائے تو بہتر ہے۔

۱۵ انوار الاولیاء ۱۵ انوار الاولیاء ۱۵ غیر المجاہس (اردو ترجمہ) ص ۲۔

باب ۴

حضرت شیخ بدرالدین غزنوی

حضرت شیخ بدرالدین غزنوی مقبول بارگاہ ایزدی ہیں۔ قطب الاقطاب
حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مرید اور خلیفہ ہیں۔ آپ غزنی کے رہنے
والے ہیں۔

آپ کا خواب
آپ نے ایک رات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب
میں دیکھا کہ آں حضرت مع صحابہ کرام اور شاخ عظام تشریف
فرما ہیں۔ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر ایک درویش کے سپرد
کیا اور فرمایا:

”اے بدرالدین! تو اس درویش کا مرید ہو۔ وہ درویش جوان تھے، اور
ابھی قادمی نکل رہی تھی۔ ان درویش کا نام خواجہ قطب الدین ہے۔“
خواب سے بیدار ہو کر آپ نے یہ امدادہ کیا کہ جو درویش خواب
میں دکھائے گئے ہیں، انہیں تلاش کریں گے۔ پیر کی تلاش

آپ کو شہر بہ شہر لئے پھری۔ اس تلاش میں آپ حیران و سرگرداں پھرتے رہے۔ اپنا گھر چھوڑا، اپنا وطن چھوڑا، اپنے ماں باپ، عزیز واقربا کو چھوڑا۔ آپ غزنی سے روانہ ہوئے۔ اس سفر کا حال آپ نے خود ایک مرتبہ حضرت نظام الدین اولیاء سے بیان کیا۔ آپ نے ان کو بتایا کہ :

” میں غزنی سے لاہور آیا تو ان دنوں لاہور بالکل آباد تھا۔ کچھ مدت میں وہاں رہا۔ پھر وہاں سے میرا ارادہ سفر کا ہوا۔ ایک دل یہ چاہتا تھا کہ وہی جاؤں، اور کبھی چاہتا تھا کہ واپس غزنی جاؤں۔ میں سشش پنج میں تھا۔ لیکن دل کی کشش غزنی کی طرف زیادہ تھی، کیوں کہ وہاں ماں باپ، بھائی اور خویش واقربا رہتے تھے۔ اور وہی میں ایک داماد کے سوا اور کرتی نہ تھا۔“

سوال آپ کچھ طے نہ کر سکے کہ کہہ رہے ہیں۔ آخر کار آپ نے یہ طے کیا کہ قرآن شریف کی فال دیکھنا چاہتے اور جیسا کچھ فال میں نکلے گا اس کے مطابق قدم اٹھانا چاہتے۔ آپ خود فرماتے ہیں : لے

” مختصر یہ کہ میں نے قرآن شریف سے فال دیکھنے کا ارادہ کیا۔ ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پہلے غزنی کی نیت سے دیکھا تو مذاب کی آیت نکلی۔ پھر وہی کی نیت سے دیکھا تو بہشتی ندیوں اور بہشت کے اوصاف کی آیت نکلی، اگرچہ دل تو غزنی کی طرف جانے کو چاہتا تھا، لیکن فال کے مطابق وہی آیا۔“

لے فرائد الغوامد (اردو ترجمہ) ص ۱۰۱۔

آخر کار دہلی پہنچے۔ آپ فرماتے ہیں : لہ
 دہلی میں آمد۔ جب شہر میں پہنچا تو سنا کہ میرا داماد قید میں ہے۔
 میں بادشاہ کے دروازے پر آیا تاکہ اس کے حال کی اطلاع
 دوں۔ میں نے دیکھا۔ تو گھر سے نکلا ہی تھا۔ ہاتھ میں کچھ روپے
 لئے ہوئے تھا۔ مجھ سے بغل گیر ہوا اور نہایت خوش ہوا۔ مجھے
 اپنے گھر لے گیا اور روپے میرے ستائے لارکھے۔ میری دل
 جھمی ہوئی۔“

آپ نے خواجہ قطب الدین کے متعلق دریافت کیا۔ آپ کی مسرت کی کوئی
 انتہا نہ تھی۔ جب آپ کو معلوم ہوا کہ وہ درویش جن کا نام خواجہ قطب الدین ہے اور
 جن کو آپ نے خواب میں دیکھا تھا، دہلی میں تشریف رکھتے ہیں۔ ایک مشہور درویش ہیں
 اور حضرت خواجہ قطب الدین اور حضرت قاضی حمید الدین ناگوری ایک ہی جگہ ساتھ
 رہتے ہیں۔ پھر آپ نے عمر کے متعلق دریافت کیا۔ آپ کو بتایا گیا کہ حضرت قاضی حمید الدین
 ناگوری ضعیف ہیں۔ ان کی عمر قریب ایک سو بیس سال کی ہے۔ لیکن خواجہ
 قطب الدین صاحب کی جوانی کا آغاز ہے۔ قریب سترہ سال کے ہوں گے، ڈاڑھی
 بھل رہی ہے۔

یہ سن کر آپ کو پورا پورا یقین ہو گیا کہ وہ درویش جن کو انہوں نے خواب میں
 دیکھا تھا یہی بزرگ ہیں۔ آپ حضرت قطب صاحب کی خدمت میں حاضر ہونے
 کے لئے بے چین تھے۔ کچھ لوگوں سے آپ کو حضرت قطب صاحب کی خانقاہ
 کا پتہ معلوم ہوا۔ آخر کار آپ خانقاہ پہنچے۔ خانقاہ میں اس وقت سماج ہو رہا تھا۔

حضرت قطب صاحب تشریف رکھتے تھے یہ
 بیعت و خلافت آپ بھی جا کر یا ادب بیٹھ گئے۔ جب سماع ختم ہوا تو
 آپ نے سر نیاز زمین پر رکھا۔ شوق قدم بوسی کا اظہار
 کیا، اور پھر نہایت عاجزی کے ساتھ عرض کیا کہ:

”بندہ بدرالدین حضرت کا مرید ہونا چاہتا ہے“

حضرت قطب صاحب نے ارشاد فرمایا کہ:

”اے بدرالدین! تو میرا مرید، اسی رات سے ہو گیا تھا، جس
 رات تو نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تھا۔ اور
 آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے میرے پُر و کر دیا تھا اور
 فرمایا تھا کہ اے مرید بنائے، میں نے اسی رات اللہ تعالیٰ
 کے روبرو تجھے مرید کر لیا تھا اور بارگاہِ الہی میں نے عرض کی
 تھی کہ بدرالدین غزنوی کو قبول کر“

بارگاہِ الہی سے حکم ہوا تھا کہ اے قطب الدین! ہم نے تیری
 دعا قبول کر لی ہے، ہم نے بدرالدین غزنوی کو قبول کر لیا ہے
 اور اپنا دوست بنا لیا ہے۔۔۔۔“

آپ حضرت قطب صاحب کی فیضِ ترجمان سے یہ سن کر بہت خوش ہوئے
 آپ یہ چاہتے تھے کہ خواجگانِ چشت کی رسم ادا کی جائے۔ عالم رویا کے ملاوہ اس
 عالم میں بھی بیعت کا شرف بخشا جائے اور کلاہ چہارتر کی عطا کی جائے۔ آپ نے
 حضرت قطب صاحب سے اس کے متعلق عرض کیا۔ حضرت قطب صاحب نے آپ

کی درخواست منظور فرمائی۔ آپ کو شرفِ بیعت سے نوازا، اور کلاہ چہارت کی آپ
کو رحمت فرمائی۔ پھر آپ سے مخاطب ہو کر فرمایا: اے

”اے بدرالدین! آسمان کی طرف دیکھ“

آپ نے آسمان کی طرف دیکھا۔

حضرت قطب صاحب نے دریافت فرمایا کہ:

”اے بدرالدین تو نے کچھ دیکھا؟“

آپ نے جواب دیا کہ:

”میں نے عرش و کرسی کو دیکھا ہے۔“

پھر حضرت قطب صاحب نے فرمایا کہ:

”تو کس کا مرید ہے؟ آسمان کی طرف دیکھ کہ لوح محفوظ میں کیا

لکھا ہوا ہے؟“

آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور عرض کیا کہ:

”وہاں میں نے لکھا دیکھا ہے کہ میں آپ کا مرید ہوں۔“

پھر ارشاد ہوا کہ:

”زمین کی طرف دیکھ۔“

آپ نے زمین کی طرف دیکھا اب آپ تحتِ اترنی تک دیکھ

سکتے تھے۔ بیعت کے وقت آپ کی عمر (۷۰) سال کی تھی۔

آپ پر درشد کی خدمت میں رہ کر درجہ کمال کو پہنچے۔

حضرت قطب صاحب نے آپ کو خلافت عطا فرمائی۔ اپنے پر درشد

آپ نے فرقہ بھی پایا۔ وہاں سے قبل حضرت قطب صاحب نے آپ سے فرمایا کہ پہلے
 ”اے بدرالدین! جو نعمت ہم نے اپنے پیروں سے حاصل کی تھی وہ
 تجھے غایت کی، اور اللہ تعالیٰ سے التماس کی ہے کہ تو میرا
 محبوب بنے“

پیرومرشد کی نصیحتیں و قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین
 بختیار کاکی نے آپ کو چند نصیحتیں فرمائیں
 جس پر آپ ساری عمر کاربند رہے۔ وہ نصیحتیں حسب ذیل ہیں :

”ہمارے پیروں کی پیروی کرو۔ فقر و فاقہ کو اختیار کرو۔ فیروں اور
 غریبوں کو عزیز جانو۔ دنیا والوں سے میل جول نہ رکھو، دنیا سے
 باز رہو، گڈڑی پہنو۔ ہر وقت خدا کی یاد میں مشغول رہو۔
 اللہ تعالیٰ کے دوستوں سے محبت کرو۔ دولت مندوں سے زیادہ
 درویشوں کی عزت کرو۔ فیروں کے ہاتھ خود اپنے ہاتھ سے دھوؤ۔“

آپ کے سپرد خدمت حضرت قطب صاحب نے خالقاہ کی امامت
 آپ کے سپرد فرمائی۔ آپ نے اس خدمت
 کو بہ حسن و خوبی انجام دیا۔

صدمہ دہلی آنے کے کچھ دنوں بعد آپ کو یہ معلوم ہو کر سخت صدمہ ہوا
 کہ مغلوں نے غزنی کو برباد کر دیا اور آپ کے والدین، بہن،
 بھائی اور خویش و اقربا کو شہید کیا۔

پیرومرشد کی خدمت آپ اپنے پیرومرشد کی خدمت میں ہر وقت
 حاضر رہتے تھے۔ اپنے پیرومرشد کی خدمت

۱۵ سیر العارفين ص ۱۶۱۔ ۱۶۲ فوائد الفوائد ص ۱۶۱۔ ۱۶۲ فوائد الفوائد ص ۱۶۱۔

کو اپنے لئے باعثِ سعادت سمجھتے تھے۔

جب آپ اپنے پیرومرشد کی خدمت میں حاضر
پیرومرشد کا ادب ہوتے تو باادب بیٹھے، اور سر جھکالیتے۔ آپ

کے پیرومرشد آپ کا یہ ادب دیکھ کر فرماتے تھے

بحقیقت چراغ کشتہ شود

چوں بیدار رفت از سرش روغن

ایک مرتبہ قاضی منہاج الدین کو حضرت شیخ بدرالدین غزنوی کے
ایک واقعہ گھر لایا گیا۔ قاضی صاحب نے آنے کا وعدہ کیا۔ وعطسے فارغ

ہو کر حسب وعدہ آپ آئے حضرت شیخ بدرالدین کے گھر پر محفل سماج منعقد ہوئی۔ یہ
محفل بہت پر کیف تھی۔ قاضی صاحب پر وجد طاری ہوا، اور آپ نے دستار اور جام

وغیرہ سب پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دئے تھے

قاضی صاحب کی چھٹی چھاپڑ کرتے تھے
قاضی منہاج الدین آپ کو "مشیر سرفراز" کہا

حضرت نظام الدین اولیاء نے ایک رات حضرت
شیخ بدرالدین غزنوی سے خواب میں دعا کرنے کی

درخواست کی۔ اتنا س امر کے واسطے دعا کرنے کی درخواست کی کہ آپ کو قرآن
شریف یاد ہو جائے

آپ کو اپنے پیرومرشد قطب الاقطاب حضرت قطب الدین بختیار کاکی
آرزو بہا خلیفہ اکبر، جانشین اور قائم مقام بننے کی آرزو تھی وہ آپ کی یہ آرزو

۱۵۱ فائدہ فوائد ص ۱۵۵ کہ فائدہ فوائد ص ۱۵۶ کہ فائدہ فوائد ص ۱۵۷

۱۵۲ فائدہ فوائد ص ۱۵۲

پوری نہ ہوتی۔

مجلس وعظ آپ کی مجلس وعظ میں ہر طبقے کے لوگ ہوتے تھے۔ آپ کی مجلس میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر، حضرت سید مبارک غزنوی، حضرت شیخ ضیاء الدین مرید غریب، مولانا محمد جاجرمی اور قاضی عید الدین ناگوری نے شرکت فرمائی ہے۔

آخری ایام وفات سے قبل آپ شیخ امام الدین ابدال کو جو حضرت شیخ ضیاء الدین مرید غریب کے بھتیجے ہیں اپنا جانشین مقرر فرمایا۔ ان کو گڈڑی عطا کی اور ان کے لئے دعائے خیر کی۔

آپ ہر سال نماز درازی عمر پڑھا کرتے جو رجب کے آخر میں پڑھی جاتی ہے۔ جس سال آپ کا وصال ہوا، آپ نے یہ نماز نہیں پڑھی۔ جب نماز ادا نہ کرنے کی وجہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا کہ عمر باقی نہیں ہے۔

وفات شریف آپ کی عمر سو سال سے زیادہ ہوئی۔ آپ کا مزار مبارک حضرت خواجہ قطب صاحب کے قریب ہے۔ آپ کا سالانہ عرس ہوتا ہے۔

سیرت مقدسہ آپ حافظ قرآن تھے اور ایک قرآن دن کو اور ایک قرآن رات کو ختم کرتے تھے کہ آپ ایک بلند پایہ درویش تھے۔ ایک اچھے عالم تھے۔ رات کو جاگتے تھے۔ درویشوں کی خدمت کو آپ غفلت سمجھتے تھے۔ آپ دوسو شاخین سے بلے اور ان سے روحانی فیض پایا ہے ان کی نگاہ لطف ہم سے آپ مالامال ہوئے۔ آپ کی بزرگی اور برگزیدگی کے سبب معترف اور عقیدت مند

۱۵۹، بروقتہ الاقطاب ص ۱۷۲۔ سیر العارفين ص ۱۶۱۔ لطائف اشرفی بیان طوائف ص ۲۶۱۔
۱۵۹، بروقتہ الاقطاب ص ۱۷۲۔ سیر العارفين ص ۱۶۱۔ لطائف اشرفی بیان طوائف ص ۲۶۱۔

تھے۔ آپ دغظ بہت کہتے تھے۔

آپ کو سماع کا بہت شوق تھا۔ باوجود ضعف اور کمزوری کے آپ سماع
میں خوب رقص کرتے۔ آپ سے دریافت کیا گیا کہ باوجود عمر اور کمزوری کے آنا
رقص کیوں کرتے ہیں؟

آپ نے جواب دیا کہ لے

”اداز خود نمی رقصد عشق می رقصاند“

ترجمہ : وہ خود نہیں ناچتا ہے (بلکہ) عشق نچاتا ہے۔

آپ کو شاعری کا بھی شوق تھا۔ آپ کی غزل کا ایک شعر حسب ذیل ہے:

نوحہ می کرد من نوحہ گر در مجھے

آہ زیں سوزم برآمد نوحہ گر آتش گرفت

قولِ زریں آپ نے فرمایا کہ : لے

”بے چارہ عاشق جو جمالِ ذوالجلال کا مشتاق ہے، وہ حوروں

کو کیا کرے“

آپ کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات تھی۔ ایک مرتبہ

آپ کے والد ماجد نے آپ سے کہا کہ :

”اگر مجھے حضرت خواجہ خضر کو دکھاؤ تو بہت اچھا ہو“

ایک دن دغظ ہو رہا تھا اور آپ کے والد بزرگوار بھی وہاں تشریف رکھتے

تھے۔ ایک ادنیٰ جگہ پر جہاں کوئی نہیں بیٹھ سکتا تھا، ایک شخص بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت

لے روضۃ الاقطاب ص ۲۷ لے فرادۃ القوائد ص ۱۵۵ لے میرالطافین ص ۱۶۴

بدرالدین غزنوی نے اپنے والد ماجد سے کہا کہ دیکھتے وہ حضرت خواجہ خضرؒ ہیں۔
آپ کے والد نے وعظ کے بعد ملنا مناسب سمجھا۔ جب وعظ ختم ہوا تو اس جگہ کوئی
بھی نہ تھا لہ

ایک مرتبہ دہلی میں بارش بہت کم ہوئی۔ سلطان شمس الدین التمش آپ سے
دعا کا طالب ہوا۔

آپ نے فرمایا کہ : لہ

”جب تک بدرالدین زندہ ہے، کبھی دہلی میں قحط نہیں پڑے گا۔

اور نہ ہی بارش کی کمی ہوگی۔“

آپ کے یہ فرماتے ہی بارش ہونے لگی۔

آپ ہر جمعرات کو مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ جاتے تھے اور خانہ کعبہ اور حضرت
محمد مصطفیٰ کے روضہ مبارک کی زیارت سے مشرف ہوتے تھے لہ

لہ سیر الاولیاء (فارسی) ص ۱۶۵، ۱۶۶۔ لہ سیر العارفين ص ۱۶۰۔ لہ سیر العارفين ص ۱۶۲۔

هَمُّ مَنِ خَشِيَ رَبَّهُمْ مُشْفِقُونَ ○

پ ۱۸۔ مومنون۔ ۴۲ ع

مطلب: وہ اپنے پروردگار کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں۔

حصہ دوم

باب ۵

حضرت شیخ نجیب الدین متوکل

حضرت شیخ نجیب الدین متوکل صاحبِ دل تھے۔ آپ صاحبِ کشف و کرامات تھے۔ سداویا اور محبتِ مشائخِ وقت تھے۔ آپ مشاہدات و مقالاتِ عالی میں یکتا تھے۔ تمام مشائخِ وقت آپ کے کمالاتِ صوری و معنوی کے مقرر تھے۔ آپ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکرؒ کے حقیقی بھائی فرید اور خلیفہ تھے۔

خاندانی حالات آپ فرخ شاہ کے خاندان سے تھے۔ فرخ شاہ کابل کے بادشاہ تھے۔ جب غزنی خاندان کا عروج ہوا، فرخ شاہ کے ہاتھ سے حکومت نکل گئی۔ کابل پر غزنی خاندان کا قبضہ ہوا۔ اس انقلاب کے بعد بھی سرخ شاہ نے کابل نہیں چھوڑا۔ ان کی اولاد بھی کابل ہو رہی۔ چنگیز خاں نے غزنی کو تباہ و برباد کیا۔ حضرت نجیب الدین متوکل کے حسبِ بزرگوں کابل کی لڑائی میں شہید ہوئے۔

سیر الاولیاء ص ۱۵

آپ کے دادا حضرت قاضی شعیب فاروقی مع تیس لڑکوں کے لاہور تشریف لائے۔ لاہور سے آپ قصور تشریف لے گئے۔ قصور کا قاضی آپ کے خاندان کی بزرگی، اور عظمت سے واقف تھا۔ اس نے آپ کے آنے کی اطلاع بادشاہ کو دی۔ بادشاہ نے آپ کو ٹیسواں میں قاضی مقرر کیا۔ آپ وہاں رہ کر اپنے فرائض انجام دینے لگے۔

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کے والد ماجد سلطان شہاب الدین عوری کے عہد میں ملتان تشریف لائے۔ آپ ملتان سے قصبہ کوٹھوال میں رونق افروز ہوئے اور وہاں قاضی کے عہدے کے فرائض انجام دینے لگے۔ وہاں آپ نے شادی کی۔

آپ کے والد کا نام شیخ جمال الدین سلیمان ہے۔ آپ **وَالِدِ مَا جِدِّ** امیر المومنین حضرت عمر فاروقؓ کی اولاد میں سے ہیں۔ علم و فضل میں آپ کو دستگاہ حاصل تھی۔

آپ کی والدہ ماجدہ کا نام بی بی قریم خاتون ہے۔ آپ **وَالِدَةِ مَا جِدِّ** مولانا وجہ الدین خمندی کی لڑکی تھیں۔ آپ ایک پاک نہاد، پاک سیرت اور پاک باطن خاتون تھیں، آپ سے کرامتیں سرزد ہوتی ہیں۔ ایک رات کا واقعہ ہے کہ آپ کی والدہ عبادت میں مشغول تھیں۔ ایک چور گھر میں داخل ہوا۔ اس پر آپ کی والدہ ماجدہ کی ایسی دہشت مٹھی کہ وہ اندھا ہو گیا۔ چور بہت گھبرا یا۔ اس نے آواز دی کہ :

”میں چور ہوں اور چوری کے لئے اس گھر میں آیا ہوں۔ البتہ

۱۰ سیر الاولیاء۔ ۱۰۲ سیر العارفين از مولانا جمال الدین صاحب۔ ۱۰۲ جواہر فریدی ص ۱۰۱۔

یہاں کوئی سہے جس کی دہشت نے مجھے اندھا کیا۔ عہد کرتا ہوں کہ اگر
 بیانی آجائے تو پھر چوری نہ کروں گا۔“

آپ کی والدہ صاحبہ نے یہ سن کر اس چور کے لئے دعا فرمائی۔ آپ کی دعا
 سے اس کی آنکھوں میں روشنی آگئی۔ صبح وہ چور پھر آیا اور مع اہل و عیال کے مسلمان
 ہو گیا۔

بھائی آپ کے دو حقیقی بھائی اور ہیں۔ آپ کے بڑے بھائی کا نام اعز الدین
 محمود ہے، ان سے چھوٹے حضرت بابا فرید الدین مسعود ہیں۔ سب سے
 چھوٹے آپ خود ہیں۔

نسب نامہ پدری آپ کا نسب نامہ پدری حسب ذیل ہے :-
 شیخ نجیب الدین بن شیخ جمال الدین سلیمان
 فاروقی بن شعیب فاروقی۔ بن شیخ احمد بن شیخ یوسف فاروقی بن
 شیخ محمد فاروقی بن شیخ شہاب الدین بن شیخ احمد المعروف بہ فرخ
 شاہ کابلی فاروقی بن شیخ نصیر الدین فاروقی بن سلطان محمود المعروف
 بہ شہنشاہ فاروقی بن شیخ شادمان شاہ بن سلطان مسعود شاہ فاروقی
 بن شیخ عبداللہ فاروقی بن شیخ واعظ اصغر فاروقی بن شیخ ابوالفتح
 کاشغری فاروقی بن شیخ اسحق فاروقی بن حضرت ابراہیم فاروقی بن ناصر الدین
 فاروقی بن شیخ عبداللہ فاروقی بن امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب۔

ولادت شریف آپ قبیلہ گوتھوال میں پیدا ہوئے۔

۱۹۱۱ء جمہور فریدی ص ۱۹۱

نام نامی آپ کا نام نجیب الدین ہے۔

آپ کا لقب متوکل ہے۔ آپ کے متوکل کہلانے کی وجہ یہ ہے کہ آپ
لقب باوجود اہل و عیال کے توکل میں بیگانہ روزگار تھے۔ تنگ دستی اور عسرت
میں گذرہوتی تھی۔ ظاہراً اسباب پر نگاہ نہ رکھتے تھے۔ آپ کا توکل مثالی تھا۔

آپ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے ہمراہ دہلی آئے۔
دہلی میں آمد حضرت بابا صاحب دہلی سے اجود من تشریف لے گئے، لیکن
آپ حضرت بابا صاحب کے حکم کے مطابق دہلی میں رہنے لگے۔

آپ اپنے بڑے بھائی حضرت بابا فرید الدین مسعود
بیعت و خلافت گنج شکر سے بیعت میں اور حضرت بابا فرید گنج شکر

سے آپ نے خرقہ خلافت پہنا۔

دہلی میں ایتم نامی ایک شخص رہتا تھا۔ اس نے ایک
مسجد میں امامت مسجد تعمیر کی اور اس مسجد کی امامت حضرت شیخ

نجیب الدین متوکل کے سپرد کی اور اس شخص نے اپنی لڑکی کی شادی بڑے تزک و
احترام سے کی اور کافی روپیہ خرچ کیا۔ آپ نے اس شخص سے کہا کہ جتنا کہ اس شخص
نے شادی میں خرچ کیا ہے اگر اس کا نصف خدا کی راہ میں خرچ کرتا تو نہ معلوم کیا
سے کیا ہو جاتا۔ یہ بات اس شخص کو ناگوار گذری۔ اس نے آپ کو امامت
سے برطرف کر دیا۔

آپ نے اجود من جا کر اپنے بڑے
حضرت بابا صاحب کو اطلاع بھائی حضرت بابا فرید الدین مسعود

لے سیرالاولیاء

گنج شکر کو اس واقعہ کی اطلاع کی حضرت بابا فرید نے یہ سن کر فرمایا :
 مَا تَبْتَغِ مِنْ آيَةٍ اَوْ تَنْسِهَا نَاتٍ بِخَيْرٍ مِمَّا آوَمْتُمْهَا
 اس کے بعد آپ نے فرمایا : "اگر تیری گویا استکری پیدا ہوگا"
 اسی زمانے میں استکری نام کا ایک شخص وہاں آیا۔ اس نے اس خاندان
 کی بہت خدمت کی۔

حضرت نظام الدین
 اولیاءِ حبیبِ دہلی

حضرت نظام الدین اولیاء کی آپ کے عقیدت

تشریف لائے، آپ کے پڑوس میں سکونت اختیار کی۔ ان کو آپ سے کافی عقیدت
 تھی۔ اپنی والدہ ماجدہ کے وصال کے بعد حضرت محبوب الہی زیادہ وقت آپ کی
 صحبت میں گزارتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے آپ سے قاضی بننے کی دعا لینی چاہی
 لیکن آپ نے دعا نہ کی اور فرمایا کہ :

"تم قاضی نہ بنو گے، بلکہ اور ہی کچھ بنو گے"

ایک مرتبہ حضرت محبوب الہی نے آپ سے مرید ہونا چاہا۔ آپ نے مرید کرنے
 سے انکار کیا اور فرمایا کہ اگر مرید ہونا ہے تو حضرت شیخ بہار الدین زکریا ہمتانی یا حضرت
 فرید الدین مسعود گنج شکر میں سے کسی کے مرید ہو جائیں۔

آپ ایک نیک اور بزرگ خاتون تھیں۔
 ان کو آپ سے انتہائی محبت اور عقیدت
 تھی اور آپ بھی ان کو بہن سمجھتے تھے اور ان کے حال پر نہایت شفقت فرماتے
 تھے۔ جب آپ کے یہاں فاقہ ہوتا، دوسری صبح سیر بھر کی یا آدھ سیر کی روٹیاں پکا

لہ سیرالاولیاء ص ۷۸

کر کسی کے ہاتھ وہ بھیج دیتی تھیں۔ ایک مرتبہ اس نے صرف ایک روٹی بھیجی۔ آپ نے تڑپاٹھنے کے طور پر فرمایا کہ :

”پروردگار! جس طرح تو نے اس عورت کو ہائے حال سے واقف کیا ہے، شہر کے بادشاہ کو بھی واقف کرتا کہ کوئی بابرکت چیز بھیجے۔“

پھر آپ مسکراتے اور فرمایا کہ :

”بادشاہوں کو وہ معافی کہاں نصیب ہے کہ واقف ہوں۔“

ایک سفر کا واقعہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر نے اجودھن میں سکونت اختیار کرنے کے بعد آپ کو والدہ ماجدہ کے لانے کے لئے بھیجا۔ آپ گئے۔ راستے میں آپ نے درختوں کے سائے میں بیٹھ کر آرام کیا۔ پانی کی ضرورت ہوئی۔ جب آپ پانی لے کر واپس آئے۔ والدہ صاحبہ کو اس جگہ نہ پایا۔ آپ سخت حیران اور پریشان ہوئے والدہ صاحبہ کو ہر جگہ تلاش کیا لیکن کوئی پتہ نہ چلا۔ آخر کار ناامید ہو کر وہاں سے چلے اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی خدمت میں پہنچ کر سارا قصہ عرض کیا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے یہ سن کر فرمایا کہ کھانا پکائیں اور صدقہ دیں۔

ایک مدت کے بعد آپ کا پھر اسی جنگل سے گذر ہوا جب آپ اسی پیڑ کے نیچے آئے آپ کو خیال ہوا کہ اس گھاؤں کے چاروں طرف جا کر دیکھیں، شاید والدہ صاحبہ کا پتہ لگ جائے، آپ نے ایسا ہی کیا۔ آپ کو آدمی کی چند ہڈیاں ملیں۔ آپ نے یہ خیال کر کے کہ شاید یہی ہڈیاں والدہ صاحبہ کی ہوں اور مگن ہے

لے فرما نواذ صلا

ان کو کسی شیریا کسی درندے نے ہلاک کر دیا ہو۔ ان ہڈیوں کو جمع کیا اور ایک تھیلے میں رکھا۔ وہ تھیلے لے کر آپ حضرت بابا فرید گنج شکر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا قصہ بیان کیا۔ حضرت بابا فرید گنج شکر نے یہ سن کر فرمایا کہ وہ تھیلی دکھاؤ اور اس کو جھاٹا۔ ایک ہڈی بھی برآمد نہ ہوئی۔

حضرت خواجہ خضر سے ملاقات
ایک دن عید کے موقع پر آپ
عید گاہ سے گھر واپس تشریف

لا رہے تھے۔ لوگ آپ کو گھیرے ہوئے تھے، اور آپ کے ہاتھ پاؤں چوم رہے تھے۔ کچھ درویشوں نے جنہوں نے آپ کو پہلے نہ دیکھا تھا، دریافت کیا کہ یہ کون بزرگ ہیں، جب ان کو آپ کا نام معلوم ہوا، ان درویشوں نے آپس میں طے کیا کہ ان کے یہاں چر کر کھانا کھانا چاہئے۔ وہ درویش آپ کے پاس آئے، اور ہا کہ ان سب کے لئے کھانے کا انتظام کیجئے۔ آپ نے ان کو مرجا کہا اور بٹھا دیا، اس روز آپ کے گھر میں فاقہ تھا۔ آپ نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر کچھ ہو تو پکالو۔ جب آپ کو یہ معلوم ہوا کہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، آپ نے اپنی بیوی سے کہا کہ چادر سر سے اتار کر دے دو تاکہ روٹی اور شوربا بازار سے خرید لائیں، چادر دیکھی اس میں چند پونڈ لگے ہوئے تھے۔ اسے کون خریدتا۔ پھر آپ نے سوچا کہ اپنا مصلیٰ فروخت کر دوں۔ مصلیٰ دیکھا اس میں بھی کئی پونڈ لگے ہوئے تھے۔ مجبور ہو کر آپ نے وہی کیا، جیسا کہ عادت فقراء ہے کہ اگر درویش صاحب خانہ کے پاس کچھ نہ ہو تو وہ پانی کا کوزہ ہاتھ میں لے کر پائین مجلس کھڑا ہو جائے۔ آپ نے ان سب درویشوں کو پانی پلایا۔ ان درویشوں نے پانی کا کوزہ ہاتھ میں لے کر

تھوڑا تھوڑا پانی پیا، اور آپ سے رخصت ہوئے۔
ان درویشوں کے جانے کے بعد آپ اپنے حجرہ میں تشریف لے گئے۔ آپ
نے اپنے دل میں کہا:

«ایسا عید کا دن جاوے اور میرے اطفال کے منہ پر کچھ طعام
نہ جاوے اور مسافر آئیں اور نامراد جاویں»
آپ انہیں خیالات میں کھوتے ہوئے تھے کہ ایک شخص یہ شعر پڑھتا ہوا
ظاہر ہوا ہے

با دل گفتسم ولا حضرت را بینی
دل گفت مرا اگر نمائی بینم

آپ سمجھ گئے کہ یہ حضرت خواجہ خضر ہیں، تعظیم کے لئے کھڑے ہوئے۔ حضرت
خضر نے سن کر فرمایا کہ کیا شکایت کرتے تھے۔ آپ نے کہا کہ دل سے لڑائی اس بابت
تھی کہ گھر میں کچھ نہیں۔ حضرت خضر نے پھر آپ سے کچھ کھانا لانے کو کہا۔ آپ نے
غذائشیں کیا۔ حضرت خضر نے فرمایا کہ جو کچھ گھر میں ہو لے آؤ۔ آپ گھر میں گئے۔
آپ نے دیکھا کہ ایک خان کھانے سے بھرا ہوا رکھا ہے۔ بیوی سے دریافت کرنے
پر معلوم ہوا کہ ایک شخص یہ خان رکھ کر چلا گیا۔ آپ اس میں سے کچھ کھانے لے کر اوپر
آئے۔ جب اوپر آئے تو وہاں کوئی نہ تھا۔

آپ نے اپنے دل میں کہا: «یہ سعادت جو مجھ کو ملی ہے بے نوائی اور
بے سرو سامانی کی برکت سے ہے»

آپ کے تین لڑکے تھے۔ ایک لڑکے کا نام شیخ اسماعیل ہے
آپ کی اولاد دوسرے کا شیخ احمد، اور تیسرے کا نام شیخ محمد ہے۔

۱۰۸
۱۰۸
۱۰۸

وفات شریف آپ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی خدمت میں انیس مرتبہ حاضر ہوئے۔ آپ ہر مرتبہ رخصت ہوتے وقت حضرت بابا فرید گنج شکر سے اپنے لئے دعا کرایا کرتے تھے کہ آئندہ پھر خدمت میں حاضر ہوں۔ آخری بار جب آپ دعا کے خواستگار ہوئے، حضرت بابا فرید گنج شکر خاموش ہو گئے۔

حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ جب حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے خلافت نامہ عطا فرمایا، آپ کو تاکید کی کہ ہانسی میں حضرت مولانا جمال الدین کو اور دہلی میں قاضی منتخب کو خلافت نامہ دکھائیں۔ آپ کو اس بات کا سخت تعجب ہوا کہ آپ کا یعنی حضرت شیخ نجیب الدین متوکل کا نام حضرت بابا فرید گنج شکر کے نہیں لیا۔ آپ سمجھے اس میں کوئی مصلحت ہوگی۔ جب آپ دہلی آئے، آپ کو معلوم ہوا کہ سات رمضان کو آپ کا وصال ہو گیا۔

آپ کا مزار دہلی میں شیخ نجیب الدین شیر سوار کے نام سے مشہور ہے۔ آپ کا مزار بی بی زلیخا کے مزار کے قریب دہلی میں ہے۔

سیرت پاک آپ ایک بلند پایہ درویش تھے۔ آپ نے توکل کا ایک اعلیٰ نمونہ پیش کیا۔ آپ کے استغراق کا یہ عالم تھا کہ حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں: ۱۰

”میں نے اس جیسا کوئی آدمی اس شہر میں نہیں دیکھا۔ اسے یہ معلوم نہ تھا کہ آج دن کون سا ہے، یا ہینہ کون سا ہے، یا غلہ کس بھاؤ بکتا ہے یا گوشت کس زرخانیچے میں۔ غرضیکہ کسی چیز

سے اسے واقفیت نہ تھی۔ صرف یاد الہی میں مشغول رہتا۔
 حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے ایک مرتبہ آپ سے فرمایا کہ :
 ”تو بھی ابدال میں سے ہے؟“

علمی ذوق آپ نے بارہا چاہا کہ ”جامع الحکایات“ لکھیں۔ آخر کار حمید
 نامی ایک شخص نے کتابت شروع کی، وہ کتاب جلد ہی ختم ہوئی۔ یہ
اقوال پکا مومن وہ شخص ہے کہ جو دوستی حق کو اولاد کی دوستی پر ترجیح دے گا
 جب دنیا ہاتھ سے جانے فکر نہ کر کہ رہنے والی نہیں ہے۔

ورد و وظیفہ آپ حسب ذیل دعا پڑھا کرتے تھے : گے

ایمنوانی عباد اللہ حکمک اللہ

کرامت آپ کے بدایوں میں ایک بھائی تھے۔ آپ ہر سال ان سے ملنے
 بدایوں جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ دونوں بھائی شیخ علی سے جو
 وہاں ایک امیر خاندان کے فرد تھے، ملنے گئے۔ آپ نے ادب کی وجہ سے فرش
 تک پہنچنے سے دو چار قدم پہلے ہی اپنے جوتے اتار لئے۔ پس پہلے آپ نے زمین
 پر پیر رکھے اور پھر فرش پر جو مصلیٰ تھا۔ شیخ علی اس بات سے رنجیدہ ہوا اور کہا
 کہ یہ بوریہ مصلیٰ ہے جس پر دونوں بھائی بیٹھ گئے۔ شیخ علی کے سامنے ایک کتاب
 رکھی تھی۔ آپ نے دریافت فرمایا، یہ کون سی کتاب ہے۔ شیخ علی نے برہنہ
 رنجش کوئی جواب نہ دیا۔
 آپ نے پھر کہا :

۱۔ فائدہ نواز مدظلہ۔ ۲۔ جاہ فریدی مدظلہ۔ ۳۔ فائدہ نواز مدظلہ۔ ۴۔ سیلابیہ مدظلہ۔ ۵۔ فائدہ نواز مدظلہ۔ ۶۔

”اگر اجازت ہو تو کتاب کو دیکھوں“

اجازت لے کر آپ نے وہ کتاب کھولی۔ جب کتاب کھولی، اس میں

ہوا دیکھا کہ:

”آخر زمانے میں ایسے مشائخ ہوں گے کہ خلوت میں گناہ کرتے

ہوں گے اور مجلس میں اگر ان کے فرش پر کسی کا پیر پڑ جائے تو

قیامت کر دیں گے“

آپ نے وہ کتاب شیخ علی کو دی۔ شیخ علی وہ عبارت دیکھ کر پشیمان ہوا، اور

اس نے آپ سے معذرت چاہی۔

باب ۶

حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوبِ الہی

حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب رب العالمین ہیں۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے جانشین ہیں۔ خواجہ راستین ہیں۔ نظام الحق والشرع والہدای والدین ہیں۔ حضرت محبوب الہی کے خاندان کے افراد بنجارا کے رہنے والے تھے لہٰذا آپ کے دادا حضرت سید علی اور آپ کے نانا حضرت سید عرب بنجارا سے ہجرت کر کے مع اہل و عیال لاہور تشریف لائے۔ لاہور میں چند روز قیام کر کے بدایوں تشریف لے گئے، اور وہیں سکونت اختیار کی۔ بدایوں اس زمانے میں صوفیوں اور عالموں کا مرکز تھا۔ حضرت سید علی اور حضرت

سید عرب نہایت مستقی اور پرہیزگار تھے۔ دینی عزت اور دولت کے علاوہ یہ حضرات دنیاوی ثروت و محنت سے بھی مالا مال تھے۔

و — آپ کے والد ماجد کا نام خواجہ سید احمد ہے۔ آپ ماورزاہ والد ماجد ولی تھے۔ آپ کو اناوت و خلافت اپنے والد حضرت خواجہ سید علی سے ملی تھی۔ آپ نے چند روز قضا کے عہدے کو زینت بخش کر ترک و تہجد اختیار کیا۔ آپ بالکل گوشہ نشین ہو گئے۔

وَالدَّةُ مَا جِدَّہ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت خواجہ سید عرب کی صاحبزادی ہیں۔ آپ صبر و شکر اور تسلیم و رضا میں یکتا تھیں۔ آپ زہد و ورع، اور علم و حلم کے واسطے مشہور تھیں۔

نَسَبِ نَامۃِ پَدَرۃِ مِی آپ کا نسب نامہ پدری حسب ذیل ہے :
حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء بن سید احمد بن سید علی البخاری بن سید عبداللہ بن سید حسن بن سید علی بن سید احمد بن سید عبداللہ بن سید علی اصغر بن سید جعفر بن امام علی ہادی لقی بن امام محمد لقی الملقب یہ جواد بن حضرت امام علی رضا بن حضرت امام موسیٰ کاظم بن حضرت امام جعفر صادق بن حضرت امام محمد باقر بن حضرت امام علی الملقب بہ زین العابدین بن حضرت سیدنا امام حسین بن حضرت امام الاولیاء سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔

نَسَبِ نَامۃِ مَادِرۃِ مِی آپ کا نسب نامہ مادری حسب ذیل ہے :
حضرت بی بی زینب بنت خواجہ سید عرب البخاری بن سید ابوالمفاخر بن سید محمد اظہر بن سید حسین بن سید علی بن سید احمد بن سید عبداللہ بن سید علی اصغر بن سید جعفر بن امام علی

ہادی نقی بن امام محمد تقی الملقب بہ جواد بن حضرت امام علیؑ
 حضرت امام موسیٰ کاظم بن حضرت امام جعفر الصادق بن حضرت
 امام محمد باقر بن حضرت امام علی الملقب بہ زین العابدین بن حضرت
 سیدنا امام حسین بن حضرت امام اولیاء حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔

پس آپ سادات سے ہیں۔ والد ماجد اور والدہ محترمہ کی طرف سے
نسب آپ سید النسب حسینی ہیں۔

آپ ۲۷ صفر ۶۳۶ء میں آخری چہار شبہ کے دن
ولادت باسعادت بعد طلوع آفتاب اس عالم میں رونق افروز ہوئے۔

نام نامی آپ کا نام نامی محمد نظام الدین ہے۔

خطاب آپ کے خطابات حسب ذیل ہیں:

سُلْطَانُ الْمَشَاطِعِ - مَحْبُوبِ الْاِلهِ

حضرت محبوب الہی کی ابھی بہت ہی کم عمر تھی کہ آپ کے
بچپن کا صدمہ والد ماجد حضرت خواجہ سید احمد کا وصال ہو گیا یہ بھی
 کہا جاتا ہے کہ جس وقت آپ کے والد ماجد نے رحلت فرمائی، اس وقت حضرت
 محبوب الہی کی عمر پانچ سال کی تھی۔

آپ کے معلم **آپ کی والدہ محترمہ** نے آپ کو کتب میں بھیجا۔ وہاں آپ نے
آپ کی معلم حضرت مولانا شادی مقرنی سے ایک ہی پارہ پڑھا اور اس
 ہی پارہ کی برکت سے آپ نے تمام قرآن شریف ختم کیا۔ اس کے بعد آپ نے

لہ سیر الاولیاء لہ سیر العارفين لہ فاما الفتوانہ۔

کتابیں پڑھنا شروع کیں۔ آپ نے مشہور کتاب "قدوری" حضرت مولانا علاء الدین اصولی سے پڑھی۔ جب کتاب ختم ہوئی تو مولانا علاء الدین اصولی نے تمام علماء و اولیاء کی موجودگی میں دستار اپنے ہاتھ میں لی اور کھول کر حضرت محبوب الہی سے فرمایا: "قرب آؤ اور اس دستار کو اپنے سر پر باندھو۔"

استاد کے حکم کے موافق آپ نے دستار اپنے سر پر باندھی۔

آپ نے مولانا شمس الدین سے جو شمس الملک کے خطاب سے مشہور ہیں، "مقاماتِ حریری" حفظ کی۔ مولانا شمس الملک ادب و لغت میں دوسرا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ شہر کے بہت سے علماء و فضلاء ان کے شاگرد تھے۔

آپ نے تمام علوم ظاہری یعنی فقہ، حدیث، تفسیر کلام، معانی، منطق، حکمت، فلسفہ، ہیئت، ہندسہ، لغت، ادب اور قرأت وغیرہ میں کمال حاصل کیا۔ ساتوں قرأتوں کے ساتھ آپ نے قرآن شریف یاد کیا۔ وہی پہنچ کر آپ نے مولانا کمال الدین محدث سے "مشارق الانوار" کی سند حاصل کی۔

آپ نے اپنے پیر و مرشد حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کی خدمت بابرکت میں اجودھن رہ کر قرآن شریف کے چھ پارے پڑھے۔ تین کتابیں اور بھی پڑھیں جن میں سے ایک میں فارسی اور دو میں سانس تھے۔ ان کتابوں کے علاوہ آپ نے "عوارف" کے چھ باب بھی پڑھے اور تمام تہید ابوشکور سالمی بھی اجودھن رہ کر پیر و مرشد کی خدمت میں پڑھی۔

آپ نے علوم ظاہری میں کمال حاصل کیا۔ اسی کمال کے باعث **علمی فضیلت** آپ علماء و فضلاء کے طبقے میں "نظام الدین سجاٹ محفل شکن" کے

۱۵ اخبار الاخبار۔

خطاب سے مشہور ہوئے۔

حضرت محبوب الہی بعد تحصیل علوم ظاہری بدایوں سے ہجرت
دہلی میں قیام کر کے دہلی میں رونق افروز ہوئے۔ آپ کی والدہ محترمہ اور
ہمیشہ بھی آپ کے ساتھ تھیں۔ دہلی میں آپ نے مستقل سکونت اختیار فرمائی۔
دہلی میں حضرت محبوب الہی کئی سال تک تحصیل علم میں مشغول رہے۔ آپ نے مولانا
ابن الدین احمد صاحب محدث کی صحبت سے کافی فیض اٹھایا۔

آپ جب دہلی تشریف لائے تو آپ نے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر
کے بھائی اور خلیفہ حضرت شیخ نجیب الدین متوکل سے پڑوس میں مکان کرانے پر
لے کر رہنا شروع کیا۔

دہلی میں آپ کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کے لئے
دوسرا قدم یہ قدمہ جانکاء تھا۔ اب شیخ نجیب الدین متوکل کی
صحبت آپ کی مونس اور ہمدم تھی۔

ایک روز آپ قطب الاقطاب حضرت خواجہ
قطب الدین بختیار کاکی کے مزار پر انوار پر حاضر
ہوئے وہاں ایک مجذوب سے ملاقات ہوئی اسے آپ نے ان مجذوب سے درخواست
کی کہ وہ ان کے لئے دعا کریں کہ وہ قاضی ہو جائیں۔

ان مجذوب نے جواب دیا:

”نظام الدین! قاضی ہونا چاہتے ہو، اور میں تم کو دین کا بادشاہ کہتا
ہوں۔ تم ایسے مرتے پر پہنچو گے کہ تم عالم تم سے فیض لے گے۔“

لے جواہر فریدی۔

قاضی بننے کی خواہش ایک دن آپ نے حضرت شیخ نجیب الدین متوکل سے بھی عرض کیا کہ وہ ان کے قاضی بننے کے واسطے

وفا فرمائیں۔ حضرت نجیب الدین نے حضرت محبوب الہی کو مخاطب کر کے فرمایا :
”تم انشاء اللہ تعالیٰ قاضی نہ ہو گے بلکہ ایک ایسی چیز بنو گے کہ
جس کو میں جانتا ہوں“

بابا فرید الدین گنج شکر سے قاسیانہ ارادت حضرت محبوب الہی کی عمر بارہ سال تھی۔

آپ بدایوں میں مقیم تھے اور علم لغت کے حاصل کرنے میں مشغول تھے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ آپ کے استاد حضرت مولانا ملا الدین اعمولی کے پاس ایک شخص ملتان سے آیا، اس شخص کا نام ابو بکر خراط تھا۔ اس کو ابو بکر قوال بھی کہتے تھے۔

آپ کے استاد نے اس شخص سے اس طرف کے شاخین اور اولیاء کا حال دریافت فرمایا۔ اس شخص نے حضرت شیخ بہاء الدین زکریا ملتانی کی بہت تعریف کی۔ اس نے کہا کہ اس نے ان کو قوال بھی سنا ہے۔ ان کی عبادت اور ریاضت بیان سے باہر ہے۔ ان کی کینزوں تک کا یہ حال ہے کہ کام کی حالت میں بھی ذکر کرتی رہتی ہیں۔ اس خطے کو انہوں نے اپنے فیض و کرم سے متور کر دیا ہے۔

حضرت محبوب الہی یہ سنتے رہے۔ پھر ابو بکر قوال نے اجودھن کا حال بیان کیا کہ وہاں حضرت شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر رہتے ہیں۔ وہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ان کو ایک ماہ تمام پایا۔ انہوں نے اپنے نور معرفت سے تاریک دلوں کو روشن کر دیا ہے۔ لوگوں کے دلوں کو انہوں نے مسخر کر لیا ہے۔ بہت لوگ ان کے حلقہ بگوش ہیں۔

حضرت محبوب الہی نے جب حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی یہ تعریف سنی

تو آپ کے دل میں محبت کا ایک جذبہ موجزن ہوا۔ غایتاً نہ طور پر آپ کو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر سے ارادت پیدا ہوئی۔ قدم بوسی کا شوق ہوا، اس محبت، ارادت اور عقیدت میں روز بروز ترقی ہوتی رہی۔ حضرت محبوب الہی کا اب یہ ورد ہو گیا کہ آپ ہر نماز کے بعد دس بار شیخ فرید اور دس بار مولانا فرید کہتے تھے۔ یہ الفت بانی پھینے والی نہیں تھی۔ آپ کے دوستوں کو بھی اس کا علم ہو گیا۔ اب جب وہ آپ کو قسم دیتے تو شیخ کی محبت یعنی بابا فرید الدین گنج شکر کی محبت کی قسم دیتے۔

آپ جب بدایوں سے دہلی میں سکونت اختیار کرنے کی غرض سے روانہ ہوئے تو ایک شخص جس کا نام عیوض تھا، آپ کے ساتھ ہوا۔ جب راستے میں کوئی خوف یا کوئی خطرہ پیش آتا تو وہ بے ساختہ کہتا :

”یا پیر حاضر باش کہ مادر پناہ تو می رویم“

ترجمہ : اے پیر موجود رہئے کہ ہم آپ کی پناہ میں جا رہے ہیں۔

حضرت محبوب الہی نے جب یہ کلمات سنے تو آپ نے اس شخص سے دریافت فرمایا کہ :

”یہ تمہارے پیر کون ہیں اور کہاں رہتے ہیں، جن کی پناہ، اور مدد چاہتے ہو“

اس شخص نے جواب دیا :

”میرے پیر وہی ہیں، جنہوں نے تمہارے دل کو اپنی طرف سے کھینچ لیا ہے اور تم کو اپنی محبت کا قرینہ بنایا ہے یعنی حضرت شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر“

یہ سن کر حضرت محبوب الہی کا اخلاص اور اعتقاد اور بڑھ گیا۔

دہلی میں آپ حضرت شیخ نجیب الدین سواکلی کی صحبت میں زیادہ وقت گزارتے

تھے۔ وہاں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے اوصاف و محاسن و محامد سن کر حضرت محبوب الہی کے ذوق و شوق اور اشتیاق قدم بوسی میں اور اضافہ ہو گیا۔ وقت گزرتا رہا اسی حالت میں تین سال گزر گئے۔

زندگی میں کایا پیٹ
آپ رات جامع مسجد میں بسر کرتے تھے۔ ایک
روز جب صبح ہوئی تو مؤذن نے مینار پر چڑھ کر

یہ آیت پڑھی :

الْمَيَّانِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ

ترجمہ : کیا مومنوں کے واسطے وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل ذکر الہی کے واسطے جھک جائیں۔

حضرت محبوب الہی نے جب یہ آیت سنی تو آپ کے اوپر ایک عجیب کیفیت طاری ہوئی۔ آپ کے حال میں ایک نمایاں تبدیلی واقع ہوئی۔ آپ کا سینہ انوار الہی کی تجلیوں سے معمور ہو گیا۔ دنیا کی محبت جاتی رہی۔ اب آپ کی دنیاوی مراد، تمنا یا آرزو نہ تھی۔ ترک و تجرید آپ کا شعار ہو گیا۔

اجود سن کو روائی
آپ پر شوقِ اِبادت غالب تھا۔ آپ بغیر کسی زادِ راہ
اجود سن روانہ ہو گئے۔ ہنسی پہنچ کر آپ کو قافلہ کا
انتظار کرنا پڑا۔ جب قافلہ جمع ہوا آپ بھی اس کے ساتھ ہو لئے قافلہ کا سرا
جب کوئی خطرہ محسوس کرتا، کھڑا ہو جاتا اور بلند آواز سے کہتا کہ :
”حضرت پیر دستگیر شیخ وقت رہتے۔“

ترجمہ : اے حضرت پیر دستگیر ہمارے شیخ وقت رہتے۔

حضرت محبوب الہی نے میرکارواں سے دریافت فرمایا کہ :

”تہارے پیر کون ہیں جن کو تم پکارتے ہو اور مدد طلب

کرتے ہو“

اس شخص نے جواب دیا کہ :

”میرے پیر حضرت قطب العالم شیخ فرید الدین گنج شکر ہیں۔

میں انہیں یاد کرتا ہوں“

یہ سن کر حضرت محبوب الہی کی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر سے عقیدت

میں، اور اضافہ ہو گیا۔

اجودھن کے راستے میں سرسہ پڑتا تھا۔ سرسہ سے دو راستے جاتے تھے۔

ایک راستہ ملتان کو جاتا تھا اور دوسرا راستہ اجودھن کو۔ سرسہ پہنچ کر حضرت

محبوب الہی تین روز رُکے۔ کبھی ملتان کا خیال ہوتا اور کبھی اجودھن کا۔ تیسرے

دن رات کو آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے۔

آں حضرت نے فرمایا :

”اے نظام الدین! اجودھن کا راستہ پکڑو“

اب آپ بغیر کسی لپس و پیش کے ”فرید فرید“ کہتے ہوئے اجودھن کی طرف

روانہ ہوئے۔

حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی خدمت میں آپ کی خدمت

ہوئے، آخر کار منزل مقصود پر پہنچے۔ بدھ کے دن ۱۱۔ رجب المرجب ۱۶۵ھ میں

آپ اجودھن میں داخل ہوئے یہ بعد نماز ظہر حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کی

خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے۔ قدم بوسی سے مشرف ہوئے۔

لہ فرشتہ نے عبرات کا دن لکھا ہے۔

حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے آپ کو دیکھ کر یہ شعر پڑھا :

اے آتشِ فراق و لہا کیاب کروہ

سیلابِ اشتیاق جانہا خراب کروہ

ترجمہ : اے کہ تیرے فراق کی آگ نے دلوں کو کیاب کر دیا

(اور) تیرے اشتیاق کے سیلاب نے جانوں کو خراب کر دیا۔

حضرت محبوب الہی پر دہشت کا اس قدر غلبہ تھا کہ آپ پورا حال عرض نہ

کر سکے، آپ اس قدر ہی کہنے پائے تھے کہ "اشتیاق پائے بوسی عظیم غالب تھا"

حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے یہ حال دیکھ کر زبانِ فیض ترجمان سے فرمایا :

"يَكُنِّي دَاخِلِي دَهْشَةً"

حضرت محبوب الہی اس واقعہ کا خود ذکر فرماتے ہیں : لہ

"جب میں جناب شیخ شیوخ العالم کی خدمت میں حاضر ہوا اور

آنجناب نے آثارِ دہشت میرے اندر ملاحظہ کئے" فرمایا :

مرجا خوش آمدی و صفا آوردی و از نعمت دینی و دنیوی

انشاء اللہ برخورداری۔

ترجمہ : شاباش۔ خوب آئے۔ انشاء اللہ دین اور دنیا کی

نعمتوں سے بہرہ مند ہو گے۔

حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے اسی روز حضرت
بیعت اور خلافت کے محبوب الہی کو وہ ٹوپی دی، جو آپ اوڑھے ہوئے
تھے۔ ٹوپی کے علاوہ آپ کو اور تبرکات بھی عطا کئے، خرّوہ، نعلین چوبیس، مصلّا

لہ فوائد النعماء۔ فرشتہ ۲۹۲

اور عصا آپ کے سپرد فرمایا۔ پھر حضرت محبوب الہی سے مخاطب ہو کر حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے فرمایا کہ :

”اے نظام الدین! میں چاہتا تھا کہ ولایت ہندوستان کسی اور کو دوں مگر تم راستے میں تھے کہ مجھ کو غیب سے ندا پہنچی کہ ابھی بٹھرے رہو۔ نظام بدایونی آتے ہیں اور وہی اس ولایت کے لائق ہیں۔ انہیں کو دینا چاہئے۔“

اس وقت حضرت محبوب الہی کی عمر شریف بیس سال کی تھی۔ اپنے پیرو مرشد کے فرمان کے مطابق آپ اجودھن میں رہنے لگے۔ ایک دن حضرت محبوب الہی نے اپنے پیرو مرشد سے عرض کیا :

”میرے واسطے کیا حکم ہے، اگر ارشاد ہو، پڑھنے پڑھانے کو موقوف کر کے اور ادونواقل میں مشغول ہوں۔“

حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے جواب دیا :

”میں کسی کو پڑھنے پڑھانے سے منع نہیں کرتا۔ یہ بھی کرو، وہ بھی کرو۔۔۔۔۔ درویش کو قدرے علم ضروری ہے۔“

آپ کا شجرہ بیعت حسب ذیل ہے :

شجرہ بیعت

نظام الدین و ہومن حضرت بابا فرید الدین سعید و ہومن حضرت قطب الدین بختیار کاکی و ہومن حضرت خواجہ معین الدین سنجرمی و ہومن حضرت خواجہ عثمان ہارونی چشتی و ہومن حضرت حاجی شریف زبدانی چشتی و ہومن حضرت قطب الدین مودودی چشتی و ہومن حضرت خواجہ ناصر الدین ابوریساف چشتی و ہومن خواجہ ابو محمد چشتی و ہومن خواجہ احمد ابدال چشتی و ہومن حضرت

خواجہ ابوالاسحاق شامی حشمتی، ابوہومن حضرت خواجہ مشاد علاؤدینوری
 و ہومن شیخ امین الدین بہیرۃ البصری، ابوہومن حضرت شیخ سدید الدین
 حذیفۃ المرعشی و ہومن حضرت سلطان ابراہیم ادم بلخی و ہومن حضرت
 خواجہ ابوفضل بن عیاض، و ہومن حضرت خواجہ عبدالواحد بن زید
 و ہومن حضرت حسن بصری و ہومن امام الاولیاء سیدنا حضرت
 علی کرم اللہ وجہہ

پیر و مرشد کی خدمت میں اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں سات
 ماہ اور کچھ دن رہ کر آپ ان کے فیوض باطنی اور روحانی تصرفات سے مالا مال ہوئے۔ وہی کو روانگی سے قبل حضرت بابا
 صاحب نے فرقہ خاص جو آپ کو خواجگانِ حشت سے پہنچا تھا آپ کو پہنایا تھا
 اور اسی روز ۲ ربیع الاول ۶۵۶ھ کو آپ کو خلافت نامہ عطا فرمایا۔ خلافت عطا
 کرنے کے بعد حضرت بابا فرید گنج شکر نے آپ کو یہ دعا دی۔

أَشَدُّكَ اللَّهُ فِي الدَّارَيْنِ وَرَزَقَكَ عِلْمًا نَافِعًا
 وَعَمَلًا مَقْبُولًا

ترجمہ : دونوں جہان میں خدا تعالیٰ تجھ کو نیک نجات کرے،
 اور علم نافع و عمل مقبول روزی فرمائے۔

یہ دعا دے کر آپ کو تاکید کی کہ مجاہدہ میں بہت کوشش کرنا۔ آپ کو وہی
 رخصت کرتے وقت حضرت بابا فرید گنج شکر نے ارشاد فرمایا کہ:

”مولانا نظام الدین کو جسکیم الہن میں نے ہندوستان کی ولایت
 بخشی۔ اور اس ملک کو ان کی پناہ میں چھوڑا اور اپنا صاحب
 سجادہ کیا۔“

حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر نے خلافت نامہ عطا فرماتے وقت
 حضرت محبوب الہی کو تاکید فرمائی تھی کہ وہ خلافت نامہ ہانسی میں مولانا جمال الدین
 کو اور دہلی میں قاضی منتخب کو دکھالیں۔ حضرت محبوب الہی اپنے پیرو مرشد سے
 رخصت ہو کر مولانا جمال الدین کے پاس ہانسی پہنچے اور ان کو حضرت بابا فرید
 گنج شکر کا عطا کردہ خلافت نامہ دکھایا۔ مولانا جمال الدین بہت خوش ہوئے اور
 خلافت نامہ پر یہ شعر لکھ دیا :

ہزاروں درود و ہزاروں سپاس

کہ گوہر سپردند گنج ہر شناس

ترجمہ : ہزاروں درود اور ہزاروں شکر کہ گوہر سپرد کیا گوہر شناس کے۔

اجود من سے دہلی واپس آ کر آپ باصدر عنانی وزیر بانی پیران چشت
 واپسی دہلی کی مسند پر ٹکن ہوئے اور خلق اللہ کو رشد و ہدایت کرنے میں مشغول ہوئے۔
 آپ تیس برس اپنے پیرو مرشد حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی حیات میں
 اجود من حاضر ہوئے اور ان کی وفات کے بعد سات مرتبہ روضہ مبارک کی زیارت
 سے شرف ہوئے۔

دہلی واپس آ کر آپ نے اپنے پیرو مرشد کے فرمان
 ریاضات و مجاہدات کے مطابق ریاضت و مجاہدہ میں وقت گزارا۔ آپ
 دنیا کی تمام مرادوں، آرزوؤں اور تمناؤں سے الگ ہو گئے اور پادالہی میں مشغول
 رہنے لگے۔ آپ ہمیشہ روزہ رکھتے تھے۔

آبادی میں رہنے سے آپ کو عبادات میں مخلوق کے
 سکونت میں تبدیلی اثر و ہام سے خلل کا اندیشہ تھا۔ آپ ایسی جگہ رہنا
 چاہتے تھے کہ جہاں سکون و اطمینان کے ساتھ عبادت میں مشغول رہیں۔ آپ اس فکر

میں تھے کہ کہاں جائیں اور کہاں رہیں کہ ایک روز آپ حوضِ رانی کے پاس ایک باغ میں فروکش ہوئے۔ بعد ازاں یہی سگئی نماز آپ نے دعا مانگی :

”خداوند! میں اپنے اختیار سے کہیں رہنا نہیں چاہتا۔ جس

جگہ میری بہتری ہو، وہیں مجھ کو رکھ۔“

ابھی آپ دعا میں ہی مشغول تھے کہ ایک طرف سے آواز آئی :

”تیری جگہ غیاث پور ہے۔“

آپ بفرمانِ الہی غیاث پور میں رہنے لگے۔

غیاث پور ایک چھوٹا سا گاؤں تھا لیکن کچھ عرصہ میں ہی امراء و رؤسا اور
 عائدین شہر کی آمد و رفت اس طرف بڑھ گئی تھی۔ آپ نے غیاث پور سے سکونت
 ترک کر کے شہر میں رہنے کا خیال کیا۔ کیوں کہ وہاں لوگوں کی آمد و رفت کم تھی۔ اتفاقاً آپ
 کی ایک خوب صورت نوجوان سے ملاقات ہوئی۔ وہ آپ کے پاس بیٹھ گیا اور یہ
 شعر پڑھنے لگا :

آں روز کہ مد شدی نمی دلتی کہ انگشت نمائی عالمی خواہی شد
 امروز کہ زلفت دلِ خلعے بر بود در گوشہ نشینت نمی دارد سود

اس نوجوان نے محبوبِ الہی کی خدمت میں عرض کیا کہ :

”... یہ کیا قوت اور کیا حوصلہ ہے کہ خلق سے جدا ہو کر گوشہ

خلوت ڈھونڈتے پھرے...“

حضرت محبوبِ الہی نے اپنا ارادہ بدن دیا، اور معصوم ارادہ کیا کہ اب کہیں اور

میں جائیں گے۔ غیاث پور ہی میں رہیں گے۔ آپ نے باقی عمر غیاث پور ہی میں گزاری۔

شیخ الدین دیکل عماد الملک نے : ہاں ایک شانِ دادِ عمارت تعمیر کرانی لے

حضرت محبوب الہی نے حیاتِ ظاہری کے آخری دنوں میں کھانا
آخری ایام پینا بہت ہی کم کر دیا تھا۔ وفات شریف سے چالیس روز پہلے
 آپ نے کھانا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ ایک روز شوربا آپ کو پیش کیا گیا۔ آپ نے پینے
 سے انکار کیا اور فرمایا:

” جس کے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم شائق ہوں، اس کو طعام دینا
 سے کیا کام؟“

آپ نماز کئی کئی مرتبہ ادا فرماتے اور دریافت فرماتے کہ نماز ادا کی ہے یا نہیں۔
 خداوند تعالیٰ کے سامنے بار بار سجدہ کرتے تھے اور بہت روتے تھے۔ یہ مصرعہ آپ
 کے درو زبان تھا:

میر ویم و میر ویم و میر ویم

ترجمہ: ہم جاتے ہیں اور ہم جاتے ہیں اور ہم جاتے ہیں۔

گھر میں کسی قسم کی کوئی چیز نہیں رکھی۔ اقبال کو حکم دیا کہ سب غلہ نفت سارا

کو تقسیم کر دے۔

وقت رخصت جب قریب پہنچا تو آپ نے ایک مصلیٰ خاص
تبرکات کی تقسیم دستار اور پیرین مولانا بابر ہان الدین غریب کو دے کر دکن

کی طرف جانے کی اجازت دے دی۔ ایک دستار پیرین اور مصلیٰ شیخ یعقوب کو عطا
 فرما کر حجرات کی طرف جانے کی اجازت دی۔ مولانا شمس الدین عینی کو بھی آپ نے
 ایک دستار مصلیٰ اور پیرین عطا فرمایا۔

حضرت نصیر الدین چسپراغ بھی اس روز خدمت میں حاضر تھے لیکن اس

لے فرشتہ لے سیر العارفین۔

آپ کو کچھ عطا نہ کیا۔ سب کو تعجب تھا۔ حضرت محبوب الہی نے بدھ کے روز بعد نماز ظہر حضرت نصیر الدین چراغؒ کو طلب فرمایا اور عصا، مصلیٰ، تسبیح، نعلین چوبیس اور فرقہ اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے دیگر تبرکات آپ کے سپرد فرمائے پھر حضرت نصیر الدین چراغؒ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ :

”تم کو دہلی میں رہ کر لوگوں کی جفا و قضا اٹھانی چاہئے“

وفات شریف
 آپ چار مہینے اور کچھ دن بیمار رہے اور اسٹارہ ربیع الثانی ۷۲۵ھ بروز بدھ بعد طلوع آفتاب حوار رحمت میں داخل ہوئے۔

آپ کے جنازہ کی نماز شیخ الاسلام حضرت رکن الدین ملتانی نے پڑھائی۔ جنازہ مبارک کو جب دفن کے واسطے لے جا رہے تھے، قوال شیخ بعدی کی مشہور غزل گائیے تھے، جس کا پہلا شعر یہ ہے :

سرو سیما را بصحرا می روی

لیک بد عہدی کہ بے نامی روی

قوال جب اس شعر پہنچے :

اے تماشہ گاہ عالم روئے تو

تو محب بہر تماشہ می روی

جسم اقدس میں جنبش پیدا ہوئی۔ حال اور وجد جنازہ مبارک پر طاری ہوا۔ یہ حالت دیکھ کر حضرت مولانا رکن الدین نے سماج بند کرا دیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ نے جنازہ سے ہاتھ نکالا اور فرمایا :

”من نمی روم“

ترجمہ : میں نہیں جاتا ہوں۔

آپ کے خلیفہ اکبر اور جانشین حضرت نصیر الدین چراغ نے عرض کیا :
شیخا شیخا باش، دست درکش قدم سید دریاں است۔

حضرت محبوب الہی نے اسی وقت ہاتھ کھینچ لیا۔

آپ کا مزار پر الوار غیاث پورا دہلی کے قریب جس کو اب نظام الدین کہتے
ہیں، میں واقع ہے۔ آپ کا سالانہ عرس بڑے تزک و احتشام سے ہوتا ہے۔

حضرت شیخ نصیر الدین محمود چراغ آپ کے خلیفہ اکبر اور
آپ کے خلفاء جانشین ہیں۔ آپ کے خاص خاص خلفاء حسب ذیل ہیں :

حضرت امیر خسرو۔ مولانا شمس الدین محمد بن عیسیٰ شیخ قطب الدین

منور۔ مولانا فخر الدین نداوی۔ مولانا حسام الدین ملتانی۔ خواجہ

ابوبکر مندہ۔ مولانا شہاب الدین امام۔ امیر حسن بن علاء السنجرمی

مولانا یربان الدین غریب۔ مولانا وجیہ الدین یوسف کلاکھڑی عرف

چندیری۔ مولانا علاء الدین نیلی۔ مولانا مختار الدین روزی۔ مولانا

نصیح الدین۔ مولانا کریم الدین سمرقندی۔ خواجہ مودت الدین۔ مولانا

ضیاء الدین برنی۔ قاضی محی الدین کاشانی۔

سیرت پاک آپ نے زندگی بھر شادی نہیں کی۔ تمام عمر مجرد میں گزار دی۔

آپ کو اپنے پیرو شگیر حضرت بابا فرید الدین
پیر و مرشد سے محبت کھینچ کر شکر سے انتہائی محبت تھی۔ آپ کا اخلاق

علوم، فرمانبرداری اور حسن اعتقاد آپ کی سعادت کی دلیل ہے اور اس کی بدولت

حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ آپ کے دل میں اپنے پیرو مرشد کی طرف سے اخلاص و اعتقاد روز بروز بڑھتا رہا۔ آپ کے پیرو مرشد حضرت بابا فرید الدین گنج شکر اکثر فرمایا کرتے تھے کہ

..... لیکن یہ غریب مولانا نظام حسن روز سے میرے پاس آیا ہے اور مرید ہوا ہے اس کے اخلاص و اعتقاد میں خلل واقع نہیں ہوا“

ایک مرتبہ آپ کے پیرو مرشد نے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ

” مرید و فرزند کو راسخ ایسا ہونا چاہئے جیسے کہ نظام ہیں“

آپ نے اپنے پیرو مرشد کو ایک خط میں ایک رباعی لکھی تھی۔ اس رباعی سے آپ کے غلوں میں محبت اور اعتقاد کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ کچھ دن بعد آپ اپنے پیرو مرشد کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ کے پیرو مرشد نے وہ رباعی پڑھنے کو کہا۔ جب آپ نے وہ رباعی پڑھی تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر پر ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ آپ ترق و شوق کی حالت میں رقص کرنے لگے۔ وہ رباعی یہ ہے :

زال روئے کہ بندہ تو دانند مرا بر مرد کب دیدہ نشانند مرا
 لطف و کرمت ز قیامت فرمودہ است در نہ من کیم خلق چہ دانند مرا

شانِ محبوبی ولی کامل جب تطہیت اور قربانیت کے درجوں سے گزر جاتا ہے اور مرتبہ محبوبیت تک پہنچ جاتا ہے اس وقت وہ منظر اسرار الہی ہو جاتا ہے اور اس کا ارادہ خداوند تعالیٰ کا ارادہ ہو جاتا ہے۔

لہٰذا انفرادی طور پر راحت القلوب تک تو ان الفاظ میں دوسرا شعر اس طرح ہے :

لطف و کرمت غایت فرمودہ است در نہ چہ کیم خلق چہ دانند مرا کہ سیرا لادیا

حضرت محبوب الہی غوثیت اور فردانیت کے مراتب سے گذر کر مرتبہ محبوبی پر پہنچے تھے۔ مرتبہ محبوبی کی شان آج بھی آپ کے مزار پر انوار سے ظاہر ہے، آپ کے پاس سے ایسی خوشبو آتی تھی کہ عود کا گمان ہوتا تھا۔

آپ کا ابتدائی زمانہ بہت ہی عسرت اور تنگی میں گذرا۔ اس زمانے میں آپ کے پاس ایک چٹیل (ایک سکہ) بھی نہ تھا کہ جس سے دو تین روٹیاں خرید لیتے۔

ایک دن کا واقعہ ہے کہ آپ کے یہاں آتش جو چمک رہا تھا۔ ناگاہ ایک فقیر جو گڈری پہنے ہوئے تھا آپ کے پاس آیا، اور آپ سے کہا کہ جو کچھ بیکار ہوا اور آپ نے آتش جو کی بکیتی اور جوش کھاتی ہوئی ہانڈی اس گڈری پوشش فقیر کے سامنے لا کر رکھ دی۔ اس فقیر نے بغیر انتظار کئے ہوئے ویسے ہی کھانا شروع کیا۔ کھانے کے بعد اس نے ہانڈی کو زمین پر سے مارا اور حضرت محبوب الہی سے مخاطب ہو کر کہا :

”مولانا نظام الدین! نعمت باطنی سے تم کو بابا فرید الدین نے

سرفراز کیا ہے اور تمہارے فقر ظاہر کی ہانڈی میں نے توڑ دی“

اس روز سے مستوحات اس قدر شروع ہوئیں کہ شمارا در حساب سے باہر

ہیں یہ آپ پر چاروں طرف سے فتوحات کے دروازے کٹا دہ ہوئے۔

حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے آپ کو دعویٰ تھی کہ :

”خدا کرے ستر (۷۰) من نمک روزانہ تمہارے باورچی

خانے میں سرسج ہو“ گئے

لے بحر المعانی لے روضۃ الاقطاب لے خیر المجالس لے تذکرۃ الاعیاد

آپ کے پیرو مرشد کی یہ دعا قبول ہوئی۔ آپ کے باورچی خانے میں روزانہ ستر من نمک خرچ ہوتا تھا۔ ستر اونٹ پیاز و لہسن کے چھلکے روز آپ کے باورچی خانے سے نکلتے تھے۔

دنیائے نفرت آپ دنیا اور اہل دنیا سے بے تعلق تھے۔ شاہانِ وقت کو آپ کی زیارت کی تمنا رہتی۔

سخت سخاوت آپ کی سخاوت کا یہ حال تھا کہ جو کچھ آتا، شام تک سب خرچ ہو جاتا۔ ایک مرتبہ غیاث پور میں آگ لگی۔ بہت سے مکاناں جل گئے۔ حضرت محبوب الہی کو لوگوں کی اس تکلیف اور بربادی سے اندر ہوا۔ آپ نے خواجہ اقبال کو حکم دیا کہ جن لوگوں کے مکانات جل گئے ہیں، ان کو دو خزان کھانا، دو پانی کے ٹکے اور دو اشرفیاں پہنچا دی جائیں۔ خواجہ اقبال نے ایسا ہی کیا۔ آپ کے یہاں سے بہت سے لوگوں کی پرورش ہوئی تھی اور بہت سے طلباء اور بہت سے حافظوں کو امداد دی جاتی تھی۔ آپ کی سخاوت اور زیادتی پر شاہانِ وقت کو تعجب ہوتا تھا۔

ذوقِ سماج آپ کو سماج کا بہت شوق تھا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، وہاں ایک شخص کو دیکھا کہ کنوئیں پر سپریں سے پانی کھینچ رہا ہے اور اپنے ساتھی سے چلا کر کہتا ہے:

”باہر رے بھیا باہر“

حضرت محبوب الہی نے جب یہ الفاظ سنے، آپ پر وجد طاری ہو گیا، جو لوگ آپ کے ہمراہ تھے وہ راستے میں ہی پڑھتے رہے۔

لہ خیر المجالس لہ بیع سنابل

عظمت و بزرگی حضرت محبوب الہی سے ایک دفعہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں فرمایا:

”تم ہنک الفقراء لیساکین ہو“

ایک مرتبہ مولانا وجیہ الدین پانڈی کی کوئی مشکل حضرت خواجہ خضر نے حل کر دی۔ مولانا نے حضرت خواجہ خضر سے دریافت کیا کہ:

”اگر آئندہ مجھ کو مشکل درپیش ہو تو مجھ سے کہاں ملاقات ہوگی“

انہوں نے جواب دیا:

”حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء کے مکان میں“

ایک روز خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین سنجری کی مردانہ غیب سے ملاقات ہوئی۔ ان میں سے ایک نے حضرت خواجہ صاحب سے عرض کیا کہ:

”اے خواجہ! آپ نے دنیا کے شہروں میں ایک شور برپا کر دیا

ہے“

خواجہ غریب نواز نے یہ سن کر تعجب سے فرمایا:

”میں بتے؟“

اس ابدال نے عرض کیا:

”نہیں“

پھر آپ نے دریافت کیا:

”قطب الدین نے“

اس ابدال نے جواب دیا:

”نہیں“

پھر آپ نے دریافت فرمایا تو:

”کیا فرید الدین نے“

اس ابدال نے جواب دیا :

”نہیں“

پھر آپ نے دریافت فرمایا :

”نظام الدین نے“

اس ابدال نے کہا :

”جی ہاں۔ انہوں نے“

حضرت خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ :

”وہ تو مجھ سے چوتھے درجے میں ہیں“

اس ابدال نے عرض کیا :

”آپ کے فرزندوں سے جو بات ہوگی وہ بھی آپ ہی کی طرف

نسوب کی جائے گی“

عبادات آپ رات کو حجرے میں تنہا ہتے تھے کسی کی مجال نہیں تھی کہ حجرے میں داخل ہو، حجرے کا دروازہ رات کو بند رہتا تھا۔ صبح کے وقت آپ کی آنکھیں مست و مخمور نظر آتیں۔ رات کو جاگنے کی وجہ سے آپ کی آنکھیں سُرخ رہیں یہ حضرت امیر خسرو کا یہ شعر اسی طرف اشارہ کرتا ہے۔

آتشانی تانی بیڑے کہ بودی ایشب

کہ ہنوز چشم مست اثر خم روارو

علم و ذوق آپ نے اپنے پیرو مرشد کی مجالس کے حالات قلم بند فرمائے ہیں۔ اس کتاب کا نام آپ نے ”راحت العلوب“ رکھا۔ اس میں پایا

لے سراج الہدایت لے اخبار الامیاری

فرید الدین گنج شکر کے ملفوظات بابرکات آپ نے تحریر فرماتے ہیں۔ یہ کتاب
شائع ہو چکی ہے۔

آپ کا مذاق سخن آپ کی حسبِ ذیل نعت سے ظاہر ہے۔

صبا بسوئے مدینہ روکن ازیں دعا گو سلام برخواں

بگرد شاہِ مدینہ گرد و لبدا تضرع پیام برخواں

یہ باب رحمت گمے گزرن کن بہ باب جبریل گمے جس میں سا

سلام ربی علی نبی گمے بہ باب سلام برخواں

بشور من صورتِ مثالی نماز بگذار اندر آں جا

بہن خوش سورتہ محمد تمام اندر قیام برخواں

بند بچندیں ادب طرازی سر ابادت بجاک آل کو

صلوٰۃ وافر بہ روح پاک جناب خیر الانام برخواں

یہ لحن داود ہم نوا شوبہ نالہ درد آشت ناشو

یہ بزم پنچیسریں غزل راز عبدعما جز نظام برخواں

آپ کی تعلیمات اسرار الہی کے اشارات ہیں۔ یہ

ایسے غیبی جواہرات ہیں جو انمول ہیں۔ ذیل میں آپ کی

آپ کی تعلیمات

چند مجالس کا حال پیش کیا جاتا ہے۔

حضرت محبوب الہی نے فرمایا: لہ

ترک دنیا "ہمت بلند کنی چاہئے اور دنیا کی آلائشوں میں نہیں

پھنسا چاہئے، حرم و شہوت چھوڑ دینی چاہئے"

لہ فائدہ الفوائد (اردو ترجمہ) ص ۱۳۴

ایک دوسری مجلس میں آپ نے فرمایا : اے
 "اگر کوئی شخص دن کو روزہ رکھے اور رات کو جاگتا ہے اور حاجی
 ہو تو بھی اصل اصول یہ ہے کہ دنیا کی راستی اس کے دل میں نہ ہو"

آپ نے فرمایا کہ

تلاوتِ قرآن - جب پڑھنے والے کو کسی آیت کے پڑھنے سے

ذوق اور راحت حاصل ہو تو اسے بار بار پڑھنا چاہئے۔ تلاوت
 اور سماع کی حالت میں جو سعادت حاصل ہوتی ہے، اس کی
 تین قسمیں ہیں : انوار احوال اور آثار۔ وہ تین عالم یعنی ملک،
 ملکوت اور جبروت سے نازل ہوتی ہیں اور وہ تین مقامات
 ارواح، قلوب اور جوارح پر نازل ہوتی ہیں۔ انوار ملکوت سے
 ارواح پر۔ احوال جبروت سے قلوب پر اور آثار ملک سے
 جوارح پر۔

صدقہ صدقے کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ : اے

"جب صدقے میں پانچ شرطیں ہوں تو بے شک صدقہ
 قبول ہوتا ہے۔ ان میں سے دو عطا سے پہلے، دو عطا کے وقت
 اور ایک بعد میں ہوتی ہے۔ عطا سے پہلے کی دو شرطیں یہ ہیں
 کہ جو کچھ دے وہ حلال کی کمائی ہو، دوسرے کسی نیک مرد کو مجھے
 جنا سے بڑے کام میں خرچ نہ کرے۔

عطا کے وقت کی دو شرطیں یہ ہیں کہ اول تو واضح اور ہنسی

۱۵ فوائد القوائد ص ۶۹۔ ۱۵ فوائد القوائد ص ۲۸، ۲۹۔ ۱۵ فوائد القوائد ص ۲۹۔

خوشی سے دوسلے۔ دوسرے پر شدید دے۔ بعد کی شرط یہ ہے کہ
جو دے اس کا نام تک نہ لے بلکہ کھول جاتے۔“

صبر و رضا کے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا کہ : لہ
صبر و رضا ” صبر اس بات کا نام ہے کہ جب کوئی خلاف طبع بات
نہارے کو پہنچے تو اس کی شکایت نہ کرے بلکہ صبر و رضا اس بات کا نام
ہے کہ مصیبت سے کسی طرح کی اسے کراہت نہ ہو۔ ایسا معلوم ہو
کہ گویا اس پر مصیبت نازل ہی نہیں ہوتی۔“

توکل کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ : لہ
توکل کے تین مرتبے ہیں : پہلا مرتبہ یہ ہے کہ کوئی شخص کسی
آدمی کو اپنے دعوے کے لئے دیکھ کرے اور وہ دیکھ اس
شخص کا دوست بھی ہو اور عالم بھی تو وہ توکل بالکل بے کھٹکے
ہوگا کہ میں ایسا دیکھ رکھتا ہوں جو دعوے کے کاموں میں بھی جانا
ہے اور میرا دوست بھی ہے۔ اس صورت میں توکل بھی ہوگا اور
سوال بھی۔ یہ توکل کا پہلا درجہ ہے کہ توکل بھی اور سوال بھی۔
دوسرا مرتبہ توکل کا یہ ہے کہ ایک شیر خوار بچہ ہو جس کی ماں
اسے دودھ پلاتی ہو، اسے توکل ہی ہوگا۔ سوال نہ ہوگا۔ بچہ یہ
نہیں کہتا کہ بچے فلاں وقت دودھ دینا۔ صرف روتا ہے، لیکن
تقاضا نہیں کرتا، اور نہ ہی کہتا ہے کہ بچے دودھ دے۔ اس
کے دل میں شفقت مادری کا پورا بھروسہ ہوتا ہے۔
توکل کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ جیسے مردہ نہلانے والے کے ہاتھ کہ
وہ مردہ نہ حرکت کرتا ہے نہ سوال۔ جس طرح نہلانے والا چاہے

اسے حرکت دے اور دھوئے، یہ درجہ بہت بلند اور اعلیٰ ہے۔

طاعت کی قسمیں آپ نے فرمایا کہ :

طاعت لازمی اور متعدی ہے۔ لازمی وہ ہے جس کا نفع صرف کرنے والے کی ذات کو پہنچے اور یہ نماز، روزہ، حج، درود اور تسبیح ہے۔

متعدی وہ ہے جس سے اوروں کو فائدہ پہنچے۔ اتفاق، مشقت، غیر کے حق میں مہربانی کرنا وغیرہ۔ اسے متعدی کہتے ہیں، اس کا ثواب بے شمار ہے۔ لازمی طاعت میں اخلاص کا ہونا ضروری ہے تاکہ مقبول ہو۔ لیکن متعدی طاعت خواہ کسی طرح کی جائے ثواب مل جاتا ہے۔“

دعا کرنے کا طریقہ آپ نے فرمایا کہ : اے

”دعا کے وقت کئے ہوئے گناہوں کا خیال دل میں نہیں لانا چاہئے اور نہ ہی کی ہوئی عبادت اور طاعت کا۔ اگر ایسا کرے اور دعا قبول نہ ہو تو بڑے تعجب کی بات ہے۔ اگر گناہ کا خیال دل میں لائے تو دعا کے ایقان میں سستی پیدا ہوتی ہے۔ پس دعا کے وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت پر نظر رکھنی چاہئے، اور یقین رکھنا چاہئے کہ یہ دعا ضرور مقبول ہو جائے گی۔“

آپ نے یہ بھی فرمایا کہ :

”دونوں ہاتھ دعا کے وقت کھلے رکھنے چاہئیں اور سینے کے

لہ قواعد القوائد عشرہ۔

برابر۔ اور یہ بھی آیا ہے کہ دونوں ہاتھ ملا کر رکھنے چاہئیں۔
اور بہت اوپر۔ ایسی شکل اختیار کرنی چاہئے کہ ابھی کوئی
چیز ملے گی۔“

آپ نے فرمایا کہ نہ :
ایمان کامل • حق تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہئے اور اس کے
سوا کسی سے امید نہ رکھنی چاہئے۔“
پھر آپ نے فرمایا کہ :

• آدمی کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک اس
کی نگاہ میں تمام خلقت پھرے بھی کم حقیقت نہ معلوم ہو۔“

مشغولی حق مشغولی حق کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ : نہ
اصل کام یاد حق ہے اور اس کے سوا جو ہے سب یاد
حق کا مانع ہے۔“

آپ نے فرمایا کہ : نہ
اقسام رزق • شائع کا قول ہے کہ رزق چار قسم کا ہوتا ہے :
(۱) رزق مضمون (۲) رزق مقسوم (۳) رزق ملوک (۴) اور
رزق موعود۔ رزق مضمون وہ ہے جو کھانے پینے وغیرہ کی چیزیں
اور آمدنی سے ہو۔ اس رزق کا اللہ تعالیٰ خاص ہوتا ہے۔“
رزق مقسوم وہ ہے جو ازل میں اس کے حصہ میں آچکا ہے، اور
لوح محفوظ میں لکھا جا چکا ہے۔

لے فائدہ القوائد ۸۴ لے فائدہ القوائد ۸۴ لے فائدہ القوائد ۸۴

رزق ملوک وہ ہے جو ذخیرہ کیا جائے۔ مثلاً روپیہ، پیسہ، کپڑا اور اسباب۔

رزق موعود وہ ہے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں سے کیا ہے :

تتمل کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ :
تتمل " لوگ آپس میں تین طرح کا سلوک کرتے ہیں :
 اول وہ لوگ جن سے کسی کو نہ فائدہ پہنچتا ہے اور نہ نقصان،
 ایسے لوگ بمنزلہ جمادات ہیں۔

دوسرے وہ جن سے فائدہ پہنچتا ہے، لیکن نقصان نہیں پہنچتا۔
 تیسرے ان دونوں سے اچھے ہیں۔ یعنی وہ لوگ جن سے لوگوں
 کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اگر انہیں دوسروں کی طرف سے نقصان
 پہنچے تو وہ اس کا بدلہ نہیں لیتے بلکہ برداشت کرتے ہیں، جو
 صدیقیوں کا کام ہے۔"

آپ نے فرمایا : لہ

سماح جب چند چیزیں موجود ہوں تو سماح مستنا چاہئے۔ وہ خبری
 یہ ہیں۔ مسح۔ مسوح۔ مستمع اور آلات سماح۔۔۔ مسح کہنے والے
 کو کہتے ہیں جو بالغ اور مرد ہو۔ نہ کہ لڑکا یا عورت۔

مسوح جو کچھ وہ گلانے وہ محس اور فضول نہیں ہونا چاہئے مستمع
 وہ جو سنے۔ سننے والا بھی یا دحتی سے پڑھو اور اس وقت ہاں

لہ فائدہ الفوائد ص ۲۰۰

خیال نہ ہو۔ سماع کے آلات چنگ اور رباب وغیرہ ہیں۔ یہ مجلس میں نہیں ہونے چاہئیں۔ ایسا سماع حلال ہے۔“

پھر آپ نے فرمایا :

”سماع ایک موزوں آواز ہے۔ یہ حسیرام کیوں کر ہو سکتی ہے۔ نیز اس میں قلب کو حرکت ہوتی ہے۔ اگر وہ حرکت یا دھچکی کی وجہ سے ہو تو مستحب ہے اور اگر بڑے خیال سے ہو، تو حرام ہے“

آپ کے چند اقوال حسب ذیل ہیں :

اقوال

اصل دانائی یہ ہے کہ دنیا کو ترک کیا جائے۔

درودیش کو چاہئے کہ نہ خوشی سے خوش ہو نہ غمی سے غم ناک۔

جب ایک مرتبہ پیٹ بھر جائے تو پھر اور نہیں کھانا چاہئے۔ البتہ دو

شخصوں کو کھانا جائز ہے۔ ایک وہ جس کے ہاں ہمالن آتے ہوئے ہوں، اور وہ ان کی خاطر ان کے ساتھ مل کر اور کچھ کھالے اور دوسرے وہ جو روزہ رکھتا ہے اور سمجھتا ہو کہ سحری کے وقت شاید کچھ نہ مل سکے۔

مرد جب علم سیکھتا ہے تو اسے شرف حاصل ہوتا ہے اور جب طاعت کرتا

ہے تو اس کے کام کی بہتری ہوتی ہے۔ اس موقع پر پیر کو چاہئے جو دونوں کو توڑے

یعنی علم اور عمل دونوں کو اس کی نظر سے گرا دے گا کہ خود پسندی میں مبتلا نہ ہو جائے۔

تین وقتوں میں نزول رحمت ہوتا ہے۔ ایک سماع کی حالت میں۔ دوسرے

وہ کھانا کھاتے وقت جو طاعت کی نیت سے کھایا جائے اور تیسرا درود پڑھنے

کے حالات بیان کرتے وقت۔

سالک جب پیر کی بیعت میں مستقیم ہو تو جو کچھ اس سے پہلے کر گزرا ہو اس کے

لئے اس سے مواخذہ نہیں کیا جاتا۔

- معاملے کے وقت اس قسم کی گفتگو کرنی چاہئے، جس سے گردن کی رگیں نمودار نہ ہوں، یعنی تعصب اور غضب کی علامت نہ پائی جائے۔
- ہر ایک کا ظلم سہنا چاہئے اور اس کا بدلہ لینے کی نیت بھی نہیں کرنی چاہئے۔
- جس میں علم و عقل و عشق ہو وہ خلافتِ مشائخ کے شایان ہوتا ہے۔
- اولیاء کا عشق ان کی عقل پر غالب ہوتا ہے۔
- جس کی طبع لطیف ہو وہ جلد ہی برہم ہو جاتا ہے۔

اوراد و وظائف آپ نے فرمایا کہ دُعا نزولِ بلا سے پہلے کرنی چاہئے۔
 سحر کے وقت دُعا اکثر قبول ہوتی ہے۔ دُعا کے واسطے یہ وقت بہت اچھا ہے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر نے آپ کو بتایا کہ رقتِ گریہ کے وقت دُعا کو غنیمت سمجھا چاہئے کیوں کہ اس وقت کی دُعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ حضرت محبوب الہی نے فرمایا کہ تعویذ کو بازو پر باندھا بہتر ہے۔ گلے میں لٹکانا نہیں چاہئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لٹکانے سے منع فرمایا ہے آپ کے بعض اوراد و وظائف حسب ذیل ہیں :

مشکلات حل ہونے کے لئے حضرت محبوب الہی فرماتے ہیں کہ جب کوئی مشکل درپیش ہو تو جینے کی بند ہوئی شب با وضو قبلہ رو ہو کر بیٹھے۔ اسی ہزار مرتبہ
 وَاللّٰهُ السَّمِيعُ

پڑھے۔ ہر ہزار پڑھ سجدہ میں رکھنا چاہئے اور تیس بار آمین کہنا چاہئے۔

ایم اعظم حضرت محبوب الہی فرماتے ہیں کہ عربی زبان میں ایم اعظم **يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ** ہے اور فارسی زبان میں **ایمیدایمیداران** ہے۔

بغیر اسباب کے خوش زندگی گزارنے کے واسطے
ہر روز سو مرتبہ یہ دعا پڑھنا چاہئے:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

گم ہونی چیز کے واسطے
آپ فرماتے ہیں کہ گم ہونی چیز کے مل جانے کے واسطے حسب ذیل دعا پڑھنا چاہئے۔

يَا جَامِعَ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ اجْمَعْ عَلَيَّ مَنَّا لَيْتِي۔

دینی اور دنیاوی مراد کے واسطے
آپ نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد سجدہ میں سر رکھ کر حسب ذیل دعا کئی مرتبہ پڑھے:

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَفْتِحُكَ بِأَمِّ يَحْيَى ابْنِ ذَكْرِيَا يَا مَالِكِ يَوْمَ الدِّينِ

يَحْيَى ابْنُ مَرْيَمَ وَآيَاتِكَ وَسُوءِ بَشَرِيَّةٍ

دشمن پر غالب ہونے کے واسطے
آپ نے فرمایا کہ دشمن کے مقابل ہو کر حسب ذیل دعا پڑھنا چاہئیں:

يَا سُبُوْحُ يَا قُدُّوسُ يَا غَفُوْرُ يَا ذُوْجَدُّ

بیماری سے اچھا ہونے کے واسطے
آپ نے فرمایا کہ ہر ایک بیماری سے اچھا ہونے کے واسطے حسب

ذیل دعا لکھ کر پانچ ماہ تک پڑھئے:

اللَّهُ شَاقِي اللَّهُ الْكَافِي اللَّهُ السَّاقِي

حاجت پوری ہونے کے واسطے
حضرت محبوب الہی فرماتے ہیں کہ حسب ذیل دعا حاجت پوری ہونے

کے واسطے نہایت زود اثر ہے۔ یا حَتِّي يَا خَلِيْمُ يَا عَزِيْزُ يَا كَوِيْمُ بكن كار صعب

راسلیم یحییٰ ایاتک نعبد و ایاتک نستعین

روزئی فراخ ہونے کے واسطے آپ نے فرمایا کہ روزی تسراخ ہونے کے واسطے ہر رات کو سورۃ

جمعہ پڑھنا چاہئے اور **اللَّهُ خَيْرُ الشَّاكِرِينَ** کی تین مرتبہ یا سات مرتبہ یا اکیس مرتبہ تکرار کرنا چاہئے۔ اگر سورۃ جمعہ روز نہ پڑھ سکیں تو جمعہ کی ہر رات کو ضرور پڑھنا چاہئے۔ آپ نے فرمایا کہ وسعت رزق کے واسطے ہر روز صبح کے وقت **كُلُّ لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ** سو بار پڑھنا چاہئے۔

دُعائے ماثورہ آپ نے فرمایا کہ جب رنج و بلا سے کسی طرح خلاصی نہ ہو تو جمعہ کے روز عصر کی نماز سے لے کر شام تک جب ذیل تین اسماء کو پڑھتا رہے اور کوئی کام نہ کرے رنج و بلا سے نجات پلے گی۔
يَا اللَّهُ - يَا رَحْمَنُ - يَا رَحِيمُ

کشف و کرامات حضرت محبوب الہی صاحب کشف و کرامات تھے لیکن ان چیزوں کی آپ کی نگاہ میں کوئی اہمیت نہ تھی۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ کشف و کرامات راستہ میں حجاب ہیں۔ محبت میں کام انتقامت سے نکلتا ہے۔ عاجز بن کر رہنا چاہئے تاکہ اصلی مقصد حاصل ہو۔ کرامتیں ظاہر کرنا بزرگی اور برتری کی دلیل نہیں۔ اسرار کو پوشیدہ رکھنا چاہئے لیکن اس کے واسطے بڑے حوصلے کی ضرورت ہے۔

حضرت محبوب الہی فرماتے ہیں کہ سلوک کے طور پر ہے، سزاؤں اور کشف و کرامت کا ہے، جو سالک اس درجے میں رہ گیا وہ نہیں بڑھ سکتا۔

آپ فرماتے ہیں کہ خارق عادت کی چار قسمیں ہیں:

۱۔ معجزہ۔ معجزہ پیغمبروں سے ظاہر ہوتا ہے۔

۲۔ کرامت۔ کرامت اولیاء سے ظاہر ہوتی ہے۔

۳۔ معونت۔ جب کوئی بات خلاف عادت بعض بے علم، اور

بے عمل مجذوبوں اور دیوانوں سے ظاہر ہو، اسے
معونت کہتے ہیں۔

۴۔ استدراج۔ جب کوئی خلافِ عادت بات ایسے لوگوں سے
ظاہر ہو جو ایمان نہیں رکھتے، اس کو استدراج کہتے ہیں۔

آپ نے فرمایا کہ کرامت ہے تین چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔
پہلی چیز علم بے تعلیم۔ بغیر پڑھے نکلے عالم ہونا۔
دوسری چیز یہ ہے کہ اولیاء بیداری میں وہ چیزیں دیکھتے ہیں جو
عام لوگ خواب میں دیکھتے ہیں۔

تیسرے یہ کہ جیسے عام لوگوں کا خیال خود ان کے اندر اثر کرتا
ہے اولیاء کا خیال غیروں میں وہی اثر کرتا ہے۔

آپ کی بعض کرامات کا حال ذیل میں بیان کیا جاتا ہے :

ایک مرتبہ قاضی محمد الدین کاشانی سخت بیمار ہوئے بظاہر آپ کے بچنے
کی امید نہ تھی۔ حضرت محبوب الہی آپ کو دیکھنے تشریف لے گئے۔ قاضی صاحب
جالی کنی کے عالم میں تھے۔ حضرت محبوب الہی کے قدموں کی برکت سے قاضی صاحب
کی سب بیماری دور ہو گئی۔ آپ نے کھڑے ہو کر حضرت محبوب الہی کو تعظیم دی۔

آپ کی خانقاہ میں باؤلی کھودی جا رہی تھی۔ پانی کھاری نہ نکلا۔ ایک روز
آپ ساج میں تشریف رکھتے تھے، آپ نے خواجہ اقبال سے دعواتِ روشنائی کاغذ
اور قلم منگایا۔ آپ نے کاغذ پر کچھ لکھ کر خواجہ اقبال کو وہ کاغذ باؤلی میں ڈالنے کو
دیا۔ پرچے کے ڈالنے سے پانی میٹھا ہو گیا۔

۱۵ جامع العلم۔

آپ کے ایک مرید مولانا بابر الدین نے ایک مرتبہ رات کے وقت آپ کی ڈیز پر ایک اونٹ کھڑا دیکھا۔ آپ اس اونٹ پر سوار ہوئے۔ اونٹ جو میں اڑتا ہوا چلا گیا۔ آخر رات میں دیکھا کہ وہ اونٹ پھر واپس آیا اور حضرت محبوب الہی اونٹ پر سے اترے اور خانقاہ میں تشریف لے گئے۔

آپ کے ایک مرید کے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر آپ اس کو اپنا جھوٹا پانی دیں گے تو یہ آپ کی کرامت ہوگی حضرت محبوب الہی اس کے خطرے سے آگاہ ہوئے اور آپ نے اپنا جھوٹا پانی اس کو عنایت فرمایا۔

دہلی کے ایک بادشاہ کا عجیب واقعہ ہے۔ سلطان غیاث الدین تغلق اگرچہ بظاہر محبوب الہی سے کچھ نہ کہتا تھا، لیکن دل میں آپ کی طرف سے کدورت رکھتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ بنگال سے دہلی روانہ ہو رہا تھا۔ اس نے حضرت محبوب الہی کو پیغام بھیجا کہ اس کے آنے تک وہ دہلی نہ ہوں اور اس کے بعد غیاث پور سے بھی چلے جائیں۔ آپ اس وقت کچھ رنجیدہ ہوئے اور آپ نے جواب دیا: اے

”ہنوز دہلی دور است“

یعنی ابھی دہلی دور ہے۔

آخر کار ایسا ہوا کہ ابھی دہلی نہ پہنچا تھا کہ تغلق آباد کا محل غیاث الدین تغلق پر گرنا، اور وہ مر گیا۔ اس کو دہلی پہنچنا نصیب نہ ہوا۔ اب بھی بطور ضرب المثل کے لوگ کہتے ہیں: ”ہنوز دہلی دور است“

باب ۷

حضرت نصیر الدین محمود چراغ دہلوی

حضرت نصیر الدین محمود چراغ دہلوی خاندانِ چشت کے روشن چراغ ہیں۔ آپ حضرت نظام الدین اولیاء کے جانشین ہیں۔ آپ مرو میدان دین ہیں، اور فروریڈین یقین ہیں۔

آپ کے جدامجد حضرت شیخ عبداللطیف نیروی خراسان کے رہنے والے تھے وہاں سے ہجرت کر کے لاہور تشریف لائے۔

خاندانی حالات

ان کے لڑکے حضرت شیخ سحبی لاہور سے سکونت ترک کر کے اودھ میں رونق افروز ہوئے۔

آپ کے والد حضرت شیخ سحبی اور آپ کی والدہ اودھ میں سکونت پذیر والدین تھے۔ آپ کے والد صوفی منش تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ نہایت نیک

تھیں۔ زیادہ وقت عبادت میں گزارتی تھیں۔ وہ اپنے زمانے کی رابعہ تھیں۔ آپ کے والد خوش حال تھے پشمینہ فروخت کرتے تھے۔ آپ کے یہاں غلام بھی تھے۔ لے

لے سیر الاولیاء (فارسی) ص ۲۲۸۔

۱۳۶

نسب نامہ پداری آپ کا نسب نامہ پداری حسب ذیل ہے :

حضرت شیخ نصیر الدین محمود بن شیخ یحییٰ بن عبداللطیف بن یوسف
بن عبدالرشید بن سلیمان بن شیخ احمد بن شیخ یوسف بن شیخ محمد بن شیخ
شہاب الدین بن شیخ سلطان بن شیخ اسحاق بن شیخ مسعود بن شیخ
عبداللہ بن حضرت واعظ اصغر بن واعظ اکبر بن اسحاق بن سلطان
ابراہیم بن ادہم بلخی بن شیخ سلیمان بن شیخ ناصر بن حضرت عبداللہ
بن امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب۔

ولادت باسعادت آپ اودھ میں پیدا ہوئے۔

نام نامی آپ کا نام نصیر الدین ہے۔

خطاب آپ کا خطاب محمود ہے۔

لقب آپ کا لقب "چراغ دہلی" ہے۔ آپ کے چراغ دہلی کہلانے کی چند وجوہات
ہیں۔ حضرت مخدوم جہانیاں گشت جب مکہ معظمہ پہنچے اور حضرت امام
یافعیؒ سے ملے تو باتوں باتوں میں دہلی کے بزرگان کا ذکر آگیا۔ حضرت امام یافعیؒ نے فرمایا:
"پہلے تو دہلی میں بہت بزرگان تھے۔ وہ سب واصل حق ہو گئے۔"
پھر حضرت امام یافعیؒ نے فرمایا کہ :

"اب تو شیخ نصیر الدین اودھی کہ دہلی کے چراغ ہیں۔ باقی ہیں" لہ

لہ تاریخ فرشتہ (فارسی) ص ۲۹۹۔ سیر العارفین

حضرت مخدوم جہانیاں جہاں گشت سید جلال کچھ عرصے کے بعد مکہ معظمہ سے دہلی واپس
آئے اور حضرت نصیر الدین محمود چراغ دہلی سے بیعت ہوئے اور بعد ازاں خلافت سے
مشرّف ہوئے۔ آپ کے ”چراغ دہلی“ کہلانے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ :

” ایک مرتبہ چند درویش بسلسلہ سیاحی دہلی آئے اور حضرت
نظام الدین اولیاء سے ملے۔ وہ درویش حضرت محبوب الہی کی
خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتفاق سے حضرت نصیر الدین محمود
چراغ دہلی بھی حضرت محبوب الہی کی خدمت بابرکت میں حاضر
ہوئے۔ حضرت محبوب الہی نے آپ کو بیٹھنے کا حکم دیا، آپ نے
عرض کیا :

” درویشوں کی طرف میری بیٹھ ہو جائے گی “

حضرت محبوب الہی نے فرمایا کہ :

” چراغ کی رو پشت نہیں ہوتی “

اپنے پیرو مرشد کے حکم موافق آپ بیٹھ گئے، آپ کی رو پشت یکساں ہوئی۔ جیسے
کہ آپ آگے سے دیکھتے تھے۔ اب پشت کی طرف سے بھی دیکھنے لگے، اسی روز سے
آپ ”چراغ دہلی“ کے لقب سے مشہور ہوئے۔

تیسری وجہ یہ ہے کہ ایک دفعہ بادشاہ نے جو حضرت محبوب الہی سے حد
رکھتا تھا اور جس کو ان کا اقتدار ناپسند تھا، عین عرس کے موقع پر حضرت محبوب الہی
کی خانقاہ کے واسطے تیل بند کر دیا۔ حضرت نصیر الدین چراغ دہلی نے یہ واقعہ حضرت
محبوب الہی کے گوش گزار کیا۔ آپ نے دریافت فرمایا :

” باؤلی جو کھد رہی ہے، اس میں کچھ پانی نہ نکلا ہے “

حضرت نصیر الدین چراغ دہلی نے عرض کیا :

”حضور! ہاں بکلا ہے“

حضرت محبوب الہی نے حکم دیا :

”اسی کو چراغوں میں پڑ کر کے روشن کرو“

آپ نے ایسا ہی کیا۔ تمام چراغ تیل سے نہیں پانی سے روشن ہو گئے۔ حضرت نصیر الدین محمود سارے جہان میں چراغِ دہلی کے لقب سے مشہور ہو گئے۔

بچپن کا حکمہ
جب آپ کی عمر نو سال کی ہوئی، والد ماجد کا سایہ
عاطفت سر سے اٹھ گیا۔

تعلیم و تربیت
والد کے انتقال کے بعد آپ کی تعلیم و تربیت کا بار آپ کی
والدہ ماجدہ نے بھگن و خوبی اٹھایا۔ انہوں نے اپنی پوری

ذمہ داری محسوس کی اور آپ کی تعلیم و تربیت میں بہت کوشش کی۔
آپ کو مولانا عبدالکریم شیروانی کے سپرد کیا، اور ان کی وفات کے بعد آپ نے
مولانا افتخار الدین گیلانی سے تحصیلِ علم کی۔ آپ نے علوم ظاہری سے جلد فراغت
حاصل کی، اور بیس سال کی عمر میں تمام علوم حاصل کر کے تعلیم کا سلسلہ ختم کیا۔

درویش کی صحبت
آپ شروع ہی سے مجاہدہٴ نفس میں لگے رہتے تھے۔
آپ نے ایک درویش کی صحبت میں رہنا شروع
کیا۔ یہ درویش شہر سے دوڑ جنگل میں رہتے تھے۔ دنیا سے ان کو کچھ غرض نہ تھی۔ گھاس
اور پتے کھا کر گزارہ کرتے تھے۔

دہلی میں آمد
آپ تینتالیس سال کی عمر میں دہلی میں رونق افروز ہوئے یہ دہلی
پہنچ کر آپ حضرت نظام الدین اولیاء کی خدمت میں حاضر ہوئے

لہ بعض کا خیال ہے کہ آپ کی عمر اس وقت چالیس سال کی تھی۔

آپ ایک مدت تک حضرت محبوب الہی کی خدمت میں رہے۔

حضرت محبوب الہی نے آپ کو بیعت سے مشرف فرمایا۔
بیعت و خلافت بعد ازاں خرقہ خلافت عطا کیا۔ آپ پر حضرت

محبوب الہی کی خاص نوازش اور مہربانی تھی۔ آنحضرت نے آپ کو اپنا صاحبِ سجاد اور جانشین بنایا۔ وہ تمام تبرکات جو آپ کو حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر سے ملے تھے، حضرت نصیر الدین محمود چراغ دہلوی کے سپرد فرمائے اور نصیحت فرمائی کہ وہ ان تبرکات کو اسی طرح اپنے پاس رکھیں، جس طرح انہوں نے اور خواجگانِ چشت نے بصدا احترام و ادب رکھا ہے۔

آپ کا شجرۂ بیعت اٹھارہ واسطوں سے امام الاولیاء حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ملتا ہے۔

حضرت بہا الدین زکریا کے مرید خواجہ محمد گلازرونی ایک مرتبہ
ایک واقعہ حضرت محبوب الہی کے پاس آئے۔ آپ اس رات خانقاہ میں

رہے۔ جب تہجد کی نماز کا وقت آیا تو آپ نے وضو کرنے کی غرض سے اپنی رضائی اتاری۔ رضائی ایک جگہ رکھ کر وضو کرنے چلے گئے جب وضو کر کے واپس آئے تو اس جگہ رضائی کو نہ پایا۔ آپ خانقاہ کے خادم خواجہ محمد کو سخت سست کہنے لگے۔

حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی خانقاہ میں عبادت میں مشغول تھے۔ آپ نے جب یہ گفتگو سنی، آپ اٹھے اور اپنی رضائی خواجہ محمد گلازرونی کو دے کر قصہ ختم کیا۔ کسی نے یہ خبر حضرت محبوب الہی کو پہنچائی۔ حضرت محبوب الہی نے آپ کو اور بلایا اور اپنی خاص رضائی آپ کو عطا کی، آپ کے لئے دعائے خیر فرمائی، اور آپ کو دینی و دنیاوی نعمت سے سرفراز فرمایا۔

پیر و مرشد کی خدمت میں معروضہ کچھ تو پاس ادب کی وجہ سے اور کچھ اس وجہ سے کہ حضرت

امیر خسرو کو بارگاہِ محبوب الہی میں خاص قرب حاصل تھا۔ جب چاہتے تھے حضرت محبوب الہی کی خدمت میں حاضر ہو جاتے تھے، آپ نے خود تو عرض نہیں کیا بلکہ حضرت امیر خسرو سے کہلوا یا کہ شہر میں رہنے سے مشغولی میں فرق آتا ہے، عبادت میں خلل واقع ہوتا ہے، لوگ ہر وقت آتے جاتے رہتے ہیں۔ اگر حکم ہو تو صبح یا پہاڑ میں سکونت اختیار کر لوں اور وہاں سکون اور اطمینان کے ساتھ عبادت میں مشغول ہوں۔ حضرت امیر خسرو نے حضرت محبوب الہی سے عرض کیا۔ حضرت محبوب الہی نے جواب دیا کہ: لے

ان سے کہہ دو کہ شہر میں رہنا چاہئے اور مخلوق کی جفا و قضا کو برداشت کرنا چاہئے، اور اس کے بدلے ان کے ساتھ بذل و ایثار اور عطا کرنی چاہئے۔

مجاہدات آپ نے سخت سے سخت مجاہدے کئے۔ ایک مرتبہ نفس نے آپ کو پریشان کیا۔ آپ نے نفس کو مغلوب کرنے کی غرض سے اس قدر لیون کھائے کہ آپ سخت بیمار ہو گئے۔

ایک دفعہ آپ نے دس روز تک کچھ نہیں کھایا۔ کسی نے حضرت محبوب الہی کو اس بات کی اطلاع کر دی۔ آنحضرت نے آپ کو اپنے سامنے بلایا۔ جب آپ خدمتِ اقدس میں حاضر ہوئے۔ حضرت محبوب الہی نے فرمایا۔ اقبال کو حکم دیا کہ ایک روٹی لائیں۔ خواجہ اقبال ایک روٹی پر بہت سا علوہ رکھ کر لائے۔ حضرت

لے سیرالاولیاء (فارسی) ص ۲۲۷۔

محبوب الہی نے آپ کو حکم دیا کہ وہ سب کھالیں۔ آپ حیران ہوتے کہ یہ سب ایک مرتبہ میں کیسے کھائیں گے لیکن پیرو مرشد کا حکم کیسے مالتے۔ سب کھالیا۔

آپ نے شیخ زین الدین، اور شیخ کمال الدین کو وصیت فرمائی کہ ان کے اعمال کے بعد ان کے شیخ کا خرقہ ان کی

قبر میں ان کے سینہ پر اور کاتبہ چوبیس ان کے سر ہانے اور تسبیح ان کی انگلی میں، اور عشا اور نعلین ان کی برابر رکھ لینا یہ

اپنے پیرو مرشد کے تیس سال بعد آپ نے ۱۸۔ رمضان ۵۷۷ھ کو رحلت فرمائی یہ جس حجرے میں آپ رہتے تھے

اسی میں آپ کا مزار مبارک ہے۔ آپ کا سالانہ عرس ہوتا ہے۔ آپ کا مزار زیارت گاہ خاص و عام ہے۔

آپ کے خلفاء آپ کے بہت سے خلیفہ ہیں بعض مشہور خلفاء حسب ذیل ہیں :

حضرت خواجه بندہ نواز سید محمد گیسو دانا۔ حضرت شیخ کمال الدین (جو آپ کی بہن کے لڑکے ہیں) مخدوم جہانیاں جہاں گشت۔ حضرت شیخ صدر الدین طبیب دولہا۔ حضرت سید محمد جعفر الہکی الحسینی۔ مولانا علاء الدین سندیلوی۔ مولانا خواجگی۔ مولانا احمد تھانیسری شیخ معین الدین خورو۔ قاضی عبدالقادر بن قاضی رکن الدین۔ قاضی محمد شادی مخدوم شیخ سلیمان رورلوی۔ شیخ محمد متوکل۔ شیخ دانیال عرف مولانا عود۔ مخدوم شیخ قوام الدین

۱۵۲ مرآة الاسرار۔ ۱۵۲ سیر الاولیاء (فارسی) ص ۲۲۲

دہلی میں رہے۔ حضرت خواجہ بندہ نواز سید محمد گیسو دراز دہلی سے
دکن تشریف لے گئے۔ حضرت شیخ کمال الدین دہلی میں رہے۔

سیرت مقدسہ
آپ کی ذات پسندیدہ اور اوصاف بگزیدہ تھے۔ آپ علم،
عقل اور عشق میں اپنی مثال نہیں رکھتے تھے۔ آپ غسل،
بروباری اور ایثار میں یگانہ روزگار تھے۔ آپ مخلوق کے جو درد ستم پر صبر کرتے تھے۔
برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے تھے۔ آپ اہل ارادت کے لئے نظیر تھے۔ راہ سلوک
میں بے نظیر تھے۔ آپ ایک مثالی پیر تھے۔ عین جوانی میں جو کہ کامرانی کا زمانہ سمجھا
جاتا ہے، آپ نے دنیا کو ترک کر دیا تھا آپ امیر سے بے پروا تھے۔ وزیر سے کچھ
غرض نہ رکھتے تھے۔ آپ اپنے پیر و مرشد کی پیروی میں ہمہ تن مشغول تھے۔ آپ کو
سماح کا شوق تھا۔

عفو و درگزر
ایک روز کا واقعہ ہے کہ ایک قلندر چپاپ کی خانقاہ میں آیا۔
حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی حجرہ میں تشریف رکھتے تھے۔
وہ قلندر حجرہ میں داخل ہوا۔ خانقاہ میں اس کے حجرہ میں داخل ہونے کا کسی کو پتہ نہ
چلا۔ اس نے آپ کے چہرہ مبارک پر اٹھارہ زخم لگائے۔ آپ اس درجہ متعزاق
میں تھے کہ آپ کو کچھ پتہ نہ چلا۔ حجرہ کی نالی سے جب خون باہر نکلا تو لوگ حجرہ کے
اندر آ گئے۔ قلندر کو پکڑا۔ آپ نے قلندر کو سزا دینے سے منع فرمایا۔ آپ نے
اس قلندر کو ایک تیز رفتار گھوڑا، اور بچاس اشرفیاں مرحمت فرمائیں اور اس سے
فرمایا کہ "جلد شہر سے باہر چلے جاؤ تاکہ تمہیں لوگ تکلیف نہ پہنچا سکیں۔ اس قلندر
نے ایسا ہی کیا۔"

۱۵۳ تاریخ فرشتہ (فارسی) ص ۲۹۹

شعرو سخن کا ذوق حسب ذیل غزل آپ کے شعرو سخن کی آئینہ دار ہے :

بے کارم و باکارم چوں مد بحساب اندر
 گویا نم و خاموشم چوں خط بکتاب اندر
 اے زاہدِ ظاہر میں از قرب چہ می پرسی
 او در من و من در منے چوں بوی بکلاب اندر
 دریا است پر از چشم لب تر نہ شود ہرگز
 ایں طرفہ عجائب میں تشنہ است آب اندر
 گہہ شادم و گہہ عنتم گمیں از حال خود غافل
 می گریم و می خندم چوں طفل بخواب اندر
 در سینہ نصیر الدین جز عشق نمی گنجد
 ایں طرفہ عجائب میں دریا بحساب اندر

تعلیمات آپ کی بعض تعلیمات حسب ذیل ہیں :

پیر کی صفات آپ نے فرمایا کہ :
 "اے درویش! راہ سلوک میں پیرا سے
 کہتے ہیں، جسے مرید کے باطن پر تصرف حاصل ہو، اور ہر لحظہ اور
 گھڑی مرید کی ظاہری اور باطنی مشکلات کو معلوم کر کے حل کر سکے۔
 اور اس کے آئینہ باطن کو صاف کر سکے۔"

مرید کے فرائض آپ نے فرمایا کہ :
 "صادق مرید اسے کہتے ہیں جسے جو کچھ پیر حکم کرے،

بجالاتے اور جو کچھ اسے دکھانے وہی دیکھے اور ہر وقت پیر کو
حاضر و ناظر سمجھے۔ جو کچھ اس کے دل میں نیک یا بد خیالات گزریں
ان کا اظہار اپنے پیر سے کرے۔ اگر مرید کے دل میں ذمہ کبیر
خیال بھی پیر کے برخلاف ہو تو وہ صادق مرید نہیں کہلا سکتا۔“

آپ نے فرمایا کہ: اے

فقیری کا سرمایہ ”فقیری کا سرمایہ مجاہدہ ہے۔ وہ بھی صدق

دل سے، نہ اس غرض سے کہ مخلوق اس کو عابد، زاہد، صاحب
مجاہدہ جانیں بلکہ یہ مجاہدہ خاص اللہ تعالیٰ کے واسطے ہو، اور
جب مجاہدہ باخلاص ہوگا تو پھر فرائض ہوگا اور اللہ تعالیٰ اسے مقام
مقصود تک پہنچا دے گا۔“

آپ نے فرمایا کہ: اے

اصلی کام ”اصل کار محافظت نفس کی ہے۔ مراقبہ میں صوفی کو لازم

ہے کہ اپنے نفس کو نگاہ رکھے یعنی سانس روکے تا جمیعت باطن
حاصل ہو، جب سانس لے گا تو باطن پریشان ہوگا اور خرابی
پاوے گا۔“

آپ کے چند اقوال پیش کئے جاتے ہیں جو حسب ذیل ہیں:

تمام کاموں میں نیت خالص درکار ہے۔

لقمہ تجارت اچھا لقمہ ہے۔

جن قدر سالک کو معرفت خدا تعالیٰ حاصل ہوتی ہے، اسی قدر تعلقات
کم ہوتے جاتے ہیں۔

۱۵۵ خیر المجالس ۹۹ ۱۵۵ خیر المجالس ۱۵۵

● درویش کو چاہئے کہ اگر اس پر فاقہ گذرے تب بھی اپنی حاجت غیر سے نہ کہے۔
 ● طلب دنیا میں اگر نیت خیر کی ہو تو وہ فی الحقیقت طلبِ آخرت ہے۔
 ● سماعِ درو مندوں کے لئے بمنزلہ علامت ہے جس طرح ظاہری درد کے لئے علاج ہوتا ہے، اسی طرح باطنی درد کے لئے سماع کے سوا اور کوئی علاج نہیں۔

اورادو وظائف

آپ کے بتائے ہوئے چند اوراد و وظائف حسب ذیل ہیں :

حق تعالیٰ کی محبت کے واسطے آپ نے فرمایا کہ عصر کی نماز کے بعد پانچ مرتبہ سُوْرَةُ فَاتِحَةِ پڑھنا

مفید ہے۔

آپ نے فرمایا کہ عشا کی نماز کے بعد دو رکعت پڑھنا چاہئے۔ ہر رکعت میں

سُوْرَةُ فَاتِحَةِ کے بعد اِنَّا اعطینا من مرتبہ پڑھنا چاہئے، اور پھر سجدہ میں یہ پڑھے :
 ” مَتَفَنِي بِسْمِعِي وَبِعَسْوِي وَجَعَلَهَا الْوَارِثُ ”

بعض کرامات

ایک دن عزیز الدین آپ کی خدمت میں حاضر تھے۔ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی نے ایک کاغذ پر کچھ لکھا، اور وہ کاغذ عزیز الدین کو دیا کہ اس کو حضرت نظام الدین اولیاء کے روضہ مبارک میں پیش کر دینا۔ عزیز الدین نے اس کو پڑھنا چاہا لیکن نہیں پڑھا۔ انہوں نے سوچا کہ پہلے حکم کے موافق کاغذ روضہ مبارک میں پیش کر دیں پھر پڑھیں۔ روضہ مبارک میں کاغذ پیش کرنے کے بعد چراغ دہلوی نے بنگاہ ڈالی تو کاغذ

بالکل صاف تھا اور اس پر کچھ نہیں لکھا ہوا تھا۔
 سلطان محمد بن تغلق ٹھٹھہ روانہ ہوا۔ دہلی کے شاہنشین و بزرگان کو اپنے ہمراہ لیا
 حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کو بھی ساتھ لینا چاہتا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ :
 " سلطان کو اس سفر میں میرا ساتھ لینا مبارک نہیں ہے کیوں کہ وہ
 صحیح سلامت واپس نہ آئے گا۔

چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ سلطان محمد بن تغلق کا انتقال ہوا، اور آپ کی دعا سے فیروز شاہ
 بادشاہ ہوا۔

آخر عمر میں حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کے جسم سے ایسی ہی خوش بو آنے
 لگی تھی جیسی کہ حضرت نظام الدین اولیاء کے جسم سے آتی تھی۔

۱۵۴

باب ۸

حضرت امیر خسرو

حضرت امیر خسرو بادشاہ سلطنت شمال میں اور خسرو ملکیت فضاں میں۔

آپ حضرت نعام الدین اولیاء کے مرید اور خلیفہ ہیں۔

خاندانی حالات آپ ہزارہ بلخ کے ایک تمار خانمان سے وابستہ تھے۔ علم اور دولت اس خانمان کی خصوصیات ہیں۔

والد ماجد آپ کے والد ماجد کا نام امیر سیف الدین محمود ہے۔ آپ ہزارہ بلخ کے امیر زادوں میں سے تھے۔ چنگیز خاں کے زمانے میں ہندوستان

تشریف لائے اور شاہی دربار میں تمار عہدے پر فائز ہوئے۔

بھائی آپ کے دو بھائی تھے۔ ایک بھائی کا نام اعزاز الدین علی شاہ ہے اور دوسرے بھائی کا نام حسام الدین ہے۔

پیدائش آپ موئن آباد میں جناب پٹیالی کے نام سے مشہور ہے پیدا ہوئے آپ کا نام ابوالحسن ہے۔

لقب آپ کا لقب یمن الدین ہے یہ

تعلیم و تربیت آپ نے اپنے والد بزرگوار کے سایہ عاطفت میں تعلیم و تربیت پائی۔ جب آپ کی عمر نو سال کی ہوئی، والد کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا۔ والد کے انتقال کے بعد آپ کی والدہ کے ایک دور کے رشتہ دار نے آپ کی تعلیم و تربیت پر کافی التفات اور توجہ دی۔ عماد الملک جو اپنے ہمعصروں میں ایک نمایاں حیثیت رکھتے تھے، اور جن کی عمر ایک سو تیس سال کی تھی، آپ کے جد مادری تھے۔ آپ کی تعلیم و تربیت دہلی میں ہوئی۔

بیعت اور خلافت جب آپ کی عمر آٹھ سال کی ہوئی، آپ کے والد آپ کو اپنے ہمراہ لے کر حضرت نظام الدین اولیاء کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ چاہتے تھے کہ اپنے پیر کا انتخاب خود کریں۔ آپ کے والد یہ سن کر حضرت محبوب الہی کی خدمت میں اندر چلے گئے۔ لیکن آپ دروازہ پر باہر بیٹھ کر کچھ اشعار رکھنے لگے۔ آپ نے وہاں بیٹھے بیٹھے حسب ذیل قطعہ لکھا:

تو آل شاہی کہ بر ایوان قہر
کبوتر گرنشیند باز گرد
غریبے مستندے بردر آمد
سیاید اندروں یا باز گرد

آپ سوچنے لگے کہ حضرت محبوب الہی شیخ کامل ہیں تو آپ کے اشعار کا جواب دیں گے اور آپ کو اپنے پاس بلائیں گے۔

حضرت محبوب الہی نے اپنے ایک خادم سے فرمایا کہ باہر جو لڑکا بیٹھا ہے اس کے پاس جا کر یہ اشعار پڑھ دو۔

لہ نفحات الانس ص ۵۴۔

بیاید اندرون مرد حقیقت کہ با ایک نفس ہم سزا گرد
اگر ابلہ بود آں مرد نادان از اں را ہے کہ آمد باز گرد

آپ نے جب یہ اشعار سنے تو فوراً حضرت محبوب الہی کی خدمت میں حاضر ہوئے بیعت سے مشرف ہوئے، خلوص، اعتقاد اور محبت نے اپنا کام کیا، اور کچھ ہی دنوں میں آپ کو اپنے پیرو مرشد کی عنایت، محبت اور شفقت اس درجہ حاصل ہوئی کہ جس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ حضرت محبوب الہی نے آپ کو خرقہ خلافت پہنایا۔

خواجه حسن سے محبت
آپ کی خواجہ حسن سے محبت عشق کے درجے تک
پہنچ گئی تھی اس عاشقی، اور معشوقی کا چرچہ ہونے

پر شہزادہ سلطان خاں نے خواجہ حسن کے چند کوڑے مارے۔ شہزادہ سلطان خاں نے آپ کو بلایا اور اس محبت کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ نے جواب دیا کہ دوئی ہمارے درمیان سے اٹھ چکی ہے۔ "شہزادہ سلطان نے کہا" اس کا ثبوت؟" آپ نے اپنی آستین اٹھا کر دکھائی۔ جس جگہ خواجہ حسن کے کوڑے لگے تھے اسی جگہ آپ کے ہاتھ پر کوڑوں کے نشان موجود تھے۔

بادشاہوں سے تعلقات
آپ اور خواجہ حسن سلطان غیاث الدین بلبن کے لڑکے شہزادہ محمد سلطان خاں کے پاس

ملازم تھے۔ شہزادہ سلطان ملتان میں رہتے تھے۔ آپ نے کئی بار نوکری سے استعفیٰ دینا چاہا لیکن شہزادہ سلطان نے آپ کو اجازت نہیں دی۔ جب شہزادہ سلطان ملتان میں شہید ہوا، آپ نے دہلی آکر امیر علی کی ملازمت اختیار کی۔ سلطان جلال الدین خلجی کے تخت پر بیٹھنے کے بعد آپ اس کے مقرب ہوئے۔ غرض سلطان قطب الدین

۱۵ تاریخ فرشتہ منشا

بارک شادہ تک آپ پر ہر بادشاہ نے ہر و محبت اور لطف و کرم کی نظر رکھی۔ شاہی دربار میں آپ کی کافی عزت تھی۔ سلطان غیاث الدین تغلق جس کے نام پر آپ نے تغلق نامہ لکھا ہے، سب بادشاہوں سے زیادہ آپ کی عزت اور احترام کرتا تھا۔ یہ

حضرت قلندر صاحب کے ملاقات ایک دفعہ سلطان علاء الدین حسینی نے کچھ تحفے آپ کے ساتھ کر کے

آپ کو حضرت شیخ ابو علی قلندر پانی پتی کی خدمت میں بھیجا۔ حضرت قلندر صاحب آپ کا کلام سن کر بہت خوش ہوئے اور پھر اپنا کلام آپ کو سنایا۔ آپ قلندر صاحب کا کلام سن کر رونے لگے۔ حضرت قلندر صاحب نے آپ سے پوچھا:

”خسرو صرف روتا ہے۔ یا کچھ بھیجا بھی“

آپ نے جواب دیا:

”اکی وجہ سے روتا ہوں کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا“

حضرت قلندر صاحب یہ جواب سن کر بہت خوش ہوئے اور سلطان علاء الدین حسینی کے بھیجے ہوئے تحفے قبول فرمائے۔ یہ

آپ کا آئندہ خطاب آپ کے دل میں ایک دن یہ خیال گذرا کہ آپ کا

تخلص دنیا داروں کا ماہی ہے۔ کیا اچھا ہوتا کہ آپ کا تخلص فقیروں سے منسوب ہوتا۔ آپ نے اپنے پیرو مشد سے اس کا ذکر کیا۔

حضرت محبوب الہی نے فرمایا: ”مشر میں تجھ کو ”محمد کا سہ لیس“ کے خطاب سے پکاریں گے“

آپ کی وصیت آپ کے پیرو مشد کی زبان فیض تر جان سے جو محبت اور شفقت کے کلمات آپ کے متعلق نکلے تھے، ان سب کلمات کو

۱۵ تاریخ فرشتہ ص ۱۵ شرف النائب ۱۵ نفحات، ایس ۵۲۸

آپ نے ایک کاغذ پر لکھ کر بطور تعویذ حملے میں ڈال لیا تھا۔ آپ نے وصیت فرمائی کہ اس کاغذ کو جس پر وہ کلمات لکھے ہوتے تھے، آپ کے ساتھ قبر میں دفن کیا جائے تاکہ وہ کاغذ آپ کی بخشش کا ذریعہ بنے۔

وفات شریف
حضرت محبوب الہی کی وفات کے وقت آپ دہلی میں نہیں تھے۔ اس وقت آپ سلطان غیاث الدین تغلق کے ساتھ لکھنؤ میں تھے۔ وفات کی خبر سن کر دہلی آئے۔ اپنے پیرومرشد کے مزار پر انوار پر حاضر ہوئے۔ نوکری سے استغفار دیا۔ جو کچھ پاس تھا فقراء اور مساکین کو تقسیم کیا۔ بیاہ مانتی لباس پہنا، اور مزار پر رہنے لگے۔ چھ مہینے نہایت رنج و غم میں گزارے۔ آخر کار ۱۸ شوال ۷۲۵ھ کو رحمت حق میں پیوست ہوئے۔ آپ کا مزار حضرت محبوب الہی کے مزار کے پاس چوتراہ یاران کے نام سے مشہور ہے اور ہر سال آپ کا عرس بڑے تزک و احتشام سے ہوتا ہے۔

سیرت پاک
آپ نہ صرف ایک خوش گوشاعر، ایک اچھے مصنف، ایک بڑے عالم، ایک بامذاق شخص۔ ایک کامیاب مقرب سلاطین تھے بلکہ آپ ایک صاحبِ دل، صاحبِ نسبت صوفی صافی۔ اور ایک درویش دلریش بھی تھے۔ آپ آخر شب میں بیدار ہوتے تھے۔ تہجد کی نماز میں قرآن مجید کے سات پارے پڑھتے تھے، اور ذوق و شوق میں بے حد رونتے تھے۔ باوجود نوکری کے آپ نے چالیس سال تک بارہ مہینے روزے رکھے۔ آپ نے حضرت محبوب الہی کے ہمراہ طے عرض کے طریق پر حج کئے ہیں۔

پیرومرشد سے محبت
آپ کو اپنے پیرومرشد سے والہانہ محبت اور عقیدت تھی۔ آپ فنا فی الشیخ کے درجے پر پہنچ

۱۵ تاریخ فرشتہ ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، تاریخ فرشتہ ملکا، سفینۃ الاولیاء ۹۹، سفینۃ الاولیاء ۱۹

گئے تھے جب آپ دہلی میں ہوتے، زیادہ وقت اپنے پیرومرشد کی خدمت میں گزارتے تھے۔ ایک دن ایک شخص حضرت محبوب الہی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کے سات بیٹیاں تھیں۔ وہ ان کی شادی کرنا چاہتا تھا۔ حضرت محبوب الہی سے کچھ مالی امداد چاہتا تھا، لیکن اتفاق سے اس روز خانقاہ میں سوائے نعلین کے اور کچھ نہ تھا۔ آپ نے وہ نعلین ہی اس شخص کو دے دیں، بڑی اُتدیں لے کر آیا تھا، نعلین لے کر وہ کچھ خوش نہ ہوا۔ دہلی سے روانہ ہو کر ایک سرائے میں کھیرا۔ آپ بھی بہت کچھ ساز و سامان کے ساتھ دہلی جاتے ہوئے اسی سرائے میں ٹھہرے۔ اس سرائے میں آپ کو اپنے پیرومرشد کی خوشبو آئی۔ آپ سرائے میں تلاش کرتے پھرے کہ دہلی سے کون آیا ہے۔ جب اس شخص سے ملاقات ہوئی، پہلے پیرومرشد کی خیریت معلوم کی، اس شخص نے باتوں باتوں میں نعلین کا بھی ذکر کیا۔ آپ نے وہ نعلین لے لیں اور سب سامان اس کو دے دیا۔ وہ نعلین آپ نے اپنے عامہ میں لپیٹ کر سر سے باندھ لیں، اور اس طرح سے حضرت محبوب الہی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

پیرومرشد کی آپ سے محبت
حضرت محبوب الہی کو بھی آپ کے انتہائی
محبت تھی بلکہ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا:

”خسرو! میں سب سے تنگ آتا ہوں، مگر تجھ سے تنگ نہیں آتا“

ایک مرتبہ ارشاد ہوا کہ:

”میں سب سے تنگ ہوتا ہوں۔ یہاں تک کہ اپنے آپ سے بھی

آپ کے پیرومرشد نے آپ کو ”ترک اللہ“ کا خطاب دیا تھا۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ: ”میں بغیر اس کے (اخیر سرور کے جنت میں قدم نہیں رکھوں گا۔ اگر وہ کا ایک قبر میں دفن کرنا جائز ہوتا تو میں وصیت کرتا کہ اُس کو میری قبر

لے سفینۃ الاولیاء ص ۱۱۱ لطائف اشرفی فی بیان کوائف مولیٰ ص ۳۶ کہ تارک فرشتہ ص ۱۶۳

میں دفن کیا جائے“

ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا:

”روزِ قیامت ہر ایک سے پوچھا جائے گا کہ کیا لائے، مجھ سے پوچھیں

مے تو کہوں گا کہ اس ترک اللہ کے سینے کا سوز“ لے

آپ فرماتے تھے کہ: لے

”خداوند تعالیٰ مجھ کو اس ترک کے سینے کے سوز میں بخشنے“

ایک مرتبہ آپ نے متقدمین پر کچھ اعتراض کیا اور خمسہ نظامی کا جواب لکھتے وقت

یہ شعر کہا:

وید بہ خسرویم چوں شد بلند زلزہ در گور نظامی فگند

اسی وقت ایک برہنہ تلوار آپ کے سر پہ آئی۔ آپ نے حضرت محبوب الہی اور بابا فرید الدین

گنج شکر سے امداد طلب کی۔ ایک ہاتھ نمودار ہوا، جس نے آستین کاٹی۔ پھر تلوار غائب

ہو گئی۔ آپ محفوظ رہے۔ آپ حضرت محبوب الہی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ چاہتے تھے

کہ سب حال بیان کریں۔ حضرت محبوب الہی نے آپ کو وہ آستین دکھائی۔ آپ نے سب

زمین پر رکھا لے

حضرت محبوب الہی نے حسب ذیل اشعار آپ کی تعریف میں ارشاد فرمائے:

خسرو کہ بنظم و نثر مثلش کم خاست ملک سخن از خسرو ماست

ایں خسرو ماست نام خسرو نیست زیرا کہ خدا نامہ ایں خسرو ماست

نوسال کی عمر میں آپ نے اپنے والد ماجد کی وفات پر ایک مرثیہ

کہا جس کا حسب ذیل مطلع ہے:

لے سفینۃ الاولیاء ۹۹ لے تاریخ فرشتہ ۲۰۲ لے تذکرۃ الالقیاء لے نفحات لانس ۵۸۳

سیف از سرم گذشت و دل من دو نیم ماند دریاے مارواں شد و درہ پتیم ماند
 آپ نے حضرت محبوب الہی کی تعریف میں بہت سے اشعار لکھے۔ حسب ذیل اشعار پیر و مرشد کی
 تعریف میں ہیں:

بدا از خانقاہ او بقدمیم عظیم کعبہ را ماند بہ تعظیم
 ملک کردہ بقفش آشیانہ چو اندر سقفا کجشک خانہ

حضرت شیخ سعدی شیرازی آپ سے ملنے کے لئے ہندوستان آئے: لہ
 ایک مرتبہ آپ کو حضرت خضر علیہ السلام سے ملنے کا شرف حاصل ہوا۔ آپ نے
 حضرت خضر علیہ السلام سے درخواست کی کہ وہ لعابِ دہن مرحمت فرمائیں۔ حضرت خضر
 علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ سعادت شیخ سعدی شیرازی کے حصہ میں آچکی ہے۔ آپ نے حضرت
 محبوب الہی سے اس کا ذکر کیا۔

حضرت محبوب الہی نے اپنا لعابِ دہن آپ کے مونہہ میں ڈال دیا۔ اس کی برکت
 سے آپ کے کلام کو وہ مقبولیت حاصل ہوئی کہ جو کسی کو نہیں حاصل ہوئی۔
خاص خاص کتابیں
 آپ کی تصنیف کردہ بالوئے کتابیں ہیں۔ خاص خاص
 کتابیں حسب ذیل ہیں:

راحت الجبین۔ اس کتاب میں آپ نے حضرت محبوب الہی کے ملفوظات تحریر کئے ہیں:
 تحفۃ المقننیر۔ وسطا لِحیات۔ غرۃ الکمال۔ بقیۃ نقیۃ نہایت الکمال قرآن السعدین۔ مطلع الانوار بحجاب
 مخزن اسرار نظامی۔ شیریں خسروی المجدول۔ آئینہ سکندری۔ بہشت بہشت۔ تلج الفسوح۔
 نہ سپہر اعجاز خسروی، تعلق نامہ۔ خزائن الفسوح۔ مناقب ہند۔

شیخ نور الدین ابوالفتح ملتانی نے جب آپ کے جنازے پر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا چاہی۔
کرامت
 آپ اٹھ بیٹھے اور یہ شعر پڑھا۔

ما بعشقِ پیر خود چندانکہ مستغرق شدیم نیست مارا حاجتِ آمرزشِ آمرزگار

لہ خواہر الانوار لہ سبع سنابل

باب ۹

حضرت مولانا شمس الدین محمد رحیمی

حضرت مولانا شمس الدین محمد رحیمی شمس ملت ودین ہیں۔ آپ زاہد ممکن ہیں۔
عابد متدین ہیں و صفات حقائق ہیں۔ کشاف و قائل ہیں۔

والد بزرگوار آپ کے والد بزرگوار کا نام نامی محمد رحیمی ہے۔

نام آپ کا نام شمس الدین محمد ہے۔

آپ نے مولانا ظہیر الدین سے "بزودی" پڑھی۔ آپ نے
تعلیم و تربیت علم اصول، فقہ، تفسیر اور حدیث میں وہ درجہ حاصل کیا
تھا کہ آپ کی شاگردی باعثِ فخر و مباہات تھی۔ بہت سے علمائے شہر آپ کے شاگرد
تھے اور علوم ظاہری کی سند اور علوم دینی کی تحقیق آپ کی نسبت سے منسوب کرتے تھے۔

آپ اور مولانا احمد الدین
ناولی ساتھ ساتھ رہتے
حضرت محبوب الہی کی خدمت میں باریابی

تھے اور دونوں مولانا ظہیر الدین کے پاس پڑھتے تھے۔ جب تعطیل ہوتی آپ اور مولانا صدر الدین ناولی دریائے جمنا پر کپڑے دھونے غیاث پور آتے تھے۔ آپ سنا کرتے تھے کہ حضرت محبوب الہی بڑی شان کے بزرگ ہیں۔ اُن کی عظمت و کرامات کے قے سنتے تھے۔ آپ سنا کرتے تھے کہ شہر کے بڑے بڑے لوگ، علماء اور فضلاء روزگار حضرت محبوب الہی کی خدمت میں حاضر ہو کر زمیں بوس ہوتے ہیں اور قدم چومتے ہیں ایک دن آپ اور مولانا صدر الدین ناولی غیاث پور کپڑے دھونے آئے دنوں میں آپس میں مشورہ ہوا کہ حضرت محبوب الہی کی خدمت میں چل کر دیکھنا چاہئے کہ وہ علم کیسا رکھتے ہیں، لیکن جب ہم اُن کے پاس جائیں گے، زمیں بوس نہ ہوں گے اور نہ قدم چومیں گے، بس اسلامی شعار کے موافق سلام علیک کر کے بیٹھ جائیں گے۔ اس صلاح و مشورہ کے بعد آپ اور مولانا صدر الدین ناولی عجیب عجیب خیالات کے ساتھ حضرت محبوب الہی کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے۔ حضرت محبوب الہی کے رونے اور پرنگاہ پڑتے ہی آپ پر مولانا صدر الدین پر جمال مبارک کا ایسا رعب طاری ہوا اور ایسی ہیبت طبعی کہ آپ دونوں نے سر نیاز زمین پر رکھ دیا۔

حضرت محبوب الہی نے آپ دونوں سے بیٹھنے کو فرمایا۔ آپ دونوں باادب بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت محبوب الہی نے دریافت فرمایا۔ "شہر میں رہتے ہو؟" آپ دونوں نے جواب دیا۔ "جی شہر میں رہتے ہیں۔"

پھر محبوب الہی نے پوچھا :
 "کچھ پڑھتے ہو؟"

عرض کیا :

سیر الایضیہ ص ۲۴۴

”جی ہاں، مولانا ظہیر الدین سے یزودی کی بحث کرتے ہیں“

حضرت محبوب الہی نے ”یزودی“ کے اس حصہ میں جو انہوں نے پڑھ لیا تھا۔ ایک سوال اچھا کہ جو مولانا ظہیر الدین سے بھی حل نہ ہوا تھا۔ دونوں کو سخت تعجب ہوا، نہایت ادب اور عاجزی سے عرض کیا:

”مخدوم، یہی مشکل مسئلہ حل ہونے سے رہ گیا ہے، ہمارے استاد

مولانا ظہیر الدین فرماتے تھے کہ اس مسئلہ کی تحقیقات کریں گے“

یہ سن کر حضرت محبوب الہی مسکرائے اور اس مسئلہ پر اتنی روشنی ڈالی کہ ان دونوں کی تسلی و تشفی بخوبی ہو گئی۔ واپسی کے وقت حضرت محبوب الہی نے مولانا شمس الدین کو پانسجامہ اور مولانا صدر الدین کو دستار فوے کی سرفراز فرمایا لیہ

اس کے بعد جو آپ مولانا ظہیر الدین کے پاس پڑھنے گئے وہ پانسجامہ جو آپ کو حضرت محبوب الہی نے عطا فرمایا تھا، سر سے باندھ کر گئے۔

دوسری بار جو آپ حضرت محبوب الہی کی خدمت میں حاضر ہوئے، سعادتِ ارادت سے شرف ہوئے۔ بیعت

بیعت و خلافت

سے شرف ہونے کے بعد آپ حضرت محبوب الہی کی خدمت میں حاضر رہنے لگے۔ آپ کی خدمت، صدق، خلوص اور محبت نے اپنا کام کیا اور آخر کار جزوقہ خلافت پا کر ممتاز و سرفراز ہوئے۔

آپ کے خلافت نامہ میں جو پند و نصائح حضرت محبوب الہی کے درج ہیں، ان کا ترجمہ حسب ذیل ہے یہ

پند و نصائح

سیرالاولیاء ص ۲۲۳

سیرالاولیاء ص ۲۲۹ تا ۲۳۶

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

"تمام تعریف اُس خدا کے واسطے ہے جس کے دوستوں کی ہمت نے تمام عالم کو چھوڑ کر خاص اُسی کی طرف بلند پروازی کی اور اُن کے ولی مقصد ایک بختے والے کے ساتھ از روئے نیک نامی کے وابستہ ہیں۔ پس اُن دوستوں پر اُن کے محبوب کے گوشے صبح و شام جام ہائے محبت دُور کرتے ہیں۔ ایسا دُور کہ جس کو زوال نہیں ہے اور جب رات آتی ہے تو اُن کے دل آتش شوق سے مشتعل ہو جاتے ہیں اور اُن کی آنکھوں سے آنسوؤں کا مینہ برسنا شروع ہوتا ہے۔ یہ دوست پوشیدہ طور پر اپنے حبیب کی مناجات سے نفع اُٹھاتے ہیں اور اپنی فکر کے ساتھ سرا پر دہ عزت کا طواف کرتے ہیں۔ ان میں سے ہمیشہ ایک نہ ایک ایسا شخص موجود ہوتا ہے جس کے دل پر عرفان کی تروتازگی اور اطرافِ عالم میں اس کے آثار ظاہر اور انوار روشن ہوتے ہیں۔ زبان اُن کی ناطق سخن اور وہ مخلوق خدا کی طرف پلنے والا ہوتا ہے تاکہ مخلوق کو ظلمت سے روشنی کی طرف نکالے اور پرندہ گار بختے والے کا مقرب بنائے۔"

پھر رحمتِ کاملہ روشن شریعت اور تابانِ طریقت والے رسولِ رحمت پر نازل ہو جو مقامِ بیعت میں پروردگار کی خلافت کے ساتھ مخصوص ہیں اور ان کے خلفائے راشدین پر جو ہر ایک مقام میں کامیاب اور اُن کی آل و اصحاب پر جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ انا بعد بے شک خدائے واحدِ غلام کی طرف اُس کے بندوں کو بلانا مقاصدِ اسلامی کا بلند ترین مقصد اور ایمان کی محکم ترین دستگی

ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہوتا ہے۔ فرمایا، قسم ہے اس
 ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے اگر تم چاہو تو میں اور قسم
 کھا کر بیان کروں کہ خدا کو اپنے سب بندوں میں زیادہ محبوب وہ بندے ہیں جو
 خدا کو اس کے بندوں کا اور خدا کے بندوں کو خدا کا محبوب بناتے ہیں،
 از زمین میں چل پھر کر نصیحت اور نیک باتوں کا حکم کرتے ہیں اور خدا
 نے اپنے ان بندوں کی تعریف فرمائی ہے جو یہ دعا کرتے ہیں کہ اے
 پروردگار ہمارے، ہماری بیویوں اور اولاد میں سے ہماری آنکھوں کی
 ٹھنڈک ہم کو نصیب فرما اور ہم کو پرہیزگاروں کا رہنما بنا۔ اور نیز
 خداوند تعالیٰ نے اپنے بندوں پر حضرت سید المرسلین وقائد الغر المحجلین کی
 پیروی فرض کی ہے۔ فرمایا ہے کہ اے محمد کہہ دو کہ اے لوگو! یہ
 میرا راستہ ہے۔ میں خدا کی طرف تم کو بلا تا ہوں۔ بنیائی پر میں اور
 وہ لوگ جو میرے پیروں میں اور آں حضرت کی پیروی بغیر ان کے
 افعال کی نگہداشت اور ان کے اعمال و افعال کی اقتدار اور دل
 کے وجود میں کل ماسوا اللہ سے پاک کرنے اور معبود کی طرف منقطع
 ہو جانے کے حاصل نہیں ہوتی ہے پھر معلوم ہو کہ فرزند عزیز پر ہر گار
 عالم پسندیدہ خدا کی طرف متوجہ ہونے والا شمس الملتہ والدین محمد بن محمد
 خدائے واہل اپنے انوار اہل تعوی و یقین پر نازل فرماتے۔ جب ہماری
 طرف اس کا قصد درست ہوا اور ہم سے اس نے ارادت کا فرق پہننا
 اور ہماری محبت سے پورا حقتہ حاصل کیا تو میں نے ان کو اجازت دی
 کہ جب وہ تیری آفات کے اتباع اور طاعت و عبادت میں وقت
 کو مصروف کرنے اور نفس کو نفسانی خواہشوں اور خطرات سے محفوظ رکھنے
 پر قائم ہوں اور دنیا و دنیائے اس کے اسباب سے اعراض کریں۔

اور اپنی دنیا کی طرف میلان نہ کریں۔
اور بالکل خدا کی طرف منقطع ہو جائیں۔

اور ان کے دل میں انوارِ قدسی اور اسرارِ ملکوتی روشن ہوں اور تعریفیاتِ الہیہ
کی سمجھ کا دروازہ کھل جائے۔“

آپ کے شاگرد
آپ کے بہت شاگرد تھے۔ حضرت نعیر الدین چرخِ دہلوی آپ کے
مایہ ناز شاگرد ہیں۔ حضرت مخدوم نے آپ سے ”بزوری“ پڑھی
تھی۔ حضرت مخدوم آپ کا بہت ادب و احترام کرتے تھے یہ آپ نے اپنے استاد حضرت
مولانا کی تعریف میں یہ شعر کہا ہے:

سَأَلْتُ الْعِلْمَ مَنْ حَيَاكَ حَقًّا
فَقَالَ الْعِلْمُ شَمْسُ الدَّانِيَةِ

ترجمہ: میں نے علم سے دریافت کیا کہ تجھ کو حقیقی طور سے کس نے زندہ
کیا ہے۔ علم نے جواب دیا کہ شمس الدین سمی نے۔

آخری ایام
امر کے آخری حصے میں سلطان محمد بن تغلق نے آپ کو طلب کر کے
کشمیر جانے کا حکم دیا۔ آپ واپس دولت خانے پر تشریف لائے اور
کشمیر جانے کی تیاری میں معروف ہوئے۔ سلطان محمد بن تغلق نے آپ کو کشمیر جانے سے روکے
عاسطے کچھ لوگوں کو مقرر کر دیا تھا۔ آپ نے جو لوگ آپ کے دولت خانے پر موجود تھے، ان
کو مخاطب کر کے فرمایا:

”یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ میں نے اپنے پیر روشن ضمیر کو خواب میں دیکھا
ہے کہ مجھ کو طلب فرماتے ہیں۔ میں اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں
جاتا ہوں، وہ لوگ مجھے کہاں بھیجتے ہیں؟“

دوسرے دن آپ کے سینے پر ایک پھوڑا نکلا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ شکاف دیا گیا۔ آپ

سیر الہویہ ص ۲۵

کی بیماری کی خبر سلطان کو پہنچی۔ اس کو یقین نہ آیا۔ اس نے آپ کو دیکھ کر اپنا اطمینان کرنا چاہا۔ آپ پاکی میں بیٹھ کر سلطان محمد بن تغلق کے پاس تشریف کے گئے۔ وہاں سے آکر تکلیف بڑھ گئی۔

وفات شریف
 آپ ۷۴۷ھ میں جوار رحمت رب العالمین میں پیوست ہوئے۔ آپ کا مزار مبارک دہلی میں حضرت محبوب الہی کے آستانہ کے قریب واقع ہے۔

سیرت پاک
 آپ نے شادی نہیں کی۔ ساری عمر مجاہدات، ریاضات، اور عبادت میں مشغول رہے۔ آپ کی زندگی کا طور طریق سالکانِ راہِ طریقت کی طرح تھا۔ آپ کا ظاہر باطن پاک و صاف تھا۔ تعلق تزویج سے میرا تھے۔ تکلفات سے عاری تھے۔ دنیا دار سے ملنا آپ کو سخت ناگوار ہوتا تھا۔ آپ فتوحات کو دیکھتے تک نہ تھے۔ آپ کے خادم مستی فتوح سازی فتوحات کو لوگوں پر خرچ کر دیتے تھے۔ علماء میں آپ کا درجہ بہت اونچا تھا۔ آپ محقق روزگار تھے۔ علوم دینی سے متعلق آپ کی چند تصنیفات بھی ہیں۔ آپ شریعت اور طریقت میں ایک کامل فرد تھے۔ علمائے عصر اور مشائخ روزگار آپ کے منقاد اور معتقد تھے۔ جس کو صادق پاتے اس کو بیعت کرتے۔ جہاں تک ممکن ہوتا گریز کرتے۔

فوق سماع
 آپ کو سماع کا شوق تھا۔ وصال سے چند روز قبل حضرت محبوب الہی کی درگاہ میں عرس کے موقع پر محفل سماع میں آپ، حضرت نصیر الدین چیراغ، زہوی اور شیخ قطب الدین منیر اور بہت سے لوگ تھے۔ آپ کو اس غزل پر وجد طاری ہوا، آپ کھڑے ہو گئے اور اپنے سینے پر ہاتھ ملتے تھے یہ

غزل

غمے کز تو دارم بہ پیشِ کہ گویم
دوائے دلِ درد مند از کہ جویم
اگر کشتہ گردم بہ تیغِ جفایت
بہ پیشِ کس ایں ماجرا را مگویم

طبیبم تو باشی علاج از کہ خواہم
اسیر تو باشم خلاص از کہ جویم

ز سعدی چہ گویم چہ جویم چہ پویم
غمے کز تو دارم بہ پیشِ کہ گویم

کشف و کرامت
حضرت نصیر الدین محمود چراغِ دلبری کے مرید مولانا سلیمان
ایک مرتبہ جمعہ کی نماز کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر
ہوئے۔ آپ کپڑے اتار کر کتابت میں مشغول ہوئے۔ مولانا سلیمان کے دل میں یہ خیال گزرا
کہ جمعہ کی نماز کے بعد مشائخ کے واسطے مشغولی کا وقت ہے اور یہ کیسے بزرگ ہیں کہ کتابت میں
مہروف ہو گئے۔

مولانا سلیمان کے دل میں اس خیال کا آنا تھا کہ آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا:
”اے سلیمان۔ میں اس سے کبھی خالی نہیں ہوں“ لہ

باب ۱۰

حضرت مولانا علامہ الدین نسلی چشتی

حضرت مولانا علامہ الدین نسلی چشتی غلب ربانی ہیں۔ گنج اسرار ذوالجلال ہیں۔ گوہر

دریائے فضل و کمال ہیں۔

نام آپ کا نام علامہ الدین ہے۔

تعلیم و تربیت آپ علوم ظاہری کی تحصیل و تکمیل سے جلد ہی فارغ ہوئے،

فقہ، حدیث، منطق، تفسیر اور علم سلوک میں دستگاہ رکھتے

تھے۔ آپ نے قرآن مجید بھی حفظ کیا۔ آپ ایک اچھے قاری تھے۔

بیعت و خلافت آپ حضرت محبوب الہی کے حلقہ ارادت میں داخل ہوئے۔

حضرت محبوب الہی کا عطیہ ایک دلی حضرت محبوب الہی حسب معمول بالائی منزل میں تشریف فرما تھے۔ آپ

خانقاہ میں حاضر ہوئے اور جماعت خانے کے صحن میں نماز میں مشغول ہوئے۔ جن لوگوں نے نماز نہیں پڑھی تھی وہ آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے۔ آپ کی قرأت اور خوش الحانی مشہور تھی۔ آپ کی قرأت اور خوش الحانی سن کر حضرت محبوب الہی کو ایک عجیب حال اور ذوق و شوق پیدا ہوا۔ حضرت محبوب الہی نے اپنے خادم اقبال کو حکم دیا کہ ان مصلیٰ خاص اس شخص کو جا کر دو جو امامت کر رہا ہے۔ یہ خواجہ اقبال نیچے آگئے۔ جب آپ نے نماز ختم کی۔ خواجہ اقبال نے حضرت محبوب الہی کا علیہ آپ کو دیا۔ آپ نے بعد احترام و ادب وہ مصلیٰ لیا۔ اس کو بوسہ دیا۔ آنکھوں سے لگایا، سر پر رکھا اور اپنے بخت رسا پر فوراً ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ مولانا شمس الدین حسینی اور چند لوگ اودھ سے دہلی آئے۔ آپ اور مولانا

پیر و مرشد کا ادب

شمس الدین حسینی دہلی پہنچ کر حضرت محبوب الہی کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے اور آداب بجالائے۔ حضرت محبوب الہی نے آپ کو اور شمس الدین حسینی کو چوتھے روز ہی اودھ جانے کا حکم دیا۔ آپ دونوں اس قدر جلد واپسی کے حکم پر کبیدہ خاطر ہوئے۔ لیکن پیر مرشد کا فرمان تھا، کیسے ٹالتے۔ آپ دونوں اودھ روانہ ہو گئے۔ جب تہلتہ پہنچے، آپ کو تیز بخار ہو گیا۔ آپ تہلتہ میں رکنے پر مجبور ہوئے۔ حضرت محبوب الہی کی خدمت میں ایک علیحدہ روانہ کیا اور اس میں اپنی بیماری کی اطلاع کے علاوہ یہ بھی تحریر کیا کہ اب فرمان عالی کیا ہے۔ جیسا حکم ہو اس پر عمل کیا جائے۔

حضرت محبوب الہی کو جب آپ کی بیماری کی اطلاع ہوئی، آپ نے فریج کے لئے کچھ رقم اور سواری کے لئے اپنی خاص پاکی روانہ کی اور حکم دیا کہ واپس واپس آ جاؤ۔

سے لطائف اشرفی فی بیان طوائف مونی ۲۵۷

کہ سیر الایار ۱۷۱

یہ حکم پا کر آپ بہت خوش ہوئے۔ جب آپ سے پاکی میں بیٹھے کو کہا گیا آپ نے صاف
 اٹھا کر دیا، اور کہا کہ اتنی تاب، طاقت اور مجال کہاں کہ خاص پاکی میں بیٹھوں۔ عرض
 آپ ایک کرائے کے ٹیلے میں روانہ ہوئے یہ

روانہ ہوتے وقت آپ نے تاکید کی کہ پاکی آپ سے آگے چلے تاکہ آپ کی نظر اس
 پر پڑتی رہے اور اس کو دیکھتے رہنے کی برکت سے آپ کو صحت نصیب ہو سکے۔ آپ اسی
 طرح سے روانہ ہو کر دہلی پہنچے۔ جب حضرت محبوب الہی کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ
 نے بیماری کا حال عرض کیا۔ حضرت محبوب الہی نے اپنے خادم خواجہ اقبال کو حکم دیا کہ صبح
 کے نیچے ہونے کھانے میں سے کچھ کھانا لاکر ان کو دو۔ خواجہ اقبال نے کچوری، روغن اور
 آہری لاکر آپ کو دی۔ آپ نے حسب فرمان اپنے پیر و مرشد کے کچوری، روغن اور آہری
 کھائی۔ کھانے کے بعد آپ کا بخار اتر گیا۔ حضرت محبوب الہی کو حسب معلوم ہوا کہ آپ
 پاکی میں سوار نہیں ہوئے۔ آپ سے دریافت فرمایا کہ پاکی میں سوار کیوں نہ ہوئے۔ آپ نے
 بعد از ب عرض کیا کہ اگر حضرت مخدوم ارم و شفقت بندہ کے حال پر فرمائیں تو یہ عین بندہ
 نوازی ہے، لیکن بندہ کو بھی تو اپنے محل سے واقف رہنا چاہئے اور اس کو نہ بھولنا چاہئے۔
 جب کبھی بھی آپ کی نظر اس پاکی پر پڑتی، آپ نہایت تعظیم و تکریم کرتے اور
 اس پاکی سے فیوض و برکات حاصل کرتے۔

حضرت محبوب الہی
 کا یہ طریقہ تھا کہ جو

حضرت مولانا حسام الدین ملتانی سے ملاقات

کوئی اور سے آتا تھا، آپ اس کو قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی

۱۰ سیر الایام

۱۱ سیر الایام

کے مزار پر پانواں پر حاضر ہونے کا حکم دیتے اور بعد ازاں اپنی قدم بوسی کا شرف عطا فرماتے۔ آپ اور مولانا شمس الدین عینی ساتھ ساتھ از رو سے دہلی آئے۔ فرمانِ عالی کے مطابق آپ دونوں قطب الاقطاب حضرت قطب الدین بختیار کاکی رح کے مزار پر حاضر ہوئے۔ اس کے بعد شہر آکر کچھ لوگوں سے ملے۔ پھر آپ دونوں حضرت حسام الدین ملتانی کے درِ دولت پر گئے۔ مولانا حسام الدین گھر پر شریف نہیں رکھتے تھے۔ سخوڑی در میں مولانا حسام الدین آئے دکھائی دئے۔ ان کے ایک ہاتھ میں ایک کپڑا تھا، جس میں کچھ چٹری بندی ہوئی تھی اور دوسرے ہاتھ میں لکڑیاں تھیں۔ آپ دونوں نے چاہا کہ کچھ چٹری کی پوٹلی اور لکڑیاں ان کے ہاتھ سے لیں۔ لیکن مولانا حسام الدین نے اجازت نہیں دی۔ اور فرمایا کہ "بوجہ اٹھانا میرا حق ہے"۔ آپ دونوں ایک پرانے بوردے پر بیٹھ گئے۔ مولانا شمس الدین نے ایک پانسجامہ اور اپنے ایک چاندی کا سکہ پیش کیا۔ سب نے کچھ چٹری کھائی۔ رخصت ہوتے وقت مولانا حسام الدین نے چاندی کا سکہ جو آپ نے پیش کیا تھا، مولانا شمس الدین عینی کے سامنے رکھ دیا اور مولانا شمس الدین عینی کا لایا ہوا پانسجامہ آپ کے سامنے رکھ دیا، اور قبول نہ کرنے کی معذرت کی یہ

سیرت مبارک
 اگرچہ آپ مجاز مطلق تھے، لیکن آپ نے کسی کو مرید نہ کیا۔ آپ
 علماء کا سالباںس زیب تن فرماتے تھے، لیکن باطنی طور پر درویشانہ
 اوصاف سے متصف تھے۔ آپ تقریر بہت اچھی کرتے تھے۔ بڑے بڑے علماء آپ کی
 تقریر پر عاشق تھے۔ آپ ایک بہت بڑے عالم تھے اور ساتھ ہی ساتھ ایک صاحبِ دل
 اور صاحبِ کمال بزرگ بھی تھے۔ آپ کی آواز میں ایک عجب دل کشی تھی۔ قرآن مجید
 قرأت سے پڑھتے تھے اور اپنے پیر و مرشد کا انتہائی احترام نادب کرتے تھے۔ طبیعت

میں سادگی تھی۔ ترک و تجرید اعلیٰ درجہ کا تھا۔

زندگی کے آخری دنوں میں آپ نے سب کتابیں اور اوراد بلائے
آخری ایام طاق رکھ دئے تھے۔ آپ صرف ایک کتاب پڑھتے تھے، اور آپ کا
صرف ایک ورد تھا۔ آپ اپنے پیر و مرشد حضرت محبوب الہی کے ملفوظات بابرکات "افضل
الفوائد" پڑھتے تھے۔ ان سے روحانی انبساط حاصل کرتے تھے اور ان کو خود اپنے ہاتھ سے
لکھتے تھے۔ ان کو کسی وقت بھی نگاہ سے اوجھل نہ ہونے دیتے تھے بلکہ

کسی نے آپ سے دریافت کیا کہ آپ کے پاس ہر علم کی معتبر کتابیں ہیں۔ سچ کیا
وجہ ہے کہ صرف حضرت محبوب الہی کے ملفوظات طیبات پڑھتے ہیں۔ آپ نے جواب
دیا کہ "یہ صحیح ہے کہ دنیا سلوک کی کتابوں سے بھری ہوئی ہے، لیکن میرے لئے میرے
مخدوم کے رُوح افزا ملفوظات نجات کا فریوہ ہیں۔"

آپ نے ۶۷۲ ہجری میں وفات پائی۔ آپ کا مزار مقدس
حضرت محبوب الہی کے مزار پر انوار کے قریب چوتراہ یاراں

وقات شریف

میں مشہور ہے۔

• نے سیرالاولیاء

باب ۱۱

حضرت خواجہ محی الدین کاشانی

حضرت خواجہ محی الدین کاشانی عارف ربانی ہیں، نظام الحقیقت میں تعمیر الطریق
ہیں۔

خاندانی حالات

آپ کے بزرگان نے ایک عرصے تک مالک طبرستان
میں حکومت کی۔ اُن کا دار الخلافت کاشان تھا۔ آپ
کے دادا حضرت خواجہ قطب الدین کاشانی کو چنگیز خاں کی قتل و غارت گری نے ترک
سکونت پر مجبور کیا۔ آپ سلطان شمس الدین التمش کے عہد میں ہندوستان تشریف لائے۔
آپ ملتان میں رہتے تھے اور علیحدہ مدرسے میں پڑھایا کرتے تھے۔ آپ علم و دیانت میں
مشہور تھے۔ حضرت شیخ بہاء الدین زکریا ملتانی روز و رات جا کر نماز ادا کرتے تھے۔ ایک
روز قاضی ہمامب نے اُن سے دریافت کیا کہ وہ کیوں اپنے یہاں سے اس قدر دور آ کر
اور وقت سدی بن کر نماز ادا کرتے ہیں۔ حضرت شیخ بہاء الدین زکریا نے جواب دیا: ”اس
حدیث پر عمل کرتا ہوں: ”من صلی خلف عالم تقی کانتہ صلی خلف نبی مرسل“

(جس نے پرہیزگار علم کے پیچھے نماز ادا کی گویا اس نے نبی مرسل کے پیچھے نماز ادا کی) لے
 آپ ملتان سے دہلی تشریف لائے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ بادشاہ نے آپ
 کو طلب کیا۔ جب آپ تشریف لے گئے، بادشاہ حرم گاہ میں تھا اور سید نور الدین مبارک
 بادشاہ کے دائیں طرف اور قاضی فخر الامتہ بادشاہ کے دوسری طرف حرم گاہ سے باہر بیٹھے
 ہوئے تھے۔ قاضی صاحب جب باہر تشریف لائے، انہوں نے آپ سے دریافت کیا کہ
 آپ کہاں بیٹھے گا؟“ قاضی صاحب نے جواب دیا کہ:
 ”علوم کے سائے کے نیچے۔“

جب آپ بادشاہ کے قریب پہنچے اور سلام کیا۔ بادشاہ آپ کی تعظیم کے لئے
 کھڑا ہوا۔ آپ کا دست مبارک پکڑا۔ آپ کو حرم گاہ کے اندر لے گیا اور نہایت عزت
 سے اپنے پاس بٹھایا یا لگے

آپ کے سپرد بادشاہ نے قنار اودھ کا ممتاز عہدہ کیا اور آپ اس عہدہ جلیلہ
 پر فائز رہ کر اپنے فرائض بحسن و خوبی انجام دیتے رہے۔

آپ کے والد ماجد کا نام حضرت قاضی جلال الدین کاشانی ہے۔ اپنے
والد ماجد والد حضرت قاضی قطب الدین کاشانی کی زفات کے بعد ان کی جگہ قنار
 اودھ کے عہدے پر مامور ہوئے۔

سلسلہ نسب آپ کا سلسلہ نسب اس طرح ہے:

قاضی محی الدین کاشانی بن قاضی جلال الدین کاشانی بن قاضی قطب الدین

۱۹۱۱ء قوائد القوائد ۱۹۱۱ء -

۱۹۱۲ء قوائد القوائد ۱۹۱۲ء -

کاشانی از اولاد حضرت زید اسود بن سید ابراہیم بن سید محمد ساسی بن امام
قاسم اسی بن حضرت ابراہیم طباطبائی سلطان طبرستان بن حضرت
اسماعیل بن حضرت ابراہیم بن حضرت عمر بن حضرت حسن مثنیٰ بن حضرت
امام حسن علیہ السلام بن امام اولیاء حضرت مولانا علی کرم اللہ وجہہ -

آپ کا نام محی الدین ہے ، لیکن آپ مشہور قاضی محی الدین کاشانی کے
نام سے ہیں۔

نام

آپ کی ابتدائی تعلیم والد ماجد کی آغوشِ عاطفت میں ہوئی۔
علومِ ظاہری کی تحصیل و تکمیل سے آپ جلد ہی فارغ ہو گئے۔
اپنے والد کے انتقال کے بعد آپ نے فقہاء اور دہ کے ممتاز
عہدے کو عزت و زینت بخشی۔

تعلیم و تربیت

والد کا وصال

کچھ عرصے تقناہ کے عہدے پر مامور رہنے کے بعد آپ کا
دل دنیا سے اور دنیاوی معاملات سے یکسر سرد ہو گیا۔

بیعت و خلافت

آپ کو محبوبِ الہی حضرت نظام الدین اولیا کے حلقہٴ ارادت میں داخل ہونے کی سعادت
حاصل کرنے کی تمنا حضرت محبوبِ الہی کی خدمتِ بابرکت میں لے گئی۔ حضرت محبوبِ
الہی نے بیعت سے آپ کو شرف فرمایا اور پھر خرقہٴ خلافت سے آپ کو سرفراز فرمایا۔

حضرت محبوبِ الہی نے آپ کو اپنا
ایک کبیل عنایت فرمایا۔ آپ اس

حضرت محبوبِ الہی کا عطیہ

کبیل کو تعظیم و تکریم کے ساتھ اپنے گھرانے اور بہت احتیاط سے ایک صندوق میں
رکھ دیا۔ کچھ دنوں کے بعد آپ نے صندوق کھولا اور وہ کبیل نکالا۔ اس کو بوسہ دیا۔
آنکھوں سے لگایا۔ اس کبیل میں نہایت عمدہ خوشبو سی ہوئی تھی۔ آپ اسی طرح سے
صندوق کھولتے رہے اور کبیل کی زیارت کرتے رہے۔ کئی سال گزر گئے ، لیکن کبیل کی خوشبو

میں کوئی کمی نہ ہوتی۔ آپ کو سخت تعجب ہوا۔ آخر ایک دن کابل کو خوب اچھی طرح دھو دیا۔ جتنا آپ کابل کو دھوتے جاتے تھے، خوشبو تیز ہوتی جاتی تھی۔ یہ واقعہ آپ نے اپنے پیرو مرشد حضرت محبوب الہی کی خدمت میں عرض کیا۔ حضرت محبوب الہی نے چشم پر آب ہو کر فرمایا:
قاضی صاحب۔ یہ میری ہمت ہے جس کو محتبان باری تعالیٰ کی ذات میں رکھا گیا ہے۔

پند و نصائح حضرت محبوب الہی نے جو خلافت نامہ آپ کو عطا فرمایا تھا اس میں چند پند و نصائح تھے، وہ خلافت نامہ یہ ہے:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

می باید کہ تارک دنیا باشی۔ بسوئے دنیا و ارباب دنیا مائل نشوی۔
و دیہ قبول نہ کنی۔ وصلہ بادشاہاں نہ گیری۔ و اگر مسافراں بر
تو آئند و بر تو چیزے نباشد ایں حال را غنیمت و نعمت شمری از نعمت ہائے
الہی فان فعلت ما امرتک فظنی بک ان تفعل کذا ایضاً
فانت خلفتی و ان ام تفعل قال اللہ صلیتی علی المسلمین۔

ترجمہ: تم کو تارک دنیا رہنا چاہئے۔ دنیا و اہل دنیا کی طرف میل نہ کرنا اور جاگیر قبول نہ کرنا اور بادشاہوں کا صلہ قبول نہ کرنا اور اگر مسافر تمہارے پاس پہنچائیں اور تمہارے پاس کچھ نہ ہو تو ایسے موقعہ کو خدا کی نعمتوں میں سے نعمت اور غنیمت سمجھنا۔
اگر تم نے ایسا ہی کیا اور مجھ کو یقین ہے کہ تم ایسا ہی کرو گے تب تم میرے خلیفہ ہو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو خدا مسلمانوں پر خلیفہ ہے۔

۱۹۵۔ سیر الاولیاء

لطائف اشرفی فی بیان لطائف صوفی ۱۹۵۔

سعادۃ ارادت سے مشرف اور خرقہ خلافت سے سرفراز ہونے کے
ترک و تجرید بعد آپ دنیا اور اہل دنیا اور دنیاوی معاملات سے بالکل علیحدہ
 ہو گئے۔ ترک و تجرید آپ کا شعار ہو گیا۔ قنار کے عہد سے مستعفی ہو گئے اور سند قنار
 حضرت محبوب الہی کی خدمت میں لا کر چاک کر دی۔

سلطان کی پیشکش دنیاوی وسائل منقطع کرنے کے بعد آپ کو سخت
 دشواری پیش آئی۔ فقر و فاقہ کی نوبت پہنچی۔
 تنگی اور عسرت سے گزرنے لگی۔ آپ کے ایک معتقد نے بغیر آپ کے علم اور اجازت کے
 اس حال کی خبر سلطان علاء الدین خلجی کو کی۔ سلطان علاء الدین خلجی کو جب آپ کا یہ
 حال معلوم ہوا اس نے حکم دیا کہ قنار کا عہدہ جو قاضی صاحب کی میراث ہے، ان کو بہت
 انعام و قریات کے ساتھ تفویض کیا جائے۔ چنانچہ قنار اور وہ کے عہدے کی سند تیار
 کی گئی۔ سلطان علاء الدین خلجی نے بہت کوشش کی کہ وہ عہدہ آپ قبول فرمائیں۔

معروضہ آپ کو جب یہ معلوم ہوا، آپ اپنے پیر روشن ضمیر حضرت محبوب الہی کی
 خدمت میں حاضر ہوئے اور پورا واقعہ عرض کیا کہ سلطان علاء الدین خلجی
 بغیر ان کی درخواست اور خواہش کے ان کو قنار اور وہ کے عہدہ کی سند دینا چاہتا ہے۔
 جیسا حکم عالی ہو اس پر عمل کیا جائے۔

جواب

حضرت محبوب الہی نے اس بات کو پسند نہ فرمایا۔ ارشاد ہوا کہ:
 ”تمہارے دل میں اس کا خطرہ ضرور گزرا ہو گا جو یہ بات ظہور میں آئی ہے۔“

۱۔ سیرالاولیاء ص ۲۹۵۔

۲۔ سیرالاولیاء ص ۲۹۵۔

آپ کو رنج ہوا کہ ایسی بات حضرت محبوبِ الہی سے کیوں عرض کی، آپ نے اسی طرح سے فقر و فاقہ میں زندگی گزار دی۔ ترک و تجرید پر قائم رہے۔ فقر کو اپنے لئے باعثِ فخر اور سعادت سمجھا۔

پیر و مرشد کی شفقت

ایک بار آپ سخت بیمار ہوئے۔ بظاہر بچنے کی کوئی امید نہ تھی۔ حضرت محبوبِ الہی کو جب ان کی بیماری کا علم ہوا، بہ نفس نفیس عیادت کو تشریف لائے۔ آپ حضرت محبوبِ الہی کی تعظیم کے لئے اٹھئے۔ اسی وقت سے مرض میں کمی ہوئی۔ جب حضرت محبوبِ الہی واپس تشریف لے گئے آپ نے کہا کہ حضرت محبوبِ الہی بظاہر عیادت کو تشریف لائے تھے، مگر درپردہ مرض کو سلب کر گئے یہ

آپ کے مشہور شاگرد

حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کی صاحبزادی حضرت بی بی مستورہ کے صاحبزادے حضرت شیخ عزیز الدین بکم حضرت محبوبِ الہی آپ کے شاگرد ہوئے اور آپ سے تعلیم حاصل کی یہ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی نے آپ سے "بزودی" پڑھی یہ

وفات شریف آپ ۱۵ رجب الاول ۷۱۹ھ کو رحمتِ حق میں پیوست ہوئے۔

سیرت مبارک

آپ صاحبِ کرامت تھے۔ علم و علمِ عبادت و ریاضت، زہد و تقویٰ و ورع میں مشہور تھے۔ آپ استادِ شہر تھے یہ حضرت محبوبِ الہی کی بہت عزت کرتے تھے۔ آپ طریقہ اہل سلف پر کار بند تھے۔ طبیعت میں انتہائی سادگی تھی، تکلف سے بری تھے، ایثار پسند تھے۔ ارادت و خلافت سے شرف ہونے کے بعد آپ دنیاوی معاملات سے کنارہ کش ہو گئے تھے۔ باقی زندگی فقر و فاقہ، عسرت و تنگی، قناعت و ترکِ کل میں گزار دی۔

۱۵ غیر الجاس اردو ترجمہ ص ۱۰۹۔ ۱۶ سیرالاولیاء ص ۲۰۲۔ ۱۷ غیر الجاس ص ۱۰۹۔ ۱۸ سیرالاولیاء ص ۲۹۳

باب ۱۲

حضرت خواجہ کمال الدین

حضرت خواجہ کمال الدین، کمالی طریقت ہیں اور حمالی حقیقت ہیں۔

آپ حضرت نصیر الدین محمود چراغ دہلوی کی بہن کے لڑکے ہیں۔
آپ کا خاندان اودھ میں رہتا تھا۔ آپ کا نسب حضرت

خاندانی حالات

امام حسن تک پہنچتا ہے یہ

والد بزرگوار آپ کے والد کا نام عبدالرحمن ہے یہ

والدہ آپ کی والدہ اپنے وقت کی راجہ تھیں یہ

۱۔ انوار العارفین ص ۳۱۲۔

۲۔ انوار العارفین ص ۳۱۳۔

۳۔ سیر العارفین۔

بھائی زین الدین علی آپ کے بھائی ہیں۔ آپ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کے خلیفہ ہیں یہ

ولادت شریف آپ اودھ میں پیدا ہوئے۔

نام آپ کا نام کمال الدین ہے۔

آپ ایک بہت بڑے عالم تھے اور کثرتِ علم کی وجہ سے علامہ مشہور ہوئے۔

دہلی آکر آپ حضرت نظام الدین اولیاء کے مرید ہوئے اور خرقہ
میلت و خلافت

خلافت ملایا

خرقہ خلافت پہننے کے بعد آپ احمد آباد تشریف لے گئے۔
وہاں آپ رشد و ہدایت فرماتے تھے۔ بہت لوگ آپ

کے حلقہ ارادت میں داخل ہوئے۔

آپ نے ساج کے یہاں مدینہ منورہ میں روضہ
مطہرہ رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زیارت

سے مشرف ہوئے۔ بیت المقدس بھی حاضر ہوئے۔ خراسان ہوتے ہوئے واپس دہلی آئے۔
اس سفر میں بہت سے اہل اور سلاطین آپ سے ملے۔ انہوں نے آپ کی عزت کی۔

فتوحات فتوحات کا یہ عالم تھا کہ جب دہلی واپس آئے، آپ کے ساتھ تیس اونٹ
مال و اسباب سے بھرے ہوئے تھے جس میں تیس ہزار اشرفیاں اور

روپے بھی تھے یہ دیکھ کر حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی نے آپ سے فرمایا کہ:

۱۔ اخبار الاخیار۔ ۲۔ مجالس حسنیہ۔ ۳۔ انوار العارفین۔

۴۔ مجالس حسنیہ۔ ۵۔ تکریر الایار۔

”شیخ کمال الدین! اس قدر دنیا اپنے ساتھ کیوں لائے ہو؟“

آپ نے عرض کیا: ”

”مجھ کو راستے میں معلوم ہوا کہ سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء نے رحلت فرمائی اور اُن کی جگہ آپ سجادگی پر بیٹھے ہیں۔ پس اگر خالی ہاتھ جاؤں گا۔ میرے اپنے اور غیر کچھ کہیں گے اس وجہ سے میں اہل سب ظاہر لایا ہوں۔ اب میں اس کو علماء، صلحاء اور مساکین میں تقسیم کر دوں گا۔“

چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا۔

تاتار خاں نے آپ کو اتنی روپے روزانہ بطور نذر پیش کرنا چاہے اور اس امر کا پروانہ لکھ کر آپ کو پیش کیا۔ آپ وہ پروانہ لے کر حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اس باب میں کیا حکم ہے۔ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی نے فرمایا: ”جو تک بغیر طلب اور قصد کے تم کو وظیفہ ملا ہے، اس لئے یہ بمنزلہ فتوح ہے۔ تم اس کو قبول کرو۔“

اپنے پیر و مرشد کے فرمان کے مطابق آپ نے وظیفہ قبول فرمایا۔

شادی اور اولاد
آپ نے حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کے حکم سے شادی کی یہ آپ کے تین لڑکے ہوئے اور ایک لڑکی تھی آپ کے سب سے بڑے لڑکے شیخ نظام الدین کا جوانی میں انتقال ہوا۔ آپ کے دوسرے لڑکے شیخ نصیر الدین آپ کی حیات میں تحصیل علم سے فارغ ہو گئے تھے۔ آپ کے تیسرے لڑکے شیخ المشائخ سراج الدین ہیں۔ آپ کی لڑکی کی شادی شیخ برہان الدین سے ہوئی۔

لے تکمیر الاولیاء ص ۱۶-۱۷۔ کہ الواقارین۔ کہ مجالس حسنیہ۔

وفات شریف

آپ نے ۲۷ رذیٰ تعدہ ۷۶۷ھ میں رحلت فرمائی۔ آپ کا مزار دہلی میں حضرت نصیر الدین چراغ دہلی کے مزار کے قریب

مرتب خاص و عام ہے۔

سیرت پاک

آپ ایک باکرامت ہستی تھے۔ صاحبِ اجازت درویش تھے۔ آپ

ایک بلند پایہ عالم تھے، مقتدائے عصر تھے۔ حضرت نصیر الدین چراغ

دہوی آپ کی بہت عزت کرتے تھے۔ راتے میں جہاں کہیں بھی آپ مل جاتے حضرت

نصیر الدین چراغ دہلی رک کر کھڑے ہو جاتے۔ حضرت بندہ نواز سید محمد گیسو دراز نے آپ کے

بہت سے مناقب اپنی کتابوں میں تحریر فرمائے ہیں۔ حضرت مخدوم جہانیاں جہاں گشت نے

آپ سے مشارق الانوار کی شرح پڑھی ہے۔ مولانا احمد تھانیسری، مولانا عالم پانی پتی، تانا رخان

اور مولانا سنگریزہ ملتانی ان کے شاگردوں میں ہیں۔ یہ سلطان فیروز شاہ، امرا، وزراء، خواجگان

عوام غرض سب ہی آپ کے معتقد تھے۔ حضرت مخدوم جہانیاں جہاں گشت کو جو منشور خلافت

حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلی سے ملا، وہ آپ کے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا۔ یہ

۱۰ مجلس حسنیہ۔

۱۱ مجلس حسنیہ۔

۱۲ مکتبہ سیر الاولیاء ص ۱۷۱۔

لَا يَخَافُونَ يَوْمًا لَا تَأْتِيهِمْ

پ ۶ - مائدہ - ۸ ع

مَطْلَبُ: وہ نیک کام میں کسی ملامت کرنے والے کی
ملامت کی پرواہ نہیں کرتے۔

حِصَّةٌ سَوْمٌ

باب ۱۳

حضرت مخدوم سہار الدین سہروردی دہلوی

حضرت مخدوم سہار الدین سہروردی دہلوی شیخ انجمن توفیق ہیں، رکن روزگار میں۔
صاحب کسرا ہیں، تلمیح الاولیاء میں، سراج الالقیاء میں۔

آپ کا سلسلہ نسب مولہ واسطوں سے حضرت معصوب بن حضرت
خاندانی حالات زبیرؓ تک اس طرح پہنچتا ہے یہ

مخدوم سہار الدین بن مولانا شیخ فخر الدین بن شیخ جمال الدین بن اسماعیل
بن ابراہیم بن شیخ حسن بن شیخ کمال الدین بن شیخ حسن بن عیسیٰ بن
نوح بن محمد سلیمان بن داؤد بن یعقوب بن ایوب بن ہادی بن عیسیٰ
بن معصوب بن زبیرؓ۔

۱۹۱

۱۹۱

والد ماجد آپ کے والد ماجد کا نام شیخ فخر الدین ہے۔ جو سید صدر الدین محمد عرف ماجد
قتال کے مرید تھے یہ

سجھانی حضرت مولانا مخدوم شیخ اسحاق دہلوی آپ کے بڑے بھائی ہیں یہ
ولادت شریف آپ ۸۰۸ھ میں ملتان میں پیدا ہوئے یہ
نام نامی آپ کا نام سجاد الدین ہے۔

تعلیم و تربیت آپ نے میر سید شریف جرحانی کے مشہور شاگرد مولانا شام الدین
سے علوم ظاہری کی تحصیل و تکمیل کی اور فقہ، حدیث اور تفسیر

میں دستگاہ حاصل کی۔ آپ کا شمار صاحب کمال اور سرآمد فضلاء و بزرگوار میں ہونے لگا۔
علوم باطنی کی تحصیل آپ نے اپنے والد ماجد سے کی۔ بارہ برس کی عمر میں آپ کے والد بزرگوار آدمی
رات کے وقت اپنی خلوت خاص میں بلا کر آپ کو پند و نصائح کرتے تھے انہ اسرار الہی و
روز و نکات کی تعلیم و تلقین فرماتے تھے۔ آپ کے لئے نہایت خشوع و خضوع سے دعا
کرتے تھے یہ

”یا الہی اپنے کرم عظیم و لطف عظیم سے سجاد الدین کو سعادت ابدی و
دولت سرمدی عطا فرما“

بیعت و خلافت اگرچہ آپ کے والد ماجد آپ کے مرشد و پیر تھے، لیکن آپ نے
خرقہ خلافت و ارشاد حضرت شیخ کبیر الدین اسماعیل سے جو شیخ
کبیر کہلاتے تھے، حاصل کیا۔ آپ حضرت شیخ کبیر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیعت سے
مشرف ہونے کی درخواست کی اور عرض کیا کہ ان کے کمالات میں ایسی صورت میں کچھ کمی نہ آئے گی یہ

۱۰ الشاہیر ص ۲۹ - ۱۱ الشاہیر ص ۲۹

۱۲ الشاہیر ص ۲۹ - ۱۳ الشاہیر ص ۲۹

کم نہ گردن تابش خورشید اگر
 در بدخشاں لعل ساز و سنگ را
 مترجمہ : سورج کی روشنی میں کمی نہ ہوگی ، اگر بدخشاں میں پتھر کو لعل
 کرے۔

حضرت شیخ کبیر نے فرمایا کہ وہ اپنے بھائی حضرت شیخ فضل اللہ سے اُن کو خرقة
 دلائیں گے۔ آپ نے چند بار عرض کیا، لیکن وہی جواب ملا۔ آخر آپ نے ایک دن عرض کیا کہ:
 ” بنا ارادت و معاملہ پیری و مریدی ربط قلب سے متعلق ہے۔ میں اس رابطہ
 کو حضور کے ساتھ مستحکم اور مستقیم پاتا ہوں “

گر لطف کنی ورنہ کنی درنگزارم
 من در تو گر نصیبم و گر جائے تدارم

ترجمہ : اگر آپ مہربانی کریں یا نہ کریں در نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے
 تمہارا در پکڑ لیا ہے دوسری جگہ نہیں ہے (تمہیں رکھنا ہوں)
 یہ سن کر حضرت شیخ کبیر بہت خوش ہوئے۔ آپ کو نعل میں لیا۔ اپنے حجرہ خاص میں لے جا
 کر مریدی کا شرف بخشا اور ذکر تلقین فرمایا۔ بعد اوائے ودگاہ آپ کو خرقة خاص سے سرفراز
 فرمایا۔

خرقة خاص سے سرفراز ہونے کے بعد آپ کو خیال آیا کہ اب بہتر یہ معلوم ہوتا ہے
 کہ تعلیم ظاہری کو ترک کر کے تصفیہ باطن میں مشغول ہونا چاہئے۔ آپ کے پیرو مرشد
 آپ کے اس خیال سے آگاہ ہوئے۔ انہوں نے آپ سے فرمایا کہ:

لہ الشاہیر ۱۹
 لہ سیر العارفين

” بنا شرع و اساس دین علم سے قائم ہے اسے ترک نہ کرو۔ میں نے
 خداوند تعالیٰ سے چاہا ہے کہ اہل ظاہر و باطن دونوں تم سے فائدہ
 اٹھائیں اور جس طرح ہمارے پیرانِ طریقت نعمتِ صدری و دولت
 معنوی سے مستور ہوئے ہیں، مجھ کو اُمید ہے کہ تم بھی مثل اُن کے آراستہ
 پیر ستم ہو۔“

شجرہ طریقت
 آپ کا شجرہ طریقت حضرت شیخ شہاب الدین بہروردی
 تک اس طرح پہنچتا ہے :

” سار الدین مرید اپنے والد حضرت شیخ فخر الدین و حضرت شیخ کبیر
 مرید حضرت سید صدر الدین محمد عرف راجو قتال و مرید حضرت سید
 احمد کبیر و مرید حضرت شیخ رکن الدین ابوالفتح و مرید حضرت شیخ صدر الدین
 عارف و مرید حضرت شیخ بہار الدین زکریا و مرید حضرت شیخ شہاب الدین
 بہروردی۔“

ترک سکونت
 ملتان سے سکونت ترک کر کے آپ کچھ عرصہ استہور اور بیانہ میں
 رہے۔ پھر سلطان بہلول لودی کے زمانے میں رونق افسرود
 ہوئے اور وہیں سکونت اختیار کی۔

بادشاہوں کی باریابی
 سلطان بہلول لودی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔
 آپ نے اس کو نصیحت فرمائی یہ
 ” اے بادشاہ تیرے بڑھاپے میں سلطنت پائی ہے۔ خدا سے ڈرا اور
 کذب و معصیت سے بچا رہ۔ اس کا شکر بھیج۔ شکر نعمت کو بڑھا لے

لَبِنٌ شَكَرْتُمْ لَا ذِيْدًا تَكْمُ (شکر کرو گے تو اور دوں گا) اور معصیت سے کنارہ کش ہو۔ لَبِنٌ كَفَرْتُمْ اِنْ عَذَابِي لَشَدِيْدٌ (اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے) میں داخل نہ ہو جاوے۔“

آپ نے اپنا مسئلہ قاضی بادشاہ کو عنایت فرمایا۔ بادشاہ نے معطلے سر پر رکھا اور واپس ہوا۔

سلطان بہلول لودی کے انتقال کے بعد اس کا لڑکا نظام خاں جو سلطان سکندر لودی کے لقب سے مشہور ہے، دہلی سے روانگی سے قبل آپ کی خدمتِ بابرکت میں حاضر ہوا اور استدعا کی کہ ”میں میزانِ انصاف حضرت سے پڑھنا چاہتا ہوں۔“ اس نے سبق کے بہانے سے اَسْعَدَكَ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ کے معنی آپ سے پڑھے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ ”نیک سبقت کرے تجھ کو خدائے تعالیٰ دونوں جہان میں۔“ شہزادہ نظام خاں نے عرض کیا پھر فرمائیے۔ اس طرح تین مرتبہ تکرار کرائی پھر اس نے آپ کے ہاتھ چومے اور بعد عاجزی عرض کیا ”میری مراد حاصل ہو گئی۔ میں ہی چاہتا تھا کہ آپ کی زبان مبارک سے یہ کلمات نکلیں۔“ آپ کو اس کا حسنِ ادب بہت پسند آیا۔ آپ نے کچھ دیر مراقبہ کیا اور پھر زبانِ فیضِ ترجمان سے فرمایا بلکہ

”نظام! میں نے خدا سے چاہا کہ تو سکندرِ وقت ہو اور بہت بندگانِ خدا تجھ سے فائدہ اٹھائیں۔“ چنانچہ نظام خاں سلطان سکندر لودی کے لقب سے مشہور ہوا۔

آپ کے دواڑے کے تھے۔ ایک حضرت شیخ عبداللہ بیابانی اور دوسرے حضرت نصیر الدین جو آپ کے قائم مقام اور جانشین تھے۔

لہ المشاہیر ص ۱۱۱۔

آخری ایام آپ کے خاص مرید اور خلیفہ حضرت مولانا شیخ جمالی نے سفر بیت اللہ سے واپس آکر آپ کے بڑے صاحبزادے حضرت شیخ عبداللہ بیابانی سے ملنے کا اشتیاق ظاہر کیا اور ان کو آپ کی خدمت میں لانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ یہ سن کر آپ بہت خوش ہوئے۔ حضرت شیخ جمالی کو سینے سے لگایا اور ان کو طبوسِ خاص عطا فرمایا۔ ایک خط لکھ کر آپ کے حوالے کیا۔

سرنامہ پر یہ شعر تحریر فرمایا:۔

طاقتِ صبرِ مرانیت دریں بحرِ طویل

قدمِ زودینہ بر سر این سپہِ علیل

دوسرے دن حضرت شیخ جمالی کو بلا کر فرمایا:

واللہ اعلم میرے فرزند شیخ عبداللہ کا دیدار تم کو میسر ہو کہ نہ ہو۔ میں نہیں

چاہتا تھا کہ تم میرے پاس سے جدا ہو جاؤ۔ میرے جنازے کی نماز کے لئے

حاضر ہو۔“

وفات شریف اس کے ایک ہفتہ بعد، ۱ جمادی الاولیٰ ۹۰۱ھ کو آپ رحمتِ حق میں پیوست ہو گئے۔

مدفن وفات سے چند سال قبل آپ نے قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کالی کو خواب میں دیکھا کہ آپ حوضِ شمس کے کنارے کھڑے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ جگہ تمہاری ہے۔ چنانچہ آپ کا مزار پلوار مہرولی میں (پرانی دہلی) حوضِ شمس کے قریب مرجعِ خلافت ہے۔ آپ کا عرس ہر سال ہوتا ہے۔ ”قضا“ ”مہتابِ جنت“ اور ”عارفِ متقی“ آپ کی وفات کی تاریخیں ہیں۔

۱۰۰ المشاہیر ص ۳۳۵ خزینۃ الامم ص ۱۰۰

آپ کے خلفاء
آپ کے ممتاز خلفاء حسب ذیل ہیں:
حضرت نعیر الدین، مولانا شیخ جمالی، شیخ ادین۔

سیرت پاک
آپ جامع علوم شریعت و طریقت تھے۔ آپ کی سخاوت کا یہ حال
تھا کہ ہزاروں روپے آتے تھے، لیکن آپ فتوے کے روپوں میں سے
کچھ بھی نہ بچاتے تھے۔ سب رقم فقراء، غرباء، مساکین اور یتیموں پر خرچ کر دیتے تھے۔ اکثر قرص
لے کر آپ دوسروں کی ضروریات پوری کرتے تھے۔ آپ کی ذات والا صفات عموری و
معنوی خوبیوں سے متصف تھی حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ بے
شیخ سماء الدین ورع و تقویٰ اور علوم ربی و حقیقی کے جامع تھے۔ جذب
خواطر میں آپ کو تصرف کامل تھا، جس بیمار کو بے نگاہ نطف دیکھ لیتے، امر میں
روحانی سے سینہ اس کا پاک ہو جاتا اور جس طالب کی طرف مسکرا کر نظر
کرتے اس کا دامن اُتیب گُل ہائے مراد سے بھر جاتا۔

علمی ذوق
آپ نے لمعات شیخ الدین عراقی پر حواشی تحریر فرمائے ہیں ایک رسالہ
”مفتاح الاسرار“ آپ کی علمی یادگار ہے یہ

تعلیمات آپ فرماتے ہیں:

”تین شخص خداوند تعالیٰ کے انعام مستدام سے محروم رہیں گے۔ اول وہ
بوزھے جو معصیت میں ڈوبے ہوتے ہیں۔ دوسرے وہ جوان جو بے امید توبہ
گناہ نہیں چھوڑتے۔ تیسرے بادشاہ دروغ گو۔“

قول صادق مسورت کی ریزہ چینی سے مراد یہ ہے کہ درویشوں کے طریق حالی کا اختیار

لہ اخبار الاخبار۔ لہ الشاہیر ص ۶۲۔ لہ المشاہیر ص ۶۲۔

اور تسبیح کی توفیق نہ ہو تو ان کے افعال، افعال اور اعمال ہی کی متابعت کی جائے تاکہ درویشوں کی ظاہری صحت کا اثر کہ ورت باطنی کے رنگ کو دور کر دے۔

آپ آدھی رات کو اٹھ کر وضو کر کے نماز پڑھتے تھے۔ ایک پہر نوافل پڑھتے تھے۔ پھر صبح تک مراقبہ میں رہتے تھے۔ نماز فجر، نماز چاشت اور

ورد و وظائف

نماز اشراق ادا کرتے تھے۔ ظہر کی نماز سے فارغ ہوتے۔ عصر کی نماز کے بعد سے مراقبہ میں رہتے۔ مغرب کی اذان سن کر آنکھیں کھولتے۔ مغرب کی نماز اور نوافل آواہن ادا کرتے کھپے مراقبہ کرتے اور عشا کی نماز ادا کر کے دولت خانہ تشریف لے جاتے۔

حضرت شیخ جمالی بیت اللہ سے واپس ہو کر گجرات تک آئے ہوں گے کہ آپ نے فرمایا " الحمد للہ جمالی نے

کشف و کرامات

مراجعت کی۔ چند دن کے بعد ایک شخص ادھر سے آیا اور اس نے حضرت جمالی کی آمد کی خبر دی۔ حضرت جمالی بیان کرتے ہیں کہ سفر میں آپ کو بہت خطرات پیش آئے۔ بعض اوقات ایسا ہوا کہ زندگی سے بھی ناامید ہو گئے۔ ایسے موقعوں پر انہوں نے آپ کو اچھی طرح سے دیکھا کہ خوشی خوشی ان کو برگ پان دیتے ہیں اور بہت باندھتے ہیں اور اطمینان دلاتے ہیں۔ حضرت جمالی فرماتے ہیں کہ آپ کی اس دستگیری و اعانت سے وہ زحمت فی القور راحت و اطمینان میں تبدیل ہو گئی۔

وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ

(پہ ۱۳ - رعد - ۳ ع)

مطلب: ان لوگوں کے دلوں کو خدا کی یاد سے
تسلی ہوتی ہے۔

حصہ چہارم

باب ۱۳

حضرت خواجہ باقی باللہ

حضرت خواجہ باقی باللہ شمس حقیقت ہیں، شہبازِ طریقت ہیں اور جانِ شریعت ہیں۔ آپ رفیع المرتبت ہیں اور خیر المناقب ہیں۔

خانہ دانی حالات
نانا کی طرف سے آپ کا سلسلہ حضرت خواجہ احرار کے نانا حضرت شیخ عمر یافغانی تک پہنچتا ہے۔ آپ کی نانی خاندانِ سادات سے تعلق رکھتی تھیں یہ

والد ماجد
آپ کے والد کا نام قاضی عبدالسلام ہے یہ حضرت قاضی صاحب نے کابل میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ ان کا شمار اہل علم اور اربابِ کمال میں ہوتا تھا۔ آپ تصوف اور فقہ اور حدیث میں اپنی نظیر آپ تھے۔ مذہبی تقدس کے ساتھ ساتھ حضرت قاضی صاحب دنیاوی اعزاز اور دولت کے بھی مالک تھے۔

۱۳ حضرت القدر ۲۱۵۔ کہ انوارِ باریں ص ۳۶۶۔

ولادت شریف آپ کابل میں پیدا ہوئے۔ آپ کی تاریخ ولادت میں اختلاف ہے۔ بعض نے آپ کی تاریخ پیدائش ۱۹۱۷ء اور بعض نے ۱۹۱۸ء لکھی ہے۔

نام نامی آپ کا نام سید رضی الدین ہے۔ آپ خواجہ محمد باقی باللہ کے نام سے مشہور ہیں۔

تعلیم و تربیت آپ کے والد آپ کی تعلیم و تربیت سے غافل نہ تھے جب آپ پانچ سال کے ہوئے، آپ کو ایک مکتب میں داخل کر دیا۔ مکتب میں قرآن مجید ختم کیا۔ ابتدائی علوم سے فارغ ہو کر آپ مولانا مسعود جلوانی کی خدمت میں پہنچے جہاں آپ ان کے ساتھ کابل سے ماوراء النہر گئے۔ ابھی علوم رسمہ پورے ہونے میں کچھ دیر تھی کہ آپ نے تصوف کے راستے میں قدم رکھا۔ ماوراء النہر کی ایک علمی مجلس کے ایک فاضل رکن نے افسوس کیا کہ آپ نے اتنی جلدی علوم رسمہ کی تحصیل کو کیوں ترک کر دیا۔ جب آپ نے یہ سنا تو فرمایا کہ وہ مشکل سے مشکل کتاب پیش کریں۔ اگر ان کی تسلی اور تشفی نہ ہو تو ان کا افسوس حق بجانب ہوگا۔

تلاش حق آپ نے تحصیل علوم ظاہری کی بجائے علوم باطنی کے اکتساب میں کوشش کرنا شروع کی۔ آپ ماوراء النہر میں درویشوں، فقیروں اور اہل دل کی تلاش میں گھومنا کرتے تھے۔ اسی تلاش میں آپ بلخ، بدخشاں اور سمرقند تشریف لے گئے۔ لاہور بھی تشریف لائے۔ جن بزرگان کے روحانی فیوض و برکات سے آپ مستفید و مستفیض ہوئے، ان میں حضرت خواجہ عبید، حضرت امیر عبداللہ بلخی، حضرت شیخ سمرقندی، حضرت شیخ بابائی والی قلاں ذکر میں کیے۔

مجنوب سے ملاقات لاہور میں ایک مجنوب رہا کرتا تھا۔ آپ نے اس سے ملنے کی بہت کوشش کی، لیکن ناکام رہے۔

۱۔ حضرت اقدس مکتب - ۲۔ انوار العارفین ص ۳۶۶ - ۳۔ انوار العارفین ص ۳۶۷ -

آخر کار ایک دن اُس مجذوب نے آپ کو اپنے پاس بلا کر بہت سی دُعا میں اور بہت سی باطنی نعمتیں دیں۔

لاہور سے ماہوار النہر تشریف لے گئے۔ آپ نے حضرت خواجہ امکنگلی کو خواب میں دیکھا کہ فرماتے ہیں:

بیعت و خلافت

اے فرزند! ہم تمہارے منتظر ہیں۔ جلد آؤ اور ہمارے انتظار کی تسلیش کو دُور کرو۔“

آپ جلد ہی حضرت خواجہ امکنگلی کی خدمتِ بابرکت میں پہنچے۔ آپ نے اُن سے بیعت کی۔ حضرت خواجہ امکنگلی نے تین شبانہ روز اپنے پاس رکھا یہ تین دن آپ نے خلوت میں گزارے۔ ان تین دن میں آپ اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ امکنگلی کے احوال اور مقامات سے بخوبی واقف ہوئے اور ان کے فیوضِ باطنی اور دیگر خفیات سے بہرہ مند ہوئے۔ آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو خلافت سے مشرف فرمایا

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ حضرت خواجہ بہار الدین نقشبندی کی رُوح پر فتوح سے بھی فیض یاب ہوئے ہیں۔

اپنے پیر و مرشد کے حکم کے مطابق آپ ہندوستان تشریف لائے اور دوبارہ لاہور پہنچ کر ایک سال وہاں قیام فرمایا۔ کونٹہ ککر کے آپ دہلی میں رونق افروز ہوئے۔ دہلی میں آپ نے قلعہ فیروزی میں قیام فرمایا۔ آپ پانچوں وقت کی نماز مسجد فیروزی میں ادا کرتے تھے۔

ہندوستان میں قیام

آپ نے دو شادیاں کیں۔ آپ کے دو اولاد ہوئے۔ حضرت خواجہ محمد عیسا ایک بیوی سے ہیں اور حضرت خواجہ محمد عبداللہ

۱۰ انوار العارفین ص ۲۱۰

دوسری بیوی سے۔ حضرت خواجہ محمد عبدالشانی نے بڑے خواجہ محمد عبداللہ سے چار سال
چھینے ہیں بلکہ

یہ دونوں بھائی دو سال کے بھی نہ ہوئے تھے کہ والد ماجد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔
آپ نے ۲۵ جمادی الآخر سن ۱۱۱۷ھ میں رحلت فرمائی۔ وفات
کے وقت آپ کی عمر چالیس کی تھی۔ آپ کا مزار مبارک دہلی میں مریح
خاص و عام ہے۔

آپ کے خلفاء میں حضرت شیخ احمد سرہندی جو مجدد الف ثانی
کے خطاب سے مشہور ہیں۔ سب سے زیادہ عالم کمال اور
ممتاز تھے۔ آپ نے حضرت شیخ احمد سرہندی کو تاکید فرمائی تھی کہ ان کے دونوں لڑکوں کو کچھ
دن اپنی صحبت میں رکھیں۔ ان دونوں کو تعلیم و تلقین سے بہرہ مندریں بلکہ
آپ کے دیگر ممتاز خلفاء حسب ذیل ہیں:

شیخ تاج الدین سنہلی۔ خواجہ حسام الدین۔ شیخ الہداد۔

حضرت خواجہ باقی باللہ سلسلہ نقشبندیہ میں ایک نمایاں اور ممتاز
درجہ رکھتے ہیں۔ سلسلہ نقشبندیہ کی ہندوستان میں مقبولیت
کا راز حضرت خواجہ باقی باللہ کی پرکشش ذات و الامتعات میں مغموم ہے۔ آپ تواضع، خشوع،
خنوع، عجز و انکساری میں اپنی نظیر آپ تھے۔ آپ عزت اور گشتہ نشینی کو پسند فرماتے تھے۔
آپ زیادہ تر خاموش رہتے تھے۔ بہت کم بولتے تھے۔ درویشوں، عالموں، سادات
کی بے حد عزت کرتے تھے۔ شفقت، رحم اور غفور و کریم میں آپ لاثانی تھے۔ رفعت طبع
کا یہ حال تھا کہ کسی کی تکلیف نہیں دیکھ سکتے تھے۔ آپ نے تامل اور بردباری، زہد و استغناء

سے حضرت اقدس ص ۲۶۲۔ کہ زبدۃ المقامات۔

قیامتی، سادہ مزاجی اور استیلا کا ایک اعلیٰ نمونہ پیش کیا۔ آپ عبادات اور مراقبہ میں مشغول رہتے تھے۔ آپ تفریح میں اعلیٰ مرتبہ رکھتے تھے۔ آپ کاشتوکت وقار آپ کے چہرے سے نمایاں تھا۔ آپ کی عظمت اور علوم مرتبت کے سب معترف تھے۔

علمی ذوق آپ نے ایک رسالہ بھی تحریر فرمایا ہے یہ رسالہ آیت کریمہ **وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ** اور **أَيُّهَا تُولُوا فِئْتَهُ وَجْهَهُ اللَّهُ**

کی تفسیر ہے۔ آپ کے مکتوبات بھی آپ کے علمی ذوق کا آئینہ دار ہیں۔ آپ کو شعرو شاعری کا بھی ذوق تھا۔ آپ نے اپنے دونوں لڑکوں کی پیدائش پر قصیدے لکھے ہیں۔
آپ کی تعلیمات نقشبندیہ سلسلہ کی بنیاد چندان اصلاحات پر ہے کہ وہ جب ذیل ہیں:

- (۱) ہوش دردم (۲) نظر پر قدم (۳) سفر در وطن (۴) غلوت در انجمن (۵) یاد کرو (۶) بازگشت (۷) نگہداشت (۸) یادداشت

ان کے علاوہ تین اور اصطلاحیں ہیں جو حسب ذیل ہیں:

- (۱) وقوف زمانی (۲) وقوف قلبی (۳) وقوف عددی۔

آپ کی تعلیمات معارف و حقائق کا خزانہ ہیں۔

توکل آپ نے فرمایا کہ

توکل یہ نہیں ہے کہ اسباب کو چھوڑ کر بیٹھ جائیں۔ بلکہ توکل کا مطلب یہ ہے کہ اسباب مشروع کو اختیار کریں اور سبب کی طرف نظر نہ کریں۔

قطع علائق آپ نے فرمایا کہ

”قطع علائق سے مراد یہ ہے کہ دل دنیا اور آخرت کی تمام نعمتوں

۱۰ حضرت اقدس ص ۲۱۱۔ کہ قول جمیل فی بیان سوار اسبیل (اردو ترجمہ) ص ۲۱۱ کے حضرات اقدس ص ۲۱۱۔
-۲۳۶، ۲۳۵-

سے رہا ہو جائے اور تمام احوال اور مشاہدات سے یک سوئی
اور بے نیازی ہو جائے اور کشش و قلق و اہمی احدیت کی طرف ہو۔

اقوالِ زرین

زہد یہ ہے کہ آدمی رغبت کے کاموں سے باز آئے۔

قناعت فصول چیزوں سے نکل جانے اور بقدر حاجت پر اکتفا کرنے اور
کھانے پینے اور رہنے کی چیزوں میں اسراف سے پرہیز کو کہتے ہیں۔
صبر لذاتِ نفس سے نکل جانے اور مرغوب و محبوب اشیاء سے باز رہنے
کو کہتے ہیں۔

پیر، تین طرح کے ہوتے ہیں: ایک پیرِ خرقہ، دوسرے پیرِ تعلیم، تیسرے
پیرِ صحبت۔

جو لوگ خدا کے آگے گردن تسلیم و فرمانم کئے ہوتے ہیں وہ مصیبت و بلا کو بلا
کی صورت میں نہیں دیکھ سکتے۔

قوامِ مراقبہ بہت بڑی دولت ہے جو دلوں میں مقبولیت کا سبب ہوتی ہے۔

اوراد و وظائف

ذکر کے علاوہ آپ اثباتِ مجرد کی تلقین فرماتے تھے۔ یعنی فقط اللہ کا ذکر کیا جائے
بدونِ نفیِ اصناف کے کچھ کہ آپ ذکرِ قلبی کی تعلیم فرماتے۔ کچھ کو لا الہ الا اللہ اور کچھ
اے اللہ کا ذکر کرتے تھے۔

کشف و کرامات

وفات سے کچھ دن قبل آپ نے فرمایا کہ بعض خواجوں سے ایسا معلوم ہوا ہے کہ
نقش بندی سلسلے کا کوئی بڑا شخص عنقریب فوت ہونے والا ہے یہ

ایک روز آپ کے سائیس کا لڑکا آپ کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ اس
کے باپ کے پیٹ میں سخت درد ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس نے گھوڑے کا حق لیا
ہے۔ گھوڑے کا حق گھوڑے کو واپس کر دے گا، اچھا ہو جائے گا۔ اس لڑکے نے
اپنے باپ سے جا کر آپ کا فرمان سنا یا۔ سائیس نے کہا کہ واقعی گھوڑے کا حق غصب
کیا ہے۔ کچھ روغن اور دانہ گھوڑے کو دیا اور وہ اسی وقت اچھا ہو گیا یہ

آپ کے پڑوس میں ایک شخص رہتا تھا۔ اس پر ایک حاکم نے جبر و تشدد کیا اور
اس کو گھر سے نکال دینے کی کوشش کی۔ یہ خبر آپ کو پہنچی۔ آپ نے اس ظالم حاکم سے فرمایا
کہ محلے میں نقرار رہتے ہیں۔ ظالم کرنا جائز نہیں۔ وہ ظالم حاکم حکومت کے نئے میں اتنا
چور تھا کہ آپ کے کہنے کی کچھ پرواہ نہ کی۔ ایک بار اس نے اس کو نصیحت فرمائی۔ اس
پر کچھ اثر نہ ہوا۔ دو تین کے بعد وہ ظالم حاکم چوری کے الزام میں گرفتار ہوا اور بعد اپنے
رشتہ داروں اور گھر والوں کے قتل کیا گیا یہ

حیاتِ باقیہ ص ۱۲۱ - حضرات القدس ص ۱۵۸ - حضرات القدس ص ۱۵۳ - کہ حضرات القدس ص ۲۵۵

باب ۱۵

حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی

حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی عالم ربانی ہیں، مرتاض حقانی ہیں۔ آپ شیخ العصر تھے، علامۃ الدہر تھے۔

آپ بنجارا کے ایک معزز خاندان سے ہیں۔ آپ کے دادا آغا محمد خاندانی دولت اور عظمت کے ساتھ ساتھ روحانی اور علمی دولت

سے بھی سرفراز تھے۔ وسط ایشیا کے لئے تیرھویں صدی عیسوی ایک پُر آشوب دور تھا۔

اور غارت گری عام تھی۔ آپ کے دادا آغا محمد مغلوں کے جبر و استبداد سے پریشان ہو کر

بنجارا چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ سلطان علاء الدین خلجی کے زمانے میں ہندوستان آئے۔ شاہ

دربار میں رسائی ہوئی۔ سلطان علاء الدین خلجی نے آپ کو اور دیگر خاص لوگوں کو گجرات

کرنے کے لئے بھیجا۔ گجرات کی فتح کے بعد آپ نے وہیں بودو باس اختیار کی۔

آپ کے ایک بیٹے تھے۔ سوا بیٹوں کا انتقال ہو گیا۔ اس جانکاہ

نے آپ کو گجرات میں نہ رہنے دیا۔ آپ اپنے ایک بیٹے کو ساتھ لے کر واپس آئے۔ آپ

۱۷ رجب الثانی ۱۳۹۷ھ کو انتقال فرمایا۔

والد ماجد آپ کے والد ماجد کا نام مولانا سیف الدین ہے۔ آپ ایک اچھے شاعر اور ایک بڑے عالم ہونے کے علاوہ ایک صاحبِ دل بزرگ بھی تھے۔

ولادت آپ کی ولادت باسعادت محرم ۱۳۵۸ھ میں ہوئی۔ آپ کا نام عبدالحق ہے۔

تعلیم و تربیت آپ کے والد بزرگوار نے آپ کی تعلیم و تربیت پر کافی توجہ کی۔ آپ کی ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد کی آغوش میں ہوئی۔ آپ بہت ذہین تھے۔ چند ماہ میں قرآن مجید ختم کر لیا اور بہت کم مدت میں حفظ بھی کر لیا۔ آپ نے اٹھارہ سال کی عمر میں علومِ ظاہری کی تحصیل سے فراغت پائی۔

حج بیت اللہ آپ کوچ کا شوق ہوا۔ حج کے ارادے سے آپ دہلی سے روانہ ہوئے۔ آپ رمضان ۱۳۹۶ھ میں شیخ عبدالوہاب منقی کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کے فیوض و برکات سے بہرہ مند ہوئے۔ علمِ باطنی کی تعلیم آپ نے شیخ عبدالوہاب منقی سے حاصل کی۔ تصوف کی کتابیں ان سے پڑھیں اور ان کی نگرانی میں حرم شریف میں عبادت کی۔ آپ خاص خاص مقامات پر حاضر ہو کر دعا بھی کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں:

”یہ فقیر جب مکہ معظمہ میں تھا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت کردہ پر جسے بیتِ قدیم کہتے ہیں اور وہ مکہ شریف میں بیت اللہ کے بعد سب مقامات سے افضل ہے، حاضر ہوتا تھا اور

۱۷ رجب الثانی ۱۳۹۷ھ کو انتقال فرمایا۔

وہاں کھڑا ہو جاتا تھا اور فقیروں کی طرح چیختا تھا اور یہ کہتا تھا 'اے
 رسول اللہ! کچھ مرحمت کیجئے اور یا رسول اللہ! یہ فقیر آپ کا سائل
 اور آپ کے دروازے پر حاضر ہے۔ جو کچھ اس وقت سوجھتی تھی اور
 زبانِ گویائی دیتی تھی طلب کرتا تھا اور دامنِ اُمید بھر کر واپس
 آتا تھا۔

بیعت و خلافت

آپ کے والد بزرگوار آپ کے پہلے روزحانی مرشد و پیشوا ہیں۔
 اپنے والد ماجد کے حکم کے مطابق آپ حضرت سید موسیٰ
 گیلانی سے بیعت ہوئے اور ان کی خصوصی توجیہ سے مستفید ہوئے یہ جب مکہ معظمہ پہنچے
 وہاں حضرت شیخ عبدالوہاب منقی کے دستِ حق پرست پر بیعت کی۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت
 شیخ عبدالوہاب منقی نے آپ کو چشتیہ قادریہ شاذلیہ سلسلہ کی خلافت عطا فرمائی۔ اس طرح
 سے آپ چاروں سلسلوں یعنی چشتیہ، قادریہ، شاذلیہ اور نقشبندیہ سے وابستہ ہو گئے۔
بشارت آپ فرماتے ہیں کہ:

"مجھے خواب میں حضرت غوث الاعظم نے حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم
 کے اشارے پر مرید کیا تھا۔ بیعت ہونے کے بعد حضور سرورِ کائنات
 نے فارسی زبان میں مجھے بشارت دی، "بزرگ، خواہی شد" یعنی تو
 بزرگ ہو گا۔"

حضرت شیخ عبدالوہاب منقی کا اشارہ پا کر آپ دہلی تشریف لائے۔ دہلی
واپسی دہلی میں آپ نے ایک مدرسہ قائم کیا، جہاں مذہبی تعلیم دی جاتی تھی۔ آپ
 نے دہلی میں تمام عمر درس و تدریس، رشد و ہدایت اور تصنیف و تالیف میں گزاری۔

۱۰۰ صفحہ الاقطاب ۹۵۰ کے زبیر الاثر منتخب بیعت الاسرار۔

اولاد آپ کے صاحب زادے شیخ نوزالحق صاحب دل بزرگ تھے۔
 آپ ۱۲ ربیع الاول ۱۰۵۰ھ کو واصل بحق ہوئے۔
وفات شریف آپ کا مزار ہرولی میں (نزدیکی ڈہی) حوض شمس کے واسطے کنارے
 زیارت گاہ خاص و عام ہے۔

سیرت مبارک آپ ایک عالم باعمل تھے۔ صاحب حال اور صاحب نسبت
 بزرگ تھے۔ عبادت اور ریاضت میں بہت مشغول رہتے تھے۔
 ہندوستان میں آپ محدث کہلائے۔ آپ کو علم حدیث پر کافی عبور تھا اور آپ نے اس علم کو
 پھیلانے میں سعی بلیغ کی۔

علمی ذوق آپ کے علمی ذوق کا پتہ آپ کی تصانیف سے چلتا ہے۔ آپ کی تصانیف
 بہت ہیں۔ بعض نے آپ کی تصانیف کی تعداد سو سے زیادہ بتائی ہے۔
 آپ کی تصانیف مختلف موضوعات پر ہیں۔ آپ کی مشہور تصانیف حسب ذیل ہیں یہ
 اصول حدیث۔ مرجع البحرین۔ رسالہ در مسئلہ سماع۔ رسالہ در مسئلہ وحدت
 وجود۔ اخبار الاختیار فی اسرار الابرار۔ لطائف الحق۔ اسماء الرجال۔ علاج
 النبوة۔ جامع البرکات تکمیل الایمان۔

آپ کی تعلیمات (حدیث)

آپ فرماتے ہیں کہ:

”جمہور محدثین کی اصطلاح میں حدیث کا اطلاق رسول خدا صلعم کے
 قول و فعل و تقریر پر ہوتا ہے۔ جس حدیث کی سند رسول خدا تک پہنچی اس

لے فہرست تصانیف۔ لے اصول حدیث (ترجمہ) ص ۱۲۷۔

کو مرفوعاً کہتے ہیں، اور جس کی سند صحابی تک پہنچی، اس کو موقوف بولتے ہیں۔ جس حدیث کی سند تابعی تک پہنچی اس کو مقطوعاً بولتے ہیں۔ جو شخص سنت کے ساتھ مشغول ہے اور کو محدث اور جو تواریخ کے ساتھ مشغول ہے اس کو اخباری کہتے ہیں۔

حدیث کے اقسام

آپ فرماتے ہیں کہ:

”حدیث کے اقسام میں سے شاذ، منکر، معتل ہے۔“ اور حدیث کی اصل اقسام تین ہیں۔ صحیح، حسن، ضعیف۔

راوی

آپ فرماتے ہیں کہ:

”حدیث صحیح کا راوی اگر ایک شخص ہے تو وہ حدیث غریب ہے اور اگر دو راوی ہیں تو عزیز ہے اور اگر دو سے زیادہ راوی ہیں تو مشہور ہے اور اگر حدیث کے راوی کثرت میں اس حد کو پہنچ جاویں کہ عادت محال ہے ان کے اتفاق کرنے کو بھڑ پر تو ایسی حدیث کو متواتر کہتے ہیں۔“

چھ کتابیں

آپ فرماتے ہیں کہ:

”وہ چھ کتابیں جیسا سلام میں مقرر و مشہور ہیں، جن کو صحابہ سہتہ کہتے ہیں،“

۱۔ اصول حدیث منلا۔ ۲۔ اصول حدیث منلا۔ ۳۔ اصول حدیث منلا۔ ۴۔ اصول حدیث منلا۔ ۵۔ اصول حدیث منلا۔ ۶۔ اصول حدیث منلا۔ ۷۔ اصول حدیث منلا۔ ۸۔ اصول حدیث منلا۔ ۹۔ اصول حدیث منلا۔ ۱۰۔ اصول حدیث منلا۔

ان کے نام یہ ہیں: صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی
سنن ابوداؤد، نسائی، سنن ابن ماجہ اور بعض کے نزدیک ابن ماجہ
کی جگہ مؤطا امام مالک ہے۔“

سیدھا راستہ آپ فرماتے ہیں کہ پہلے ”سالک کو راہ سلامت اور
طالب کو سبیل استقامت یہ ہے کہ خوش فلسفیات کو
حرام جانے اور زیادتی دلائل کلامیہ سے پرہیز کرے اور دروازہ
قیل و قال اہل بحث و جنگ و جدال کا بند رکھے۔ عقائد
اہل سنت و جماعت میں یہی کافی ہے کہ دلائل اجمالیہ پر اکتفا کرے۔
اور اسی کے اتباع میں رہے اور عقل کو معاملات شرعیہ و احکام
کتاب و سنت میں معزول جانے اور منقول کو تابع معقول نہ کرے
اور تاویل و تشکیک سے باز رہے اور دائرہ اعتقاد و التقیاد سے
باہر نہ جاوے اور اپنی فہم قاصر و عقل ناقص پر اعتماد نہ کرے۔“

تطابق شریعت و طریقت آپ فرماتے ہیں کہ پہلے ”یہ گمان نہ
کریں کہ طریقہ تصوف کا مخالف مذہب

شریعت اور کتاب و سنت کے ہے۔ حاشا و کلاہر گزردوں فرزوں میں ضرر موناہر
ہنہیں اور نہ کسی قسم کی باہم مباہمت ہے۔ خاص و خلاصہ اس ملت کے صوفیہ
کرام ہیں کہ وہ ظاہر و باطناً چنے والے نیر سنت اور کھولنے والے
پردوں حقیقت کے ہیں ایسے سلوک طریقت میں عملاً، حالاً اور تحقیق
معنی میں تعین لگایا اہل علم میں یقیناً اور جاننے مگر نفس میں صریحاً
اور واقفیت و آگاہی و برع و تہذیب اخلاق میں یکتا ہیں۔ سوائے

۱۰ مرجع البحرین (ترجمہ) ص ۱۱۱ کہ مرجع البحرین ص ۱۱۱

اس کے تزکیہ ظاہر و تصفیہ باطن و تملیہ قلب و تزکیہ روح میں کوئی شخص ان سے سبقت نہیں لے گیا ہے اور جیسا کہ ان کو اعمال و احوال اور اخلاق و مقامات اور وجد و ذوق و نکات و اشارات بلکہ تمام کمالات نے ہاتھ دیا ہے ایسا کسی فرقہ کو نہیں دیا۔

آپ کے چند اقوال حسب ذیل ہیں:

اقوال

● خوش نصیبی اور کامیابی اور بلند انبالی اور نیک نیتی کی نشانی

بزرگوں کی ملاقات ہے یہ

● اکثر آدمی غیرت اور عزت کی وجہ سے پر بزرگاری اور نیک نیتی کے پرزے میں رہتے ہیں یہ

● فکر سے خالی بھٹیا اور قوتِ ذہنیہ سے کام نہ لینا کبھی کبھی بات ہے اور قوتِ نظری یعنی ذکاوت کے زائل ہونے کا سبب ہے یہ

● نعمت کی بے قدری موجب عتابِ باری ہے یہ

● ایک شے سے دھیان گمانا اور اس کو بخوبی حاصل کرنا اس کے ماسوا کے نائل کرنے کا سبب ہے یہ

● دل کی بیک سوئی وحدت میں ہے اور پریشانی اور فتنہ کثرت میں یہ

● سب سے زیادہ بری چیز ناقصوں کی صحبت ہے اور اس بارے میں ناقص

میرے نزدیک وہ شخص ہے جس کو کمال کا علم اور اپنے حال پر فوس نہیں ہے

● محبتِ دنیا و اعتقادِ عقل و اطاعتِ نفس کی موجب کفر و منکالت کا ہے یہ

۱۔ لطائف الحق (ترجمہ از نکات الحق) ۱۱۱ ۲۔ لطائف الحق ۱۱۲ ۳۔ لطائف الحق ۱۱۳ ۴۔ لطائف الحق ۱۱۴ ۵۔ لطائف الحق ۱۱۵ ۶۔ لطائف الحق ۱۱۶ ۷۔ لطائف الحق ۱۱۷ ۸۔ لطائف الحق ۱۱۸ ۹۔ لطائف الحق ۱۱۹ ۱۰۔ لطائف الحق ۱۲۰ ۱۱۔ لطائف الحق ۱۲۱ ۱۲۔ لطائف الحق ۱۲۲ ۱۳۔ لطائف الحق ۱۲۳ ۱۴۔ لطائف الحق ۱۲۴ ۱۵۔ لطائف الحق ۱۲۵ ۱۶۔ لطائف الحق ۱۲۶ ۱۷۔ لطائف الحق ۱۲۷ ۱۸۔ لطائف الحق ۱۲۸ ۱۹۔ لطائف الحق ۱۲۹ ۲۰۔ لطائف الحق ۱۳۰

آپ یہ درود شریف پڑھا کرتے تھے: **أوراد ووظائف**
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ دِكْرِ كُلِّ فِرْدَوْسٍ أَلْفَ مَرَّةٍ

ترجمہ: اے اللہ پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر روز کے
 شمار کے برابر ہزار ہزار دفعہ رحمت نازل کر۔

آپ فرماتے ہیں کہ علم، قدرت اور رحمت، اللہ پاک کی تین صفتیں
 ہیں۔ طالب مقصود کے لئے ضروری ہے کہ ان تینوں صفتوں کی طرف
 توجہ رکھے اور رحمت حاصل کرتا رہے، لیکن ان صفتوں کی طرف نظر

کرنے کے یہ معنی نہیں ہیں کہ اپنی کیفیت میں فتور پڑائے یہ

آپ فرماتے ہیں کہ بے

”اللہ کی رحمت اور اس کے ذکر کی طرف رخ کرے اور کہے لَا إِلَهَ إِلَّا
 اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُهُ اللَّهُ۔ اور کمال یک سوئی سے اس کلمہ کی تکرار
 کرے اور اس ذکر میں غرق ہو جائے۔ اس کے بعد صرف لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
 کا ذکر کرے اور اگر ہو سکے تو اپنے تئیں اس پر قائم کرے اور افسار
 دے۔ مجھ سے تو رسول اللہ کا جملہ چھوڑا نہیں جاتا اور حضور صلی اللہ علیہ
 وسلم کے ذکر کو میں ترک نہیں کر سکتا اور لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے حرف پر
 نہیں شہر سکتا، کیوں کہ حضور کا نور لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے نور میں اور حضور
 کی یاد اس کے جمال اور کمال کو زیادہ کرتی ہے۔“

۱۰ وظائف الحق ۱۱ ۱۲ نکات الحق ۱۳ ۱۴ نکات الحق ۱۵

باب ۱۶

حضرت شیخ کلیم اللہ شاہ جہان آبادی

حضرت شاہ کلیم اللہ شاہ جہان آبادی مقبول باگاہ ایزدی ہیں۔ آپ زبدۃ ارباب ریاضات و مجاہدات لاقتناہی ہیں اور عارف اسرار معارف الہی ہیں۔

خاندانی حالات آپ کے آباؤ اجداد مجند (ترکستان) کے رہنے والے تھے یہ

والد ماجد آپ کے والد کا نام شیخ نور اللہ ہے۔ آپ کو حاجی بھی بتایا جاتا ہے۔ بعض تذکرہ نویسوں نے آپ کو شیخ حاجی نور اللہ لکھا ہے یہ آپ شاہ جہان کے زمانے میں ایک کامیاب اور قابل انجینیئر تھے۔

نسب نامہ پدری آپ کا سلسلہ نسب پہلے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تک اس طرح پہنچتا ہے کہ شیخ نور اللہ بن شیخ احمد بن حامد صدیقی... یہ

۱۔ انوار العارفین ص ۲۲۹ ۲۔ انوار العارفین ص ۲۲۹ ۳۔ انوار العارفین ص ۲۲۹

ولادت شریف آپ شاہجہان آباد (دہلی) میں ۲۴ جمادی الثانی ۱۰۶۰ھ کو اس عالم میں تشریف لائے یہ آپ نے اپنی تاریخ پیدائش رقعات

کلیبی میں تحریر فرمائی ہے۔ لفظ "غنی" سے آپ کی تاریخ پیدائش نکلتی ہے۔

نام نامی آپ کا اسم گرامی شیخ کلیم اللہ ہے۔

تعلیم و تربیت حدیث، فقہ اور دیگر علوم ظاہری آپ نے شیخ ابوالرضا سے پڑھے۔ ان علوم کی تکمیل کے بعد شیخ ابوالفتح قادری سے علوم باطنی حاصل

کرنے میں کوشاں ہوئے اور کچھ عرصہ بعد علوم باطنی میں بھی درجہ کمال کو پہنچے۔ آپ کو حضرت شیخ برہان الدین المعروف بہ شیخ بہلول بن کبیر محمد بن علی الصدوق برہان پوری سے نسبت تلمیذ اور اجازت اعمال حاصل ہے لکھ

تلاش حق آپ ایک بزرگ سے ملے۔ اس وقت بھی آپ مشغولی سے خالی نہ تھے۔ ان بزرگ نے آپ کو صوتِ سرمدی کی تلقین کی۔ صوتِ سرمدی کو

صوتِ لائزالی بھی کہتے ہیں۔ اور جگ میں اس کو انہد کہتے ہیں۔ اس شغل سے آپ نے وہ آواز سنی جس کے متعلق ان بزرگ نے فرمایا تھا اور آپ کو وہ چیز حاصل ہوئی جو اب تک آپ کو حاصل نہیں ہوئی تھی۔ آپ نے ان بزرگ سے کہا کہ مقصود جس کی وہ تلاش میں ہیں کب حاصل ہوگا۔ جب اس شغل سے مقصد براری نہیں ہوئی آپ نے وہ شغل ترک کر دیا لکھ

مجنوب سے ملاقات ایام جوانی میں آپ ایک کھتری لڑکے پر شیفہ و فریفتہ ہوئے۔ اس لڑکے نے آپ کی طرف کچھ التفات

نہیں برتا لکھ شہر میں ایک مجنوب رہتے تھے۔ ان مجنوب کے متعلق یہ کہا جاتا تھا کہ جس

۱۔ انوار العارفین ص ۲۲۹ تک سیر الایام ص ۸۵-۸۶۔ ۲۔ تکذیر الایام ص ۸۵-۸۶۔ ۳۔ خلاصۃ الفوائد۔ تکذیر الایام ص ۸۹۔

کسی کی کوئی چیز منظور کر لیتے ہیں، اس کا کام ہو جاتا ہے اور جس کی چیز منظور نہیں کرتے اُس کا کام نہیں ہوتا۔ آپ کچھ ریوٹریاں لے کر ان مجذوب کے پاس گئے۔ ان مجذوب نے آپ کی ریوٹریاں قبول کیں۔ دوسرے روز جب آپ اس لڑکے کے پاس گئے، اس لڑکے نے خود آپ کو اپنے قریب بٹھایا اور بہت التفات برتا۔ اس التفات کا آپ پر دوسرا اثر ہوا۔ آپ کا دل اس لڑکے سے برگشتہ ہو گیا۔ آپ ان مجذوب کے پاس آنے جانے لگے۔ ایک دن ان مجذوب نے آپ کو اپنے قریب بلایا اور اپنا سر آپ کی زانو پر رکھ کر سو گئے۔ جب وہ مجذوب سو کر اٹھے آپ کے اندر جذب کی صورت پیدا ہوئی۔ آپ نے اپنے میں ایک نمایاں تبدیلی محسوس کی۔ جب پھر ان مجذوب کے پاس گئے، ان مجذوب نے آپ کا خطرہ محسوس کیا۔ اپنے قریب بٹھایا اور فرمایا: ”اگر تم اس قسم کی آگ چاہتے ہو تو یہ میرے پاس بہت ہے لیکن پانی حضرت شیخ یحییٰ مدنی کے پاس ہے۔ اُن کے پاس جاؤ۔“

آپ کو مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ حاضر ہونے کا شوق ہوا۔ چنانچہ آپ سالہ میں مکہ معظمہ پہنچے اور وہاں سے

زیارت کا شوق

مدینہ منورہ روانہ ہوئے۔

آپ قافلہ کے ہمراہ تھے۔ ایک نخلستان میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت شیخ یحییٰ مدنی نے ایک شخص کو حکم دیا کہ

بیعت و خلافت

شہر کے باہر قافلے کے ساتھ ایک شخص کلیم اللہ نام کا ہے۔ اس کو بلا لاؤ۔ وہ شخص وہاں گیا اور آواز دی، لیکن کوئی نہیں بولا۔ آپ نے آواز سنی، لیکن خیال کیا کہ وہ کسی اور شخص کو پکارتا ہے، اس لئے آپ خاموش رہے۔ اس شخص نے واپس آ کر حضرت شیخ

لے تکملہ سیر الابرار ص ۷۹

بھی مدنی رح سے عرض کیا کہ وہاں اس نام کا کوئی شخص نہیں معلوم ہوتا۔ آواز دی لیکن کوئی نہیں بولا۔ حضرت شیخ یحییٰ نے اس شخص سے فرمایا کہ پھر جا کر کلیم اللہ جہاں آبادی کے نام سے آواز دو۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا۔ جب آپ نے اس کی آواز سنی۔ آپ کو یقین ہوا کہ وہ آپ ہی کو پکارتا ہے۔ آپ نے اس کو جواب دیا اور اس کے ساتھ چل کر حضرت شیخ یحییٰ مدنی رح کی خدمتِ بابرکت میں حاضر ہوئے۔ یہ آپ نے حسب ذیل رباعی پڑھی:

اے کہ تو از نام تومی بار و عشق روز نامہ و پیام تومی بار و عشق
عاشق شود آنکس کہ بکویت گذرد گوزد و بام تومی بار و عشق

حضرت شیخ یحییٰ مدنی رح یہ رباعی سن کر بہت خوش ہوئے۔ آپ نے بیعت ہونے کے لئے عرض کیا۔ حضرت شیخ یحییٰ مدنی رح نے آپ کی درخواست منظور فرمائی۔ آپ کو بیعت سے مشرف فرمایا اور فرقہ خلافت آپ کو مرحمت فرمایا۔ کچھ عرصے تک آپ اپنے پیرو مشد کی خدمت میں حاضر رہے اور روحانیت کے اعلیٰ مقام طے کرتے رہے۔

اپنے پیرو مشد کے حکم کے مطابق آپ ہندوستان واپس تشریف لائے آپ **واپسی** نے دہلی آکر جامع مسجد اور لال قلو کے درمیان رہنا پسند فرمایا۔ دہلی میں آپ نے درس و تدریس اور مشد و ہدایت میں ساری عمر صرف کی۔ ہزاروں لوگ آپ سے مستفید ہوئے۔

آپ کا ایک مکان تھا۔ اس کا ڈھاتی روپے ماہوار کرایہ آتا تھا۔ **ذریعہ معاش** آپ خود ایک کرائے کے مکان میں رہتے تھے۔ آٹھ آنے یعنی پچاس پیسے اس مکان کا کرایہ دیتے تھے اور باقی دو روپے میں اپنا اور اپنے وابستگان

کا خرچہ چلاتے تھے یہ

وفات شریف آپ نے بعمر ۸۱ سال، ۱۶۹۰ء - ۲۳ ربیع الاول ۱۱۱۱ھ کو رحلت فرمائی۔ آپ کا مزار پرنالوار دہلی میں جامع مسجد اور لال قلو کے درمیان واقع ہے۔ آپ کا عرس مبارک ہر سال بڑی شان و شوکت سے زیر اہتمام نقیب الاولیاء صاحبزادہ محمد مستحسن قاروی متولی و سجادہ نشین منعقد ہوتا ہے اور تین دن تک عرس کی محفلیں بڑے بزرگ و اہل شام سے جاری رہتی ہیں۔

اولاد آپ کے صاحبزادے حضرت محمد غوث صاحب دل تھے۔ آپ حضرت مولانا فخر الدین فخر جہاں کے مرید اور خلیفہ تھے یہ

آپ کے خلفاء آپ کے خاص خاص خلفاء حسب ذیل ہیں:

حضرت مولانا نظام الدین اورنگ آبادی، حضرت محمد ہاشم،

مولانا شاہ ضیاء الدین صاحب، مولانا شاہ جمال صاحب۔ خواجہ یوسف۔

سیرت پاک آپ فانی فی الشریعین۔ صاحب تجرید اور توحید ہیں۔ آپ کا شمار اکابر اولیاء میں ہے۔ آپ بہت بڑے عالم تھے۔ آپ قلب زمانہ تھے۔

آپ مجاہدات اور ریاضات میں بے مثل تھے۔ آپ سنت رسول کے سخت پابند تھے۔ نفل بہت پڑھتے تھے۔ رات کو جاگتے تھے اور عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ آپ جب تقریر فرماتے فصاحت اور بلاغت کے وہ جوہر دکھلاتے کہ مستننے والے بے حد متاثر ہوتے۔ آپ کی طبیعت میں صفائی، نفاست اور پاکیزگی بدرجہ اتم موجود تھی۔ روزانہ صبح کو غسل کرتے تھے۔ آپ کا لباس نہایت صاف و شفاف ہوتا تھا۔ آپ کو سماع کا بے حد شوق تھا۔ تلاوت قرآن پاک آپ کا خاص مشغلہ تھا۔ آپ کو کل اور قناعت میں یگانہ روزگار تھے۔

۱۹۔ تکریم سیر الاولیاء ص ۸۵۔ کہ مناقب فخریہ ص ۱۶۔

قرن سیر بادشاہ کو آپ سے کافی عقیدت تھی۔ اس نے بارہا کوشش کی کہ آپ کچھ قبول فرمائیں
لیکن آپ نے جاگیر، مکان یا نذرانہ قبول نہیں فرمایا۔

علمی ذوق آپ کے خطوط تصوف اور معرفت کا خزانہ ہیں۔ یہ خط مکتوباتِ کلیمی
کے نام سے شائع ہو گئے ہیں۔

آپ کی مشہور تصانیف حسب ذیل ہیں:

سوار اسبیل، تسنیم، عشرہ کاملہ، قرآن القرآن۔ مرقع شریف، کیشکول۔

آپ نے اپنے خطبات، مکتوبات اور تصانیف سے لوگوں تک پیغام
تعلیمات حق پہنچایا۔

آپ نے اپنے خلیفہ حضرت شیخ نظام الدین کو تحریر فرمایا کہ
ازدہام خلق موجب شکر الہی ہے۔ جتنا ازدہام خلق زیادہ
ہو، اتنا ہی خداوند تعالیٰ کا شکر زیادہ کرنا چاہئے۔ رجوع
خلائق محض خداوند تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ اس سے تنگ نہ
ہونا چاہئے۔ کیوں کہ یہ دولت ہر ایک کو حاصل نہیں ہے۔

رجوع حق

آپ نے فرمایا کہ: ”جو کچھ فتوحات آئیں ان کو فقرا میں خرچ کر دینا چاہئے۔

اور جس دن نہ آئیں اس دن کو غنیمت جانا چاہئے کیونکہ فقر و قاہ میں عظیم تاثیر ہے۔“

آپ فرماتے ہیں کہ: ”وصل عمارت ہے جملہ اشیاء سے ترک تعلق کرنا اور کسی
چیز کی طرف التفات نہ کرنا۔ بے رنگی محض میں گم اور ہلاک ہو جانے سے مراد

وصل

ہے۔ مقدمہ ابتلا اس حال کی بے خودی جملہ حواس سے ہے۔ یہ حالت مثل

موت کے ہوتی ہے۔ فرق صرف اس قدر ہے کہ موت میں حضور نہیں ہوتا اور

اس میں حضور ہے۔“

نے تکریر الاولیاء ص ۸۵۔ تکریر الاولیاء ص ۸۱۔ مکتوباتِ کلیمی۔ تکریر کیشکول ص ۲۲۱

ذکر و فکر آپ نے فرمایا کہ بچہ

• ذکر و فکر کو حاصل کرنے میں اپنی ساری ہمت اور تمام اوقات صرف
کر دے اور ایک ساعت اور ایک لمحہ ایسی چیز کی طرف مشغول نہ ہو
نہ ہو جو تیرے لئے ذکر و فکر کے حاصل کرنے میں حائل اندازہ ہو۔

آپ کے بعض اقوال ذیل میں درج کئے جاتے ہیں:

اقوالِ زریں

• معرفت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ظہری اور دوسری حالی۔

• توحید کے چار مرتبے ہیں۔ ایک توحیدِ ایمانی۔ دوسری توحیدِ علمی۔ تیسری توحیدِ
حالی۔ چوتھی توحیدِ الہی۔

• محبت ہی ایک ایسی چیز ہے جس پر دنیا میں ایمان و عمل کی صحت و تقم کا دار و مدار اور آخرت
میں مجازات کا حصہ ہے۔

• اس چیز کا گم کرنا فقر ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ڈھونڈی جاتی ہے۔

• اپنے تمام امور کو نسیان کے ہاتھ میں سونپ دینا توکل ہے۔

• روزہ تمام عبادتوں سے نفس اور بشریت کی عبادت ہے بلحاظ انفرادیت۔

• ذیل میں آپ کے بتائے ہوئے چند اوراد و وظائف پیش کئے جاتے

اوراد و وظائف ہیں:

حضرت شیخ کلیم اللہ شاہ جہان آبادی

فرماتے ہیں کہ نفلوں کے بعد تہنہ

عاجت پوری ہونے کے واسطے

گرتے میں بیٹھنا چاہئے اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر سو بار یا زت یا رب کہے۔ جو خدا سے

مانگے گا، پائے گا۔ اگر ہزار بار کہے تو کام یابی میں کوئی شک نہیں ہے۔

(۲) آپ فرماتے ہیں کہ عاجت روانی کے واسطے تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا بہت

مفید ہے، لیکن سو بار سے کم نہ کہنا چاہئے بلکہ

۱۰ عشرہ کاملہ ۱۹۔ ۱۰۰ مرتبہ شریف ۱۹۔ ۱۰۰ مرتبہ شریف ۱۹۔

دشمن کو مغلوب کرنے کے واسطے آپ فرماتے ہیں کہ جب دشمن کے سامنے جائے یہ دعا پڑھے: **يَا سُبُوْحُ يَا قُدُّوْسُ يَا غَفُوْرُ**۔

آپ فرماتے ہیں کہ جو کوئی یہ دعا پڑھے گا مقصد میں کامیاب ہوگا: **يَا سُبُوْحُ يَا عَلِيْمُ يَا عَزِيْزُ يَا كَرِيْمُ يَا مُجِيْبُ دَعْوَاتِكُ يَا كَرِيْمُ** تو کارکنِ نسیبِ راسلیم بَعَثَ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔

آپ فرماتے ہیں کہ روزی کثادہ ہونے کے واسطے ہر روز سو بار یہ پڑھے یہ

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ

آپ سے بہت سی کرامتیں ظاہر ہوئیں۔ آپ کی چند کرامتیں حسب ذیل ہیں:

● جب آپ مدینہ منورہ حاضر ہوئے ایک جگہ جو شہر سے کچھ دور تھی، قیام فرمایا۔ یہاں ایک آپ رباط عامر سے باہر تشریف لائے اور لوگوں سے بھی جو وہاں موجود تھے باہر آنے کو فرمایا۔ آپ کے باہر تشریف لانے ہی رباط کی چھت گر گئی۔ سب کی جان بچ گئی۔

● آپ کے ایک مرید کے امرد کے باغ دو پیر خشک ہو گئے۔ اس نے آپ سے عرض کیا۔ آپ نے اپنے وضو کا پانی اس کو دیا اور فرمایا کہ وہ پانی سوکھے ہوئے دختوں کی جڑوں میں ڈالنا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ سوکھے ہوئے پیر سرسبز و شاداب ہو گئے۔

● ایک سال دہلی میں بارش ہوئی۔ چند علماء آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر طالب دعا ہوئے۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ "اے رب! اپنے بندوں پر رحم فرما" یہ دعا ختم ہوتے ہی خوب بارش شروع ہوئی۔

۱۵ مرقع شریف ص ۱۹۔ ۱۶ مرقع شریف ص ۲۱۔ ۱۷ مرقع شریف ص ۱۵۔

باب ۱۰

مَحَبَّتِ النَّبِيِّ

حضرت مولانا محمد فخر الدین فخر جہاں

محببت انبی حضرت مولانا محمد فخر الدین فخر جہاں فخر الاولین والا آخرین ہیں۔ آپ قلعہ زمانہ ہیں، فرزدیگانہ ہیں، شہسوار عرصہ ولایت ہیں، صفد نشین محل کرامت ہیں۔ بواسطہ شیخ شہاب الدین مہروردی آپ کی نسبت نبی امیر المؤمنین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تک پہنچتی ہے۔ حضرت مولانا فخر جہاں نے سلسلہ حدیث میں اپنے کو صدیقی لکھا ہے۔

والد بزرگوار آپ کے والد بزرگوار کا نام نامی اسم گرامی حضرت نظام الدین ہے۔ آپ کے خاندان کے بزرگ باہر سے تشریف لا کر قصبہ ٹکراؤں (دکا کوری) اودھ میں سکونت پذیر ہوئے تھے۔ آپ کے والد حضرت نظام الدین دہلی آ کر حضرت شیخ کلیم اللہ شاہ جہاں آبادی سے بیعت ہوئے اور خرقہ خلافت سے

۱۰ تکذیب الاولیاء ص ۹۰

مشرف ہوئے۔ اپنے پیرومرشد کے فرمان کے مطابق آپ دکن تشریف لے گئے اور اورنگ آباد میں سکونت اختیار کر کے وہیں رشد و ہدایت فرمانے لگے۔

والدہ ماجدہ آپ کی والدہ مکرمہ حضرت سیدہ محمد گیسو دراز کے خاندان سے تھیں یہ آپ کے چار بھائی تھے یکہ حضرت محمد اسماعیل آپ کے بڑے بھائی تھے اور تین سوتیلے بھائی تھے (۱) غلام معین الدین (۲) غلام بہاؤ الدین (۳) غلام کلیم اللہ۔ یہ تینوں بھائی آپ سے بیعت تھے یکہ بہن آپ کی بہن بھی آپ سے بیعت تھیں۔

ولادت باسعادت آپ ۱۱۳۶ھ میں اورنگ آباد میں جلوہ گر ہوئے یکہ

نام نامی آپ کے والد ماجد نے آپ کی ولادت باسعادت کی خبر اپنے پیرومرشد حضرت شیخ کلیم اللہ شاہ بھہاں آبادی کو کی۔ حضرت شیخ کلیم اللہ شاہ بھہاں آبادی بہت خوش ہوئے اور آپ نے اپنا طبقہ خاص آپ کے واسطے بھیجا۔ آپ نے آپ کا نام مولانا محمد نحر الدین رکھا اور فرمایا کہ ”یہ میرا فرزند ہے“ ۵

آپ کے متعلق پیشین گوئی حضرت شیخ کلیم اللہ شاہ بھہاں آبادی نے آپ کے متعلق فرمایا:

”یہ فرزند شہر شاہ بھہاں آباد کو اپنے نور ہدایت سے منور و روشن کرے گا“

لقب آپ کا لقب محبت النبی ہے۔

آپ کے محبت النبی کے لقب سے ممتاز ہونے کی یہ وجہ بتائی جاتی ہے کہ جب آپ خواجه غریب نواز کے دربار میں امیر شریف حاضر ہوئے، اس وقت ایک صاحب دل بزرگ

۵ خلافت الفوائد ۲۵ مناقب فخریہ ۲۵ تکریم سیر الاولیاء مناقب فخریہ ۲۵ مناقب فخریہ ۲۵۔
۵ تکریم سیر الاولیاء ص ۱۰۵۔

اپنے کسی کام کے واسطے دربارِ غریب نواز میں حاضر تھے۔ ان بزرگ کو خواجہ غریب نواز نے بشارت دی کہ ان کو پہچان لو۔ مطلب برائی ان سے ہوگی۔ ان کا نام ”محبِ النبی“ ہے۔ ان بزرگ نے آپ کو تلاش کیا اور خدمت میں حاضر ہو کر سارا قصہ بیان کیا۔ اس روز سے آپ اس لقب سے مشہور ہوئے۔

دوسری وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ عرس کے موقع پر حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کے مزارِ پرنوار پر حاضر تھے۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی نے آپ کو لنگرے کچھ تبرک دیا اور ارشاد فرمایا کہ:

”تم ”محبِ النبی“ ہو یہ اس روز سے آپ محبتِ النبی کہلانے لگے“

آپ نے چند کتابیں اپنے والد بزرگوار سے پڑھیں۔ آپ نے **تعلیم و تربیت** ”شرح وقایہ“ ”مشارق الانوار“ ”نفحات الانس“۔ ایک

کتاب علمِ طب میں اور ایک رسالہ تیر اندازی کے فن میں۔ یہ سب کتابیں اپنے والد ماجد سے پڑھیں۔ آپ نے میاں محمد جان جیو سے اور کتابیں پڑھیں جن میں نصوصِ الحکم وغیرہ شامل ہیں۔ آپ نے مشہور کتاب ”ہدایہ“ مولوی عبدالحکیم سے پڑھی جو بہت بڑے عالم تھے اور فقہ میں ماہر تھے یہ

آپ کی عمر سات سال کی تھی کہ ایک روز آپ اپنے والد ماجد کے پیروبارہے تھے۔ آپ پر غنودگی طاری

بچپن کا ایک واقعہ ہوئی۔ سرورِ دین و دنیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جن کے پانچ دانے مرحمت فرمائے۔ جب آپ بو شیار ہوئے، وہ جن کے پانچ دانے آپ نے اپنے ہاتھ میں دیکھے۔ آپ کے والد بزرگوار بھی جاگ گئے۔ آپ کا ہاتھ پکڑ کر انہوں نے

۱۔ تکملہ سیر الاولیاء ص ۱۱۴۔ ۲۔ تکملہ سیر الاولیاء ص ۱۰۶-۱۰۷۔

فرمایا: ان دنوں میں ہمارا حصہ بھی ہے۔ آپ نے اور آپ کے والد ماجد نے وہ دانے
تناول فرمائے یہ

بیعت و خلافت
آپ صغریٰ میں اپنے والد ماجد سے بیعت ہوئے۔
جب آپ کی عمر سیزدہ سال کی ہوئی آپ کے والد ماجد
نے آپ کو خرقہ خلافت سے سرفراز فرمایا۔

والد ماجد کا وصال
خرقہ خلافت عطا کرنے کے ایک سال بعد آپ کے والد
ماجد نے جان شیریں جان آفریں کے سپرد فرمائی۔ والد
بزرگوار کے وصال کے وقت آپ کی عمر سولہ سال تھی۔

ریاضت و مجاہدہ
والد بزرگوار کے وصال کے بعد آپ زیادہ وقت عبادات
میں گزارتے تھے۔ آپ اپنے حال کی کسی کو خبر نہ دیتے
تھے۔ جو لوگ آپ کے قریب تھے ان کو بھی آپ کی ریاضات، عبادات اور معاہدات
کا علم نہ تھا۔ ایک دن آپ کے پیر سبھائی اور ہم خرقہ خواجہ کامگار خاں نے آپ سے عرض
کیا کہ آپ حلقہ ذکر منعقد کریں اور ذکر چہر کرایا کریں۔ آپ مسکرائے اور ان سے فرمایا کہ وہ
آپ کے واسطے دعا کریں کہ خداوند تعالیٰ ان کو ان کاموں کی توفیق دیں۔ انہوں نے دعایا
کے لئے ہاتھ اٹھائے، ان کو جو دولت و نعمت حاصل ہوئی کھتی وہ فوراً سلب ہو گئی۔
اور وہ معافی کے خواستگار ہوئے۔ آپ نے ان کو معاف فرمایا اور وہ تمام دولت و نعمت
جو سلب ہوئی کھتی، وہ اور اس کے علاوہ مزید نعمت مرحمت فرمائی یہ

ملازمت
آپ کی خواہش پر نواب نظام الدولہ ناصر جنگ نے آپ کو عمدہ سپہ
سالاری یا نائب بخشی تفویض کیا یہ آپ نے تین سال تک بحسن و خوبی

۱۔ تکمیل سیر الایضیاء ص ۱۰۵-۱۰۶ ۲۔ مناقب فخریہ ص ۵ ۳۔ مناقب فخریہ ص ۸ ۴۔ مناقب فخریہ ص ۸۶
۵۔ مناقب فخریہ ص ۶

اپنے فرائض انجام دئے پھر مستعفی ہو کر اورنگ آباد شریف لے گئے۔

ایک روز کا واقعہ ہے کہ آپ عبادت میں مشغول تھے۔ آپ نے
دہلی میں آمد یہ آواز سنی۔ ۵

بندگیل باش آزاد اے پسر

یہ سن کر آپ کو دہلی جانے کا خیال پیدا ہوا۔ آپ اپنے والد ماجد کے مزار پر انوار پر حاضر ہوئے۔
جب مراقب ہوئے یہ آواز سنی۔ ۵

شہ اقلیم فخرم بے خودی تخت روان من
نہ چوں فرہاد مزدورم نہ چوں مجنون زمیندارم

یہ سن کر آپ نے دہلی جانے کا مصمم ارادہ کر لیا۔

آپ ۱۱۶۷ھ میں دہلی میں رونق افروز ہوئے یہ

دہلی تشریف لانے کے چھ ماہ بعد آپ حضرت بابا فرید الدین
پاک پٹن شریف میں آمد مسعود گنج شکر کے مزار اقدس کی زیارت کے واسطے
پاک پٹن حاضر ہوئے۔ پانی پت میں چار راتیں قیام فرمایا۔ حضرت توسلی قلندر کے فیوض و
برکات سے مالا مال ہوئے۔

ایک بیماری کے ازالہ کے واسطے آپ نے حکیموں کا مشورہ قبول
شادی اور اولاد فرما کر اورنگ آباد میں شادی کی۔ آپ کے ایک لڑکا ہوا۔ آپ

نے ان کا نام غلام قطب الدین رکھا یہ

آپ ۲۷ جمادی الثانی ۱۱۹۹ھ کو رات کے آخری حصہ میں اس
جہان فانی سے رحمت زندانی کی طرف رحلت فرمائی یہ بوقت وفات

وفات شریف

۱۷ مناقب فخریہ ص ۱۱۱ کہ تفسیر الانبیاء ص ۱۱۱ مناقب فخریہ ص ۱۱۱

آپ کی عمر ۳۲ سال کی تھی۔ آپ کا مزار بہرولی میں فیوض و برکات کا سرچشمہ ہے۔

آپ کے خلفاء آپ کے مشایخہ خلفاء حسب ذیل ہیں:

حضرت خواجہ نور محمد بہاروی، حضرت مولانا مسیر ضیاء الدین، حضرت مولوی خدایت بخش، نواب غازی الدین مسیر خاں المتخلص بہ نظام شاہ فتح اللہ، مولوی محمد غوث۔ شاہ روح اللہ شاہ قمر الدین اور حضرت محمد غوث۔

سیرت پاک آپ کی ذات والا صفات اور صاف ظاہری و باطنی کی جامع تھی۔ آپ نہایت خلیق و متواضع تھے۔ آپ ہر آنے والے کی تعظیم و تکریم بلا کسی امتیاز کے کرتے تھے۔ بیماری میں بھی کھڑے ہو جاتے تھے۔ آپ میں ایثار نفس بدرجہ تمام تھا۔ عبادت، ریاضت، مجاہدہ اور مراقبہ میں زیادہ وقت گزارتے تھے۔ سخاوت کا یہ حال تھا کہ جو روپیہ اور چیزیں نذر میں آتی تھیں، سب کو تقسیم فرمادیتے تھے۔ آپ اپنے واسطے کچھ نہ رکھتے تھے۔ انکساری اس درجہ تھی کہ جب آپ کا خاکروب پیر اور روز متواتر خانقاہ میں صفائی کے واسطے نہیں آیا، اور جب معلوم ہوا کہ وہ بیمار ہے، آپ بہ نفس نفیس اس کو دیکھنے اس کے گھر شریف لے گئے۔ اس کو کچھ روپیہ دیا اور اس سے معذرت کی کہ اس کی خبر گیری میں اتنی دیر ہوئی۔

علمی ذوق آپ کے خطوط گنجینہ معرفت ہیں۔ وہ "رقعاتِ مرشدی" کے نام سے شائع ہو گئے ہیں۔ آپ کی مشہور تصانیف حسب ذیل ہیں:

"فخر الحسن۔ عقائد نظامیہ۔ سیرت محمدیہ۔ عین الیقین۔"

آپ کی تعلیمات آپ کی تعلیمات اعلیٰ روحانی مقام کے حاصل کرنے میں امداد اور

لہ مناقب فخریہ ص ۱۱۱ لہ مناقب فخریہ ص ۱۱۱۔

رہنائی کرتی ہیں۔

مقام سیرا نفسی

آپ فرماتے ہیں کہ سیرا ناتی میں یعنی عالم کبیر میں عارف محبوب حقیقی کا مشاہدہ کرتا ہے۔ سیرا نفسی میں بھی وہ اس دولت

سے مشرف ہوتا ہے۔ یہ کہنا چاہیے کہ اول تو محض آئینہ ہے اور ذات پاک کا ظہور اس میں بھی ہے۔ مگر دوم یہ کہ انسان "عالم صغیر" ہے۔ معنی اور معانی آئینہ ہے۔ اس میں جو تجلیات عارف مشاہدہ کرتا ہے وہ پہلے مشاہدہ سے بہ مدارج فوق ہیں۔ مقام سیرا نفسی کا شمار تمام حاصل ہونے پر موقوف ہے۔ سالک کا باطن اسوا اللہ سے پاک ہو جانا ہے اور خداوند تعالیٰ کی ہستی کا اس پر غلبہ ہوتا ہے تو مقام قرب نوافل حاصل ہوتا ہے۔

آپ فرماتے ہیں کہ اصل تمام کی حضور مع اللہ کا حاصل ہونا ہے۔ حضور مع اللہ طریقے مختلف ہیں۔ خواہ یہ ذکر جہر سے ہو، یا ذکر خفی سے۔ خواہ

فکر سے ہو یا مراقبہ یا رابطہ سے ہو۔

آپ فرماتے ہیں کہ بے خودی ایک بڑی نعمت ہے۔ اس کا شکر کرنا ضروری ہے۔ لیکن سالک کو اس پر قناعت نہیں کرنا چاہئے، بلکہ

اس کو اصلی مقصد اور مدارج عالیہ حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھنا چاہئے۔ بے خودی تو بھنگ اورافیون سے بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ فرق یہ ہے کہ اس قسم کی بے خودی محمودہ نہیں ہے بلکہ مذمومہ ہے۔ جب بے خودی حاصل ہو تو ریاضت و مجاہدہ میں زیادہ مصروف ہونا چاہئے۔

آپ فرماتے ہیں کہ جس قدر بھی ہو سکے ذکر کرنا چاہئے، لیکن اتنا نہیں ذکر اور محاسبہ کہ جس کا صحت پر بڑا اثر پڑے۔ محاسبہ کرنا بھی ضروری ہے بلکہ

۱۔ رقعاتِ مرشدی ص ۲۵۔ ۲۔ رقعاتِ مرشدی ص ۵۔ ۳۔ رقعاتِ مرشدی ص ۶۲-۶۳۔

۴۔ رقعاتِ مرشدی ص ۶۳-۶۵۔

حنور و غیب کو دل سے دور کرنا چاہئے۔

یادِ مولے سب سے اولیٰ ہے۔

● اقوال

● دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔

● سالک کو چاہئے کہ ضبطِ اوقات کو ہاتھ سے نہ دے۔

● سالک کو فریبِ نفسانی نہ کھانا چاہئے۔

● انسان منظرِ جمیع مراتبات الہیہ و کونیہ ہے۔

آپؐ پاسِ انفاس“ اور ذکرِ علیٰ رضیٰ عنہ کی تلقین فرماتے ہیں۔ آپؐ

فرماتے ہیں کہ اعمالِ صالحہ مثل نوافل، نماز و تہجد و کسراق

اور اوراد مثل درود شریف و تلاوت قرآن مجید کو اپنے اوپر لازم کرنا چاہئے۔

اور اوراد مثل درود شریف و تلاوت قرآن مجید کو اپنے اوپر لازم کرنا چاہئے۔

نواب میر غازی الدین خاں کو مسئلہ وحدت الوجود کے سمجھنے میں

سخت تردد تھا۔ آپؐ نے مکاشفہ سے ان کا تردد معلوم فرمایا۔

کشف و کرامات

ایک دن آپؐ نواب صاحب کے پاس تشریف لے گئے اور اپنی انگلیاں ان کی انگلیوں میں اور

دونوں ہتھیلیوں سے دونوں ہتھیلیاں ملائیں۔ پھر مسکرا کر نواب صاحب کی طرف دیکھا۔ نواب

صاحب بے ہوش ہو گئے۔ نواب صاحب کہتے ہیں کہ جب ہوش آیا تو تمام جمادات، نباتات

اور حیوانات ایک شے نظر آتے لگے۔ اورنگ آباد سے دہلی تشریف لاتے ہوئے راستے

میں ایک نابینا بڑھیا آپؐ کی خدمت میں آئی اور آپؐ سے عرض کیا کہ اس کی آنکھیں روشن

کر دیں۔ آپؐ نے اپنا ہاتھ اس بڑھیا کی آنکھوں پر پھیرا، اسی وقت اس بڑھیا کی آنکھوں میں

روشنی آگئی۔ آپؐ کے مرید قاضی الزیاض مدنی میں مبتلا تھے۔ آپؐ کی خدمتِ اقدس

میں حاضر ہوئے۔ آپؐ ان سے بغل گیر ہوئے۔ بغل گیر ہونے کے فوراً بعد ہی قاضی صاحب بالکل

اچھے ہو گئے اور اپنے اندر ایسی قوت محسوس کرنے لگے کہ گویا بیماری نہ تھی۔

۱۔ رسالہ بین المشرقین ص ۹۰ ۲۔ لغز الطالبین ص ۲۴ مناقب مخزومہ ص ۱۰

الشَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ
 الشَّائِعُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ
 الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ
 الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ

(پ ۱۱ - توبہ - ۱۳ ع)

مطلب: توبہ کرنے والے عبادت گزار خدا کی حمد و ثنا کرنے والے - خدا کی راہ میں سفر کرنے
 والے - رکوع کرنے والے - سجدہ کرنے والے - لوگوں کو نیک کام کی صلاح دینے والے
 اور برے کام سے منع کرنے والے - اللہ نے جو حدیں باندھی ہیں ان کی نگاہ رکھنے والے۔

بخشیم
 حصہ پنجم

نسب نامہ مادری آپ کا نسب مادری امیر صاحب قرآن تک پہنچتا ہے۔

والد بزرگوار آپ کے والد ماجد یحیٰ بن خاتم نے اونٹن زیب کی خدمت میں زندگی گزار لی۔ آخر عمر میں تارک الدنیا ہو گئے تھے۔ وہ طریقہ قادریہ کے ایک بزرگ سے مستفید تھے۔

ولادت باسعادت آپ کی پیدائش اور کرامت کے متعلق مولانا رومی نے پانچ سو سال قبل تحریر فرمایا تھا یہ

جان دراصل منظر درگاہ شد

جان جانان خود منظر اللہ شد

آپ نے سلاطین میں اس عالم کو زینت بخشی یہ آپ کا نام شمس الدین ہے۔

والد ماجد کا انتقال جب آپ کی عمر سولہ سال کی ہوئی، آپ کے والد ماجد نے سلاطین میں انتقال فرمایا۔

تعلیم و تربیت آپ نے علوم متعارف والد ماجد کی حیات میں پڑھے تھے۔ حدیث کی کتابیں آپ نے شیخ المحدثین شیخ عبداللہ بن سالم

مکی کے شاگرد حاجی محمد افضل سیالکوٹی سے پڑھیں۔ قرآن مجید آپ نے شیخ عبدالخالق شوقی کے ساتھ حافظ عبدالرسول دہلوی سے پڑھا۔

بیس سال کی عمر میں آپ کا دل دنیا سے سرو ہو گیا تھا۔ راہ فقر میں قدم رکھا۔

بیعت و خلافت آپ حضرت سیدات اوقات سید نور محمد بدایونی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بیعت سے مشرف ہوئے اور طریقہ نقشبندیہ

کا فرقہ خلافت حاصل کر کے معزز و ممتاز ہوئے۔ اپنے پیروں کی خدمت میں رہ کر عبادت

۱۔ مفاتیح التواریخ لکھنؤ مکتوبات برزاعاصب ص ۱۱۱۔

ریاضات میں مشغول ہوئے۔ اپنے پیروشد کے وصال کے بعد نقشبندی سلسلے کے بہت سے بزرگوں سے استفادہ و مستفیض ہوئے یہ

بعد ازاں آپ ایک عرصے تک حضرت شیخ الشیوخ شیخ محمد عبد ستامی کی خدمت بابرکت میں رہ کر ان کے فیوض روحانی سے مالا مال ہوئے۔ ان سے۔ ان سے خواتم اجازت طریقہ قادریہ و سہروردیہ و چشتیہ حاصل کر کے رشد و ہدایت و تربیت طالبانِ خدا میں مشغول ہوئے۔

آخری ایام آخر عمر میں آپ وظائف و عبادات میں زیادہ وقت گزارتے تھے۔ استغراق زیادہ بڑھ گیا تھا۔ بہت لوگ آپ کے حلقہ ارادت میں داخل ہوئے۔ ملا نعیم کو جب آپ نے رخصت کیا، آبدیدہ ہو کر فرمایا کہ اب ہماری اور تمہاری ملاقات ہوتی نظر نہیں آتی۔ ایک روز خداوند تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ کوئی آرزوئے دل ایسی نہیں کہ جو پوری نہ ہوئی ہو۔ منعم حقیقی نے سلام حقیقی سے مشرف کیا۔ علم وافر بننا۔ نیک عمل کی توفیق دی۔ استقامت کی کرامت عطا کی۔ لوازم طریقہ میں جو کچھ چاہئے تھا وہ سب کچھ دیا۔ کشف و تعریف و کرامت سے نوازا۔ صلحاً و کسب فیوض کے واسطے بھیجا اور ان کو مقامات عالیہ تک پہنچایا۔ آپ نے شہادت ظاہری کی کہ جو قرب الہی میں اور نجا درجہ رکھتی ہے، آرزو ظاہری کی۔

وصیت آپ نے وصیت فرمائی کہ تمہیز و تکفین میں سنت رسول کی پوری پوری پابندی کی جائے۔ اپنے حلقہ ارادت والوں کے لئے آپ نے وصیت فرمائی کہ آخر دم تک اتباع سنت کے پابند رہیں اور مقصود حقیقی کو حق تعالیٰ سے غیر اور متبوع واجب الاتباع کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر نہ جائیں۔ رسوم و عادات

یہ مکتوبات مرزا صاحب عطا۔

درویشوں سے واقف رہیں اور دنیا داروں کی محبت سے اجتناب اور احترام کریں۔
علوم دینی سے اپنے کو محروم نہ رکھیں۔

وفات شریف
بدھ کی رات، محرم کو نجف خاں کے لشکر کے ایک آدمی نے آپ
پر قاتلانہ حملہ کیا۔ تین دن تک خون بہتا رہا۔ ۱۰ محرم ۱۱۹۵ھ
کو بعد نماز آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔

آپ کے خلیفہ
حضرت شاہ عبداللہ المعروف بہ شاہ غلام علی احمدی آپ کے
ممتاز خلیفہ ہیں۔

سیرت مبارک
علم و عمل میں، آدابِ شریعت و طریقت میں، فصاحت و
بلاغت میں اور ریاضت و مجاہدہ میں اپنی مثال آپ تھے۔
علم ظاہر و سلوکِ باطن میں اعلیٰ درجہ رکھتے تھے۔ قطبِ وقت تھے اور پیرِ کامل تھے۔

علمی ذوق
آپ کے ملفوظات طیبات اور آپ کے مکتوبات سے آپ کے علمی
ذوق اور قابلیت کا بخوبی پتہ چلتا ہے۔ آپ کے ملفوظات اور
مکتوبات تصوف کا ایک بیش بہا خزانہ ہیں۔

شعرون کا ذوق
آپ ایک خوش گوشتاعر تھے۔ آپ کا کلام عارفانہ ہے۔
جیسا کہ حسبِ ذیل اشعار سے ظاہر ہے:
محمد از تو می خواہم خدارا خدایا از تو عشقِ مصطفیٰ را

غلامِ عشقم و لطف و کرم بہائے من است کسے کہ بندہ بخواند مرا خدائے من است
خدانہ کردہ برہمن زبت گستد فریاد تو واقعی کہ چہ از نالہ مدعائے من است

مشتِ خاکِ مے پرستاں چرخِ زدیماہ شد
گشت از خوابِ عدم بیدار باز افسانہ شد

جوشِ زدستی و چشمِ دلبراں مے خانہ شد
منظرِ خوش گوئے مازِ آغاز و تماشِ میرس

چوں بیگم دیا نینہ عکسِ جمالِ خویش
روشن شود ز روشنی ذاتِ من جہاں
کردہ ہمہ جہاں تحقیقتِ مصوم
گر پردہ صفاتِ خودم را فرودم

تعلیمات آپ کی تعلیمات زندگی کو بہتر و اعلیٰ بنانے کے لئے کافی ہیں۔

نماز کی اہمیت آپ فرماتے ہیں کہ:
”نماز جامع کیفیات ہے کہ جو تلاوت، تسبیح، درود اور استغفار کے انوار، اذکار سے متضمن ہے۔ صحیح اور اصل ترین حالت نماز میں حاصل ہوتے ہیں۔ بشرطیکہ اس کے آداب بجالائے جائیں“

رمضان کی فضیلت آپ فرماتے ہیں کہ:
”رمضان المبارک میں نسبت باطنی کی بہت ترقی ہوتی ہے۔ روزہ میں غیبت اور جھوٹ سے پرہیز کرنا واجب ہے، ورنہ روزہ فاقہ سے زیادہ نہیں ہے“

اعمال کی جزا آپ فرماتے ہیں کہ:
”جو کچھ تکلیف، آزار و اذیت ہم کو لوگوں سے پہنچتی ہے وہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اگر بڑوں سے ادب کے ساتھ اور چھوٹوں

لہ کلماتِ طیبات (ملفوظاتِ مرزا صاحب) ص ۸۷

سے ہر شفقت کے ساتھ پیش آئیں تو کوئی شخص تمہارے ساتھ برائی نہیں
کر سکتا۔

طریقہ منہر یہ میں اول اول جو بشارت کہ طالب کو عطا فرماتے ہیں وہ یہی
فتح الباب فتح الباب کی بشارت ہے۔ اس وقت قلب کو، جو اپنی اہلیت سے
غافل ہو گیا تھا۔ اپنی اصل پھر یاد آتی ہے اور اپنے فوق کی جانب متوجہ ہوتا ہے۔ تھوڑی ہی
مدت میں وہ نور کا شعہ جو قلب سے اٹھنے لگا تھا اب قالب سے ظاہر ہوتا ہے۔

انسان کا دل اصل فطرت میں روشن و منور پیدا ہوا ہے، مگر عام طور پر کثرت تعلقات و
موانع کے باعث کوئلہ کی مانند سیاہ و بے نور ہو گیا ہے۔ اسی وجہ سے وہ اپنے آپ اور اپنی
اصل کو فراموش کر بیٹھا ہے۔ لیکن جب وہ طالب صادق بن کر اور حسن عقیدت و ارادت اپنے
ہمراہ لے کر کسی کامل شیخ و مرشد کی خدمت میں حاضر ہو جائے تو وہ مرشد اس کی طرف متوجہ ہو کر
اس کو ذکر کی تلقین کرتا اور اپنی توجہات اس کے حق میں معروف کرتا ہے تو اس کی توجہات کی
برکت سے ذکر کا نور اس کے قلب میں پیدا ہو جاتا ہے اور وہ سیاہ کوئلہ اب دیکھنے لگتا ہے
اور جب ذکر کے نور سے اس کا تمام دل منور ہو جاتا ہے تو اس کے دل سے نور کا ایک شعہ
اٹھتا ہے۔ اس کو طریقہ منہر یہ میں فتح الباب کے نام سے موسوم کرتے ہیں یہ

نصائح

- طریق ذریعہ و تقویٰ اختیار کرو۔
- زندگی صبر و تحمل کے ساتھ گزارو۔

● محبت مشائخ میں سیرخ بڑھاؤ۔ کیوں کہ دوستانِ خدا کی دوستی موجب قربِ خدا
کا ہے۔

● قناعت اختیار کرو۔

● حرص و طمع کو دل سے نکالو۔

نہ ہدایت الطالبین ص ۱۱۱ -

یار و اغیار سے نا اُمید ہو اور ان کا ہونا نہ ہونا برابر سمجھو۔
کسی کو حقارت سے مت دیکھو۔

اپنے کو سب سے زیادہ کم تر و قاصر جانو۔

اپنی طاعت و عبادت پر ناز مت کرو۔

جتنا ممکن ہو مخالفتِ نفس کرتی چاہئے، لیکن اس قدر کبھی نہیں کہ تنگ ہو جائے
اور طاعت میں نشاطِ شوق نہ بڑھے۔

اُوراد و وظائف

آپ کے خاص اُوراد و وظائف حسبِ ذیل ہیں :

آپ فرماتے ہیں کہ دعائے حزبِ البحر ہر روز
پڑھنا چاہئے یہ **راحتِ دل کے لئے**

آپ فرماتے ہیں کہ آفات سے محفوظ رہنے کے لئے صبح و شام
سورۃ لایلاف پڑھنا چاہئے۔ **برائے دفعِ شر**

دفعِ شر کے لئے فجر کے نماز کے بعد سورۃ لایلاف ایک سو ایک بار پڑھیں، یا
گیارہ مرتبہ۔ شریعہ اور سنن میں پانچ پانچ بار درود پڑھنا ضروری ہے۔

ختمِ خواجگان اور ختمِ حضرتِ مجددِ صبح کی نماز کے بعد
پابندی سے پڑھنا موجبِ خیر و برکت ہے۔ **خیر و برکت کے لئے**

نجف خان جس کے آدمی نے آپ پر حملہ کیا تھا، اسی سال مر گیا۔
تمام توابع و حواری بھی ختم ہو گئے یہ **کرامات**

مخزماں و قطبِ دُور ان حضرتِ شاہِ کما آفاقِ دہلوی آپ کی دُعا سے پیدا ہوئے تھے۔

لہ مقولاتِ مرزا صاحب ص ۹۲۔ انوار الہادین ص ۲۲۵۔

باب ۱۹

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ناصرِ شریعت ہیں اور امامِ طریقت ہیں۔
 عمدۃ الابرار ہیں، قدوۃ الاخیاء میں۔ آپ وہ طبعِ فیض ہیں کہ جس سے ہندوستان قال اللہ
 قال الرسول کے انوار کی تجلیات سے منور ہوا۔

آپ کا شجرۂ نسب ^{۱۲} تینتیس واسطوں سے امیر المؤمنین حضرت عمرؓ
 ابن خطاب تک اس طرح پہنچتا ہے کہ ولی اللہ بن عبدالرحیم بن

خاندانی حالات

وجیبہ الدین شہید بن معظم بن منصور بن احمد بن محمود بن قوام الدین عرف قاضی تو اذن بن قاضی
 قاسم بن قاضی کبیر عرف قاضی مدہا بن عبداللک بن قطب الدین بن کمال الدین بن شمس الدین
 المصطفیٰ عرف قاضی بیران بن شیر ملک بن عطا ملک بن ابوالفتح ملک بن عمرو الحاکم بن مالک بن عادل
 ملک بن قارون بن جر جلیس بن احمد بن محمد شہر بار بن عثمان بن ہامان بن ہالیوں بن قریش بن
 سلیمان بن عثمان بن عبداللہ بن محمد بن عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہم اجمعین علیہ

شہ قرۃ العین۔

والد بزرگوار آپ کے والد بزرگوار حضرت شاہ عبدالرحیم علوم ظاہری و باطنی میں اپنی نظیر آپ تھے۔ حضرت شاہ سید عبداللہ اکبر آبادی سے بیعت تھے اور ان کے خلیفہ اعظم بھی تھے۔

ولادت آپ ۴۔ شوال ۱۱۱۱ھ کو اس عالم میں تشریف لائے۔
نام آپ کا نام احمد ہے۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ بندہ ضعیف احمد ہے۔
 رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ

تعلیم و تربیت جب آپ کی عمر پانچ سال کی ہوئی۔ آپ کے والد نے آپ کو ایک مکتب میں داخل کیا۔ سات سال کی عمر میں آپ نے قرآن مجید ختم کیا۔ پھر دیگر کتب کے مطالعہ میں مشغول ہوئے۔ آپ کے والد ماجد نے آپ کی تعلیم پر کافی دھیان دیا۔ پندرہ سال کی عمر میں آپ نے علوم ظاہری کی تکمیل کی اس سے فراغت پا کر آپ علوم باطنی کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ کے والد ماجد آپ کو سپرد و نصح فرما کر علم مجلسی اور آدابِ محفل سکھایا کرتے تھے۔ آپ کے والد بزرگوار نے آپ کو تصوف کی تعلیم بھی دی۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ:

”اور ان ہی سے علوم ظاہرہ اور آدابِ طریقت سیکھے اور ان سے کرامات دیکھے اور مشکلات پوچھے اور ان سے اکثر فوائد طریقت کے سنے۔“

بیعت و خلافت پندرہ سال کی عمر میں آپ اپنے والد ماجد سے بیعت ہوئے۔ آپ کے والد ماجد کو کئی سلسلوں سے اجازت حاصل تھی۔ اس کے متعلق آپ خود فرماتے ہیں:

۱۔ ملفوظات شاہ عبدالعزیز ص ۵۶۔ ۲۔ فیصلہ وحدت الوجود و اشہود ص ۲۔ رسالہ درائین فی
 بشرات ابنی الامین ص ۱۵۱۔ ۳۔ انفاص العارفين۔ ۴۔ قول عمیل فی بیان سوار اسبیل ص ۱۵۱۔ ۵۔
 قول عمیل فی بیان سوار اسبیل ص ۱۵۱۔

” اور ہمارے اور بھی سلاسل ہیں جن کے بعض میں بنا برصیت کے

اتصال ہے اور بعض میں بنا برصیت یا خرقہ پوشی کے“

لیکن آپ کا اصلی سلسلہ نقشبندیہ ہے۔ بیعت ہونے کے دو سال بعد آپ کو آپ کے والد نے خلافت عطا فرمائی اور آپ کو ارشادات اور بیعت کی اجازت دے کر اپنا خلیفہ اعظم بنا دیا۔ آپ نے حضرت شیخ ابوطاہر مدنی سے بھی خرقہ پایا۔ یہ خرقہ ”جمع خرقہ ہائے صوفیہ کا حاوی“ کہلاتا ہے۔

والد کا وصال ابھی آپ کی عمر نوپے سترہ سال کی کبھی نہیں ہوئی تھی کہ آپ کے والد ماجد کا وصال ہو گیا۔ ان کے وصال کے بعد آپ ان کی مسندِ رشد و ہدایت پر جلوہ افروز ہوئے اور تعلیم و تلقین میں مشغول ہو گئے۔

زیارتِ حرمین شریفین آپ نے ۱۱۴۳ھ میں حج کا تشریف ادا کیا۔ مدینہ منورہ حاضر ہو کر سیون و برکات سے مستفیض ہوئے۔

آپ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں بہت سے علماء اور مشائخین کی صحبت سے مستفید ہوئے۔ ان بزرگ شہروں میں کچھ عرصہ قیام کر کے آپ نے احادیث کی سندیں حاصل کیں۔ آپ ۱۱۴۵ھ میں دہلی واپس تشریف لائے اور دہلی میں اقامت گزری ہو کر آپ نے درس و تدریس، رشد و ہدایت اور تعلیم و تلقین میں اپنی زندگی صرف کر دی۔

شادی اور اولاد آپ کی شادی پندرہ سال کی عمر میں ہوئی تھی۔ آپ کے صاحبزادے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا حال اگلے باب میں درج ہے۔ آپ کے دیگر فرزند مولانا شاہ رفیع الدین، مولانا شاہ عبدالقادر اور شاہ عبدالغنی ہیں۔

وفات شریف آپ کا وصال ۱۹۔ محرم ۱۱۶۱ھ کو ہوا۔ آپ کا مزار دہلی میں ہے۔

۱۰ لے لفظیات شاہ عبدالعزیز ص ۵۶۔

سیرت مبارک آپ کا شمار ہندوستان کے علمائے عظام و فضلاء نے ذوی الاکرام میں ہے۔ آپ کی بزرگی اور عظمت کے کسی کو انکار کی جرأت نہیں ہے۔ آپ افضل ترین علمائے عصر تھے۔ معقول و منقول اور حقائق و معارف میں یکتائے روزگار تھے۔ آپ تمام عرطفین اور علوم عقلی و نقلی کے سرسار میں معروف اور مشغول رہے۔ زندگی میں سادگی انتہا درجہ کی تھی۔

آپ کا علمی ذوق آپ نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں۔ آپ کی مشہور تصانیف حسب ذیل ہیں:

لمعات - ہمعات - قول جمیل فی بیان سوارما سبیل - انقاس العارفین - مکتوب مدنی (اردو ترجمہ الملقب برفیصلہ و حدیث الوجود و المشہود) رسالہ و کتابتین فی مبشرات الہی الاین - مکتوبات مع مناقب ابی عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری و فضیلت ابن تیمیہ تفسیر قرآن تعقیبات الہیہ - مکاتیب عربی - امتباہ فی اسناد احادیث رسول اللہ صلعم - خیر کثیر - قول الجلی فی آثار الولی - بدوہ باز غم فوض الحرمین - تاویل الاحادیث - خمسہ رسائل - انصاف - قصیدہ الطیب الثم فی مدح سید العرب و العجم - عقدا الجید - جہل حدیث مع شرح منظوم الموسوم بپنجیر۔

شعرو سخن کا ذوق حسب ذیل اشعار آپ کے شعرو سخن کے ذوق کا آئینہ دار ہیں یہ آپ کا تخلص امین تھا۔

من نہ دائم باہ ام یا باہ را بیانش ام عاشق شوریدہ ام یا عشق باجانانہ ام
بتلائے حیرتم جاں گویمت یا جان جاں اصطلاح شوق بسیار است بین یوانہ ام

سیر الاخیار مکہ طغوفات شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ص ۱۰۰۔

میل ہر فنصر لود سونے مقتر اصلیش
 جدیہ اہل است سر شورشِ مستانہ ام
 شوقِ موسیٰ در ظہور آورد نار بطور رسا
 در تہادِ شمع استنش می زند پر واسنہ ام
 اے آئین برستیم نام تجدد تہمت است
 ولذیل پیش از زماں تعمیر شد میخانہ ام

آپ کی تعلیمات علم ظاہر اور علم باطن کا ایک شیش بہا خزانہ ہیں

آپ فرماتے ہیں کہ: **آداب عالمِ حقانی**

”میں وصیت کرتا ہوں۔ طالبِ حق کو چند امور کی ازرا بخلا
 یہ سچے کاغذ یا اجرام سے صحبت نہ رکھے، مگر بہ نیت دفع کرنے ظلم کے غلطی پر
 سے یا ان کو مسترد کرنے کے واسطے خیر پر صحبت نہ اختیار کرے۔ یوسفیان
 جاہل کی اور نہ جاہلانِ عبادت شاعر کی اور نہ فقیہوں کی جو زائد خشک ہیں اور
 نہ محدثین ظاہری کی جو نقطہ سے عداوت رکھتے ہیں اور نہ اصحابِ معقول اور
 کلام کی جو معقول کو دلیل سمجھ کر استدلال عقلی میں افراط کرتے ہیں۔“

آپ فرماتے ہیں کہ: **طالبِ حق کے واسطے ضروری باتیں**

عالمِ صرفی ہو۔ ذیالانارک ہر دم اللہ کے دھیان میں حالاتِ بلند میں ڈوبا۔
 سنتِ مصطفویہ میں راقب۔ حدیث اور آثار صحابہ کرام کا محبتس۔ حدیث
 اور آثار کی شرح اور بیان کا طلب کرنے والا فقیہانِ معقین کے کلام سے جو
 حدیث کی طرف مائل ہیں نظر سے اور ان اصحابِ عقائد کے کلام سے جن کے
 عقائد مانع ہیں سنت سے۔ جو ناظر ہیں دلیل عقلی میں بطریق عدم لزوم کے

۱۲۶ قلمیہ فی بیان سوا سبیل ص ۱۳۶ کہ قلمیہ فی بیان سوا سبیل ص ۱۳۶

● حوادث کے اسباب میں سے ایک سبب بخت بھی ہے۔

● ہر زمانے میں ایک قرن ہے اور ہر قرن میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی تقسیموں کا ایک علم ہے جو اہل قرن کو پہنچتا ہے۔

● بیعت سے مرید کو امر کرنے اور بدوکتنا اس کو خلاف شرع سے اور اس کی رہنمائی کی طرف تسکین باطنی کے اور دُور کے نامی عادتوں کا اور حاصل کرنا صفات حمیدہ کا۔

آوراووظائف

آپ کے آوراووظائف کشودکار کی کنجی ہیں۔ خاص خاص حسب ذیل ہیں:

آپ فرماتے ہیں کہ ہر روز گیارہ سو مرتبہ
عنائے باطنی و ظاہری کے واسطے "یا مَعْنٰی" اور چالیس بار سورۃ مؤمنین

پڑھنا چاہئے اور اگر چالیس بار نہ پڑھ سکے تو گیارہ بار پڑھے!

آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص سورۃ واقعہ کو ہر بات پڑھے
فاقے سے بچنے کے واسطے اس کو فاقہ نہیں ہوتا!

آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت کو بارہ سو بار بارہ دن تک
پڑھنا چاہئے۔ یٰٰ اَبَدِیِّعِ الْعَجَابِ بِالْمُغْنِیِّ اَبَدِیِّعِ

آپ فرماتے ہیں کہ حاکم کے سامنے جس سے ڈرتا ہو جب جائے
تو ہے: کَلِّمِ عَمَّ كَفِّیَّتَا حَتَّعَسُو حَمِیَّتَا

داہنے ہاتھ کی ہر انگلی کو بند کرے۔ لفظ اول کے ہر حرف کے تلفظ کے ساتھ اور بائیں ہاتھ کی ہر انگلی کو
بعض کرے لفظ ثانی کے ہر حرف کے نزدیک۔ پھر دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بند کئے جائے، پھر
دونوں کو کھول دے۔

۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵

● حوادث کے اسباب میں سے ایک سبب بخت بھی ہے۔

● ہر زمانے میں ایک قرن ہے اور ہر قرن میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی تقسیموں کا ایک علم ہے جو اہل قرن کو پہنچتا ہے۔

● بیعت سے مرید کو امر کرنا ہے مشروعات کا اور دُعا کرنا اس کو خلاف شرع سے اور اس کی رہنمائی کی طرف تسکینِ باطنی کے اور دُعا کرنا بڑی عادتوں کا اور حاصل کرنا صفاتِ حمیدہ کا۔

آورا و وظائف

آپ کے آورا و وظائف کشود کار کی کنجی ہیں۔ خاص خاص حسب ذیل ہیں:

آپ فرماتے ہیں کہ ہر روز گیارہ سو مرتبہ
عنائے باطنی و ظاہری کے واسطے "یا معنی" اور چالیس بار سورۃ مزمل پڑھنا چاہئے اور اگر چالیس بار نہ پڑھ سکے تو گیارہ بار پڑھے۔

آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص سورۃ واقعہ کو ہر رات پڑھے
فاقے سے بچنے کے واسطے اس کو فاقہ نہیں ہوتا یہ

آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت کو بارہ سو بار بارہ دن تک
پڑھنا چاہئے یہ یا بدیع العجایب یا بخیر یا بدیع

آپ فرماتے ہیں کہ حاکم کے سامنے جس سے ڈرنا ہو جب جائے
تہیے: کھلیعص کفیت حتمت حتمت

داہنے ہاتھ کی ہر انگلی کو بند کرے۔ لفظ اول کے ہر حرف کے تلفظ کے ساتھ اور بائیں ہاتھ کی ہر انگلی کو
تیس کرے لفظ ثانی کے ہر حرف کے نزدیک۔ پھر دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بند کئے جائے، پھر
دونوں کو کھول دے یہ

۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱ ۳۲ ۳۳ ۳۴ ۳۵ ۳۶ ۳۷ ۳۸ ۳۹ ۴۰ ۴۱ ۴۲ ۴۳ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴۷ ۴۸ ۴۹ ۵۰

باب ۲۰

حضرت شاہ محمد فرہاد دہلوی

حضرت شاہ محمد فرہاد دہلوی دنیاوی آلائش سے آزاد ہیں۔ آپ قدوۃ اولیائے
ناں ہیں۔ زبیدۂ سالکال ہیں۔ معتدلئے اہل طریقت ہیں۔ آفتاب سپر حقیقت ہیں۔
والد ماجد کے والد بزرگوار شاہی دربار سے منسلک تھے۔ امرائے دربار
میں ممتاز تھے۔ برہان پور کی صوبے داری ان کے پردیسی۔ صوبے داری
کے فرائض آپ برہان پور میں رہ کر انجام دیتے تھے۔
ولادت باسعادت آپ دہلی میں پیدا ہوئے۔
نام نامی آپ کا نام محمد فرہاد ہے۔

برہان پور میں قیام
جب آپ کے والدین برہان پور کے صوبے دار مقرر ہوئے تو
آپ بھی والد ماجد کے سایہ ماطفت میں رہ کر تعلیم حاصل کرتے تھے۔
حضرت سید دوست محمد بفرمان اپنے پیر و مرشد حضرت سیدنا شاہ امیر ابو العلاء
احمدی اکبر آبادی برہان پور میں رہنے لگے تھے اور برہان پور کو اپنے فیضان و
تلاش حق

بیعت و خلافت آخر کار والد ماجد نے پھر آپ کو آنے جانے سے منع نہ کیا۔ کچھ دنوں کے بعد ہی آپ حضرت سید دوست محمد کے حلقہ ارادت میں داخل ہوئے۔

بیعت سے شرف ہوئے اور خرقہ خلافت سے سرفراز ہوئے۔

پیر و مرشد کی وصیت آپ کے پیر و مرشد حضرت سید دوست محمد نے وصال کے قریب آپ کو وصیت فرمائی کہ ان کے بعد برہان پور میں نہ رہیں بلکہ وہاں میں بود باش اختیار کریں اور وہاں رہ کر مخلوق کو رشد و ہدایت اور تعلیم و تعلقین فرمائیں۔

وہاں میں آمد پیر و مرشد کی وصیت کے مطابق پیر و مرشد کے وصال کے بعد آپ برہان پور سے ترک سکونت کر کے وہاں میں رونق افروز ہوئے اور تمام عمر وہاں میں رہ کر ماہِ حق دکھلاتے رہے اور مخلوق کی دستگیری فرماتے رہے۔ لوگ آپ کے نفع کا شہرہ سن کر دور دور سے آتے تھے اس آپ کے حلقہ ارادت میں داخل ہوتے تھے نسبت ابوالعلاء فریاد یہ سے سن کر وہاں کو فیض پہنچا۔ بہت سے صاحبِ دل بزرگ ہو گئے۔

وفات شریف آپ نے ۲۵ جمادی الثانی ۱۱۳۵ھ کو وصال فرمایا۔ آپ کا شمار مبارک وہاں میں واقع ہے۔ آپ کے مزار سے اب بھی فیوض جاری ہیں۔

آپ کے خلفاء حضرت شاہ برہان الدین خلافت اور حضرت شاہ اسحاق آپ کے ممتاز خلیفہ ہیں۔

سیرت مبارک آپ وحید العصر اور قلبِ وقت تھے۔ آپ کی توجہ غیبی کا یہ اثر ہوتا تھا کہ لوگ بے خود ہو جاتے تھے۔ آپ کے نفعِ صحبت و تربیت سے

لوگ مقامِ معرفت تک پہنچ گئے۔ آپ کو شیخ الحدیث والانس کہا جاتا ہے۔ جن انسانی صورت میں آپ کی مجلسِ محافت میں حاضر ہو کر فیوض و برکات حاصل کرتے تھے۔ آپ پر نسبت استنراقیہ

اس وجہ غالب تھی کہ آپ خوراک و پوشاک سے بے خبر رہتے تھے۔ ذکر و فکر میں ہمہ وقت ہمتن مشغول و متفرق رہتے تھے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ آپ منہ پر میٹھے ہوئے کچھ تلاش کرتے

ہوتے تھے لوگ پوچھتے: "کیا تلاش کر رہے ہیں؟" آپ فرماتے: "فراد یہاں بیٹھا تھا کہاں گیا؟" غرض آپ کے اوصافِ بشری صفاتِ ملکی میں تبدیل ہو گئے تھے۔

باب ۲۱

حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی

حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی مجمع فیوض سبحانی ہیں اور منبع علوم روحانی ہیں۔ آپ ڈیرہ رائے معرفت ہیں اور گڑھی ہرکان حقیقت ہیں۔ آپ کے خاندان اور والد بزرگوار حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا ذکر پچھلے خانہ میں آچکا ہے۔ یہاں یہ کہنا کافی ہو گا کہ آپ کا خاندان علم حدیث اور فقہ کے لئے مشہور تھا۔

ولادت آپ کی ولادت ۱۱۵۹ھ میں ہوئی۔

نام آپ کا نام بیدائش سے ہے۔ آپ کا تارکخی نام غلام علیم تھا۔

تعلیم و تربیت آپ کی تعلیم آپ کے والد ماجد کی آغوش میں ہوئی۔ آپ نے اپنے والد سے جمیع علوم ظاہری و باطنی پڑھے۔

بیعت و خلافت آپ کو اپنے والد بزرگوار کا مرید اور خلیفہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ آپ کا طریق سلوک اپنے والد سے موسوم تھا۔ اس طریقے

کو نزدیک ترین خلافت شناسی کا راستہ کہا جاتا ہے۔ آپ کے والد حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں: "البتہ حق سبحانہ تعالیٰ نے مجھ پر اور میرے زمانے کے لوگوں

پر بہت بڑا احسان کیا۔ کیوں کہ مجھ کو وہ طریقہ سلوک عطا فرمایا جو دوسرے طریقوں سے بہت نزدیک ہے اور وہ پانچ فضیلتوں سے مرکب ہے۔
 اول ایمانِ حقیقی۔ دوم قربِ نوافل۔ سوم قربِ واجب۔ چہارم قربِ ذائقہ۔ پنجم قربِ ملائکہ۔

جو شخص اس طریقے کے حصول کا ارادہ کرے گا، خداوند کریم اس کو ضرور عطا فرمائے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ابہام فرمایا ہے کہ ہم نے تمہیں کھاس طریقے کا امام مقرر کیا اور تمہیں کو آسمانوں کی بلندی پر پہنچا دیا اور آج سے کل طریق حصولِ قرب حقیقت سب سے اس طریقے کے بند کر دئے گئے اور وہ طریقہ صرف تیری محبت اور اتباع کا ہے۔ پس جو شخص کہ تجھ سے دشمنی رکھے گا اس سے برکتیں آسمان و زمین کی مسدود کر دی گئیں، یعنی تیرے دشمن صحیح بکارتِ حسنہ سے محروم کر دئے گئے۔“

والد کا انتقال
 آپ کی عمر جب سولہ سال کی ہوئی، آپ کے والد ماجد نے سلاطین میں اس زارِ فانی سے کوٹھ فرمایا اور آپ اپنے والد کے سایہ عاطفت سے محروم ہو گئے بظاہر آپ اپنے والد کی رہنمائی سے محروم ہو گئے، لیکن باطنی طور پر آپ اپنے والد ماجد کے فیوضِ روحانی سے مستفید اور مستفیض ہوتے رہے۔ اپنے والد کا مسندِ ہدایت پر بیٹھ کر رشد و ہدایت اور تعلیم و ترقی فرمانے لگے۔

درس و تدریس
 آپ ساری عمر روایتِ حدیث کی ہدایات میں مشغول رہے۔ درس و تدریس آپ کا مجبورِ مشغلہ تھا۔ حدیثِ نبویؐ کا پورا جو آپ کے والد ماجد نے ہندوستان میں لگایا تھا، آپ نے اس کو پروان چڑھایا۔ آپ نے درس و تدریس، افتاء، فصلِ خصومات، تذکیر و وعظ اور تعلیم و تربیت میں مگناری۔ آپ کے بہت شاگرد تھے۔ آپ سے سندِ تلمیذ فیوضِ ظاہری و باطنی باعثِ فخر سمجھی جاتی تھی۔ بہت لوگ آپ کے لمعاتِ فیض

منہ رسالہ تہذیبیات البیہ

اور برکاتِ مسند سے منور و مستفید و مستفیض ہوئے۔ آپ کے بہت سے شاگردوں کا شمار بڑے
علماء و فضلاء و فقیہہ و محدثین میں ہوتا ہے۔

حسبِ ذیل مشہور علماء و فضلاء و محدثین کو آپ کے شاگرد ہونے کا
آپ کے شاگرد و فخر حاصل ہے۔ آپ کے سبائی مولانا شاہ رفیع الدین صاحب —
آپ کے نواسے شاہ محمد اسحاق محدث دہلوی۔ مفتی صدر الدین صاحب دہلوی۔ مولانا شیدائین
خال دہلوی۔ حضرت شاہ غلام علی شاہ۔ آپ کے داماد مولوی عبدالحی۔ آپ کے حقیقی بھتیجے
مولوی محمد اسماعیل شہید۔ مولانا میر محبوب علی دہلوی اور مولانا حسن علی لکھنوی۔

آپ کے کوئی لڑکا نہیں تھا۔ آپ کی تین لڑکیاں آپ کی حیات میں
شادی اور اولاد فوت ہو گئیں۔ آپ کی بڑی لڑکی کی شادی عیسیٰ سے ہوئی۔ دوسری
لڑکی کا نکاح شیخ محمد افضل بن شیخ احمد سے ہوا۔ تیسری لڑکی کی شادی مولوی عبدالحی سے ہوئی۔
آپ بیمار ہوئے اور کافی کم زور ہو گئے۔ آپ ہفتہ میں دو بار وعظ فرماتے تھے۔

آخری ایام اس بیماری میں جب آپ کے وعظ کا دن آیا۔ آپ کی ہدایت کے موافق دو
آدمی آپ کو پکڑے رہے۔ اور جب وعظ آپ نے شروع کر دیا وہ دونوں آدمی الگ ہو گئے۔
آپ وعظ کہتے رہے۔ اس وقت آپ اس آیت شریفہ پر وعظ فرما رہے تھے یہ

”ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَإِذَا بُعِثَ

اس فرمان کے مطابق آپ نے اپنے تمام اسباب کے جھٹکے۔

اس مصرع کو ”من نیز حاضر می شوم تصویر جاتاں در نعل“ بدل کر اس طرح پڑھا

”من نیز حاضر می شوم تفسیر قرآن در نعل“

آپ کمرہ دھو کر کا اہل بائجامہ گاڑھے کا پہنتے تھے۔ آپ نے وصیت فرمائی کہ
وصیت ”میرا کفن مثل میری زندگی کے پوشش کے ہو؟“

ناز جنازہ کے متعلق آپ نے وصیت فرمائی کہ شہر سے باہر ہو۔ بادشاہ کو جنازہ کے ساتھ رہنے

سے منع کیا جائے یہ

وفات آپ نے شمال اللہ کو عالم قانی سے عالم جاوداتی کی طرف کوچ فرمایا۔ آپ کی وصیت پر عمل کیا گیا۔ خلق کا بے حد ہجوم تھا۔ پچیس بار آپ کے جنازے کی نماز پڑھی گئی۔ آپ کا مزار پانواں آپ کے والد ماجد کے مزار کے قریب دہلی (ہندیاں) میں ہے۔ آپ کے مزار سے فیوض و برکات جاری ہیں۔

سیرت پاک آپ علوم ظاہری و باطنی میں بے نظیر تھے۔ فاضل و سہر میں بے عدیل تھے۔ لطف و کرم میں بے مثال تھے۔ علم و عمل میں بے مثل تھے۔ آپ کو فاطمہ المفسرین اور امام المحدثین کہا جاتا ہے۔ آپ صرف ایک صاحبِ دل بزرگ ہی نہ تھے بلکہ آپ ایک بلند پایہ محدث و مفسر و فقیہ تھے۔ آپ کو مرجع علماء و مشائخین ہونے کا فخر حاصل تھا۔ آپ کو فنونِ عقلیہ و نقلیہ اور علومِ متداولہ اور غیر متداولہ پر انتہائی عبیر تھا۔ آپ کثرتِ تحفظ علم تعبیر رویا۔ وعظ۔ انشاء نجوم۔ تحقیقاتِ تفاسیر علومِ مذاکرہ و مباحثہ میں ممتاز مشہور تھے۔ آپ عالمِ باہل تھے۔ آپ صاحبِ تقویٰ، صاحبِ فہم و ذکا، صاحبِ فرست، صاحبِ دیانت، صاحبِ امانت اور صاحبِ ولایت تھے۔

علمی ذوق آپ کی تصانیف بہت مشہور ہیں۔ مشہور تصانیف حسبِ ذیل ہیں:

عجائز نافعہ اصول حدیث۔ لسان المحدثین۔ مجموعہ نمبر رسائل بشرح میزان المنطق۔ رسالہ فضائل خلفاء ماربعہ المعروف بہ عزیز الاقباس فی فضائل بنار انفاس۔ رسالہ تحفہ اثنا عشری تفسیر فتح العزیز۔ رسالہ غنار۔ رسالہ بیح کنیزان۔ رسالہ وسیدہ نجات۔ رسالہ تفضیل۔ رسالہ اصول مذہب ابی حنفیہ۔ رسالہ معاد جسمانی۔

آپ کے فتوے مشہور ہیں۔ آپ کے مکتوبات مختلف مسائل کا حل پیش کرتے ہیں۔ آپ کو شعر و سخن کا بھی ذوق تھا جیسا کہ آپ کے حسبِ ذیل شعر سے ظاہر ہے

لہ کمالاتِ حرزی ملا لہ غنوظاتِ شاہ عبدالعزیز ملا

مگر بگزشن بگزری گل بر رخسار مغفول شود

در نہائی قامت خود سرور اموزوں شود

کاربانی است دانا را نہ یا نامہ نشاں

قد یہ عیسیٰ ندارد بید اگر محبتوں شود

مرد مغلس را جہاں یک سر عمل آفت است

شیشہ چوں خالی است گریاوش رسد اثروں شود

آپ کی رباعی جو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہے لہ

يَا صَاحِبَ الْعَالَمِ وَيَا سَيِّدَ الْبَشَرِ مِنْ وَجْهِكَ الْمُنِيرِ لَقَدْ تَوَلَّى الْقَمَرُ

لَا يَمْلِكُ الشَّاءُ كَمَا كَانَتْ حَقَّهُ بَعْدَ أَنْ خَدَّ ابْنُ زَرْكٍ تَوَلَّى قَبْضَهُ مَخْمَرُ

آپ کی تعلیمات فیض رساں ہونے کے علاوہ معمولات دینی و فیوض و برکات
گونا گوں سے خالی نہیں ہیں۔

آپ کی تعلیمات

آپ نے فرمایا کہ: "اولیا چار قسم کے ہوتے ہیں: بعض مستغرق ہوتے ہیں۔

بعض اہل حدیث ہوتے ہیں جیسے قطب، اور غوث و غیرہ۔

اولیاء کی قسمیں

بعض اہل تجرید اور اہل بخریہ کہلاتے ہیں؟

آپ نے فرمایا کہ: "توجہ چار قسم کی ہوتی ہے:

اول انعکاسی — دوسری القائی — تیسری جذبی —

توجہ کی قسمیں

چوتھی قسم یہ ہے کہ توجہ دینے والے کے تمام اوصاف طالب میں سہایت

کریں۔ یہاں تک کہ صورت ظاہری بھی ایک ہو جاوے؟

آپ نے فرمایا کہ: "بزرگ چار قسم کے ہوتے ہیں:

اول ساک مجذوب کہ ابتداء زمانہ میں ہی خود کو شش کی

بزرگوں کی قسمیں

اور آخر میں کشش ہوتی۔ یہ سب سے بہترین ہیں۔ دوسرے مجذوب ساک

لہ کلابت عزیز منلا کہ کہ کے لغویات شاہ عبدالعزیز ص ۱۰۱ ص ۱۰۲ -

کہ اولاً جذب سے سرفراز ہوتے پھر سلوک اختیار فرمایا جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ لینے تشریف لے گئے، تجلی باری نصیب ہوئی۔ تیسرے سالک سخت مشرف بہ جذب نہیں ہوتے ہیں۔ چوتھے مجذوب محض کہ تجلی باری کی وجہ سے ان کی عقل سلب ہو گئی ہے۔

خلافِ شرع افعال کا اثر آپ نے فرمایا کہ: ”بے شک خلافِ شرع افعال سے تکدر ضرور حاصل ہوتا ہے اور

بعض افعال خلافِ شرع کا تو یہ اثر ہے کہ جو نسبت طالب کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ حاصل ہوتی ہے، بالکل قطع کر دیتے ہیں۔ جیسے مکر، دغا بازی، فریب، نخوت، تکبر، خود نمائی، طلب دنیا، طلب جاہ وغیرہ۔ بعض سے صرف یہ ہوتا ہے کہ اگر سہا گہمی کوئی نگاہِ مغیرہ ہو گیا تو دل پر بیٹے نورانیت کے ایک قسم کی ظلمت اور تاریکی معلوم ہونے لگتی ہے۔“

پینختہ عالم کی تعریف آپ نے فرمایا کہ: ”پینختہ عالم وہ ہے کہ جس کو چار چیزوں میں ملکہ ہو (۱) درس و تدریس (۲) مطالعہ

کتب (۳) تحریر و تقریر (۴) مناظرہ۔“

قرآن شریف کی تلاوت کے آداب آپ نے فرمایا کہ: ”تلاوتِ قرآن شریف

میں تہذیب اور رُوبہ قبیلہ ہونا اور حروف کو بخوبی ادا کرنا اور مد و مشکر کو نہ چھوڑنا اور مقامِ وقت میں ٹھہر جانا۔ یہ آداب ظاہری ہیں اور آدابِ باطنی یہ کہ مبتدی کو چاہئے کہ یہ تصور کرے کہ گویا روبرو خداوند عالم کے پڑھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ بجائے اُستاد کے بیٹھ کر سن رہا ہے اور غیبی کو چاہئے کہ یہ تصور کرے کہ یہ کلامِ زبانِ خدا ہے واسطہ سن رہا ہوں۔۔۔۔۔“

۱۔ کہ ملفوظات شاہ عبدالغزیز ص ۳۲۳ ۲۔ کہ فتاویٰ عزیز یہ مجموعہ رسالہ شاہ عبدالغزیز رسالہ فیض عام ص ۲۵۶

منظرہ ایک پادری مسٹر منگف کے ساتھ آپ کی خدمت میں آئے۔ یہ شرط ٹھہری کہ اگر پادری ہار گیا تو وہ دو ہزار روپے آپ کو دے گا اور اگر آپ ہار گئے تو آپ کی طرف سے دو ہزار روپے مسٹر منگف پادری کو دئے جائیں گے۔

پادری کا سوال: تمہارے پیغمبر صلیب اللہ علیہ وسلم نے بوقت قتل امام حسین فریاد نہ کی۔ حالانکہ صلیب کا محبوب زیادہ تر محبوب ہوتا ہے۔ خداوند تعالیٰ ضرور توجہ فرماتا۔

آپ کا جواب: پیغمبر صاحب واسطے فریاد کے جو اشریف لے گئے پر وہ غیب سے آواز آئی:

ہاں تمہارے لوہے پر قوم نے ظلم و ستم کیا اور شہید کیا۔ لیکن ہم کو اس وقت اپنے پیغمبر صلیب پر چڑھنے کا بیج تازہ ہو گیا۔ پس ہمارے پیغمبر صاحب خاموش رہے

اس جواب سے پادری لاجواب ہو گیا اور دو ہزار روپے بابت شرط آپ کو پیش کئے۔

آپ کے فتوے مسئلہ: طہ النعون یعنی کسی عورتوں کے جنازہ کی نماز پڑھنی درست ہے یا نہیں؟

جواب: جو مرد ان کے آستانہ میں، ان کے جنازے کی نماز پڑھتے ہیں تو ان کے جنازہ کی نماز بھی پڑھنا چاہئے یہ

ایک سونا گرنے دہلی سے روانہ ہوتے وقت اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تم اپنے باپ کے گھر جاؤ گی تو میری طرف سے تم کو طلاق ہے۔ جب سونا گرنے گھر واپس آیا تو اس کو معلوم ہوا کہ اس کی بیوی اپنے باپ کے گھر گئی تھی۔ اس نے علماء سے فتویٰ طلب کیا۔ علماء نے فتویٰ دیا کہ طلاق ہو گئی۔ جب وہ شخص آپ کے پاس آیا تو آپ نے یہ فتویٰ دیا کہ: ”جب باپ اس عورت کا مر گیا، تب وہ گئی۔ اس صورت میں وہ گھر اس کے باپ کا نہ رہا بلکہ وہ گھر عورت کا ہو گیا۔ پس وہ اپنے گھر گئی نہ کہ باپ کے“

سب علماء نے آپ کی رائے سے اتفاق کیا یہ

اللہ کے ذکر سے قلب کو اطمینان ہوتا ہے۔

استعداد کے لئے محبت شرط ہے۔

اقوال

● سلوک اجتہاد است کسی کا نام ہے۔

● جذبِ محقق عنایتِ خداوندی ہے۔

● ہر دین میں پانچ حالات کی رعایت واجب ہے۔ عقل کی حفاظت، نفس کی حفاظت، دین کی حفاظت، نسب کی حفاظت، مال کی حفاظت۔

● عبادت کا وجود بدون احسان کے ایسا سمجھنا چاہئے کہ جیسے رُوح بے بدن کے۔
● انسان میں ہمدردی ہونا چاہئے، خاص کر قریب کے تعلقات میں وفاداری کا برتاؤ ضروری ہے۔

اوراد و وظائف

آپ فرماتے ہیں کہ فراغتِ رزق کے واسطے پاشت کے وقت چار رکعت نماز پڑھے اور پھر سجدہ میں جا کر ایک سو چار مرتبہ یا فقہاب پڑھے۔ اگر فرصت نہ ہو تو پچاس مرتبہ پڑھے یہ

آپ فرماتے ہیں کہ ان آیتوں کے وسیلے سے جو دعا کرے قبول ہو یہ

(۱) لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاَسْتَجِبْنَا لَهُ وَجِبْنَا لَهُ
مِنَ النُّعْمِ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ

(۲) رَبِّ إِنِّي مَسَّنِيَ الْفَقْرُ وَأَنْتَ الرَّحِيمُ الرَّحِيمُونَ

(۳) وَأَقْوَمُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ

(۴) قَالُوا احْسِبْنَا اللَّهُ وَلِعَسَّ مَا لُوكِلُ

(۵) رَبِّ إِنِّي مَغْلُوبٌ فَأَنْتَ الصِّرُ

لہ فتاویٰ العزیزہ ص ۳۹۱ تا ۳۹۲ کہ فتاویٰ العزیزہ ص ۲۵۹

آپ فرماتے ہیں کہ تسخیرِ تکام کے واسطے یہ دعا سترہ بار پڑھ کر ان کی طرف دم کرے۔

يَا رَحْمَنُ كُلِّ شَيْءٍ يَا رَحْمَةً يَا رَحْمَنُ

اور اپنے مکان میں عالم کے مکان کی طرف رخ کر کے دو سو بار یہ پڑھے اور دعا کرے یہ

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ

کشف و کرامات آپ جب بیوہ کے واسطے جامع مسجد جاتے، عمامہ آنکھوں تک باندھتے

تھے۔ ایک شخص مستی فصیح الدین نے اس کا سبب دریافت کیا۔ آپ نے اپنی ٹوپی اس کے سر پر رکھ دی۔

بے پوش ہو گیا۔ اُس نے بتایا کہ جامع مسجد میں پانچ چھ ہزار آدمیوں میں صرف سو سو آدمیوں کی

شکل آدمی کی کتنی باقی کوئی بندر، کوئی ریچھ کوئی کسی اور جانور کی شکل میں تھا۔ آپ نے اس شخص

سے فرمایا کہ یہی سب ہے جس کی طرف دیکھیں یہ

کرنل اسکر آپ سے عقیدت رکھتا تھا۔ اس کے اولاد نہیں تھی۔ اُس نے آپ سے سنا

کی درخواست کی۔ آپ نے اُس کے واسطے دعا فرمائی اور یہ خوش خبری دی کہ لڑکا ہو گا۔ آپ نے

اس کو بدایت فرمائی کہ جب لڑکا ہو تو اس کا نام یوسف رکھنا۔ جب لڑکا پیدا ہوا کرمل نے اس کا نام

جو زنت اسکر رکھا۔ جو زنت اور یوسف ایک ہی بات ہے صرف زبان کا فرق ہے یہ

سے فتاویٰ العزیز ص ۳۰۰

کے سے کمالیہ عزیزی ص ۱۸۰، ص ۱۸۱۔

باب ۲۲

حضرت شاہ محمد آفاق دہلوی

حضرت شاہ محمد آفاق شہرہ آفاق ہیں۔ آپ قطبِ زمان تھے۔ فخرِ زمان و زمیں ہیں۔
غواہسِ دریائے دین ہیں۔ محرمِ اسرار ہیں۔ مخزنِ انوار ہیں۔
حضرت حضرت جانِ جاناں منظرِ شہید کی دعوت پیدا ہوئے تھے۔
آپ کی ولادت باسعادت سن ۱۱۶۶ھ میں واقع ہوئی۔
نامِ نامی آپ کا نامِ بانی محمد آفاق ہے۔

بیعت اور خلافت آپ حضرت خواجہ ضیاء اللہ نقشبندی کے حلقہ ارادت میں داخل ہوئے۔
اور مریدی سے مشرف ہونے کے کچھ عرصے بعد آپ خرقہ خلافت سے
سرفراز و ممتاز ہوئے۔ ریاضات و مجاہدات کے بعد درجہ کمال کو پہنچے۔

شجرہ بیعت محمد آفاق مرید حضرت خواجہ ضیاء اللہ وہ مرید خواجہ محمد زبیر وہ مرید خواجہ
مجتبہ اللہ محمد نقشبندی وہ مرید خواجہ محمد معصوم وہ مرید حضرت مجددنا
سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ

بہ ضیاءِ قلوب ص ۱۱۱

سیر و سیاحت آپ افغانستان تشریف لے گئے۔ وہاں لوگوں نے آپ سے بہت فیض پایا۔ بہت لوگ آپ کے حلقہ مآدات میں داخل ہوئے۔ شاہ

افغانستان زماں شاہ آپ کا مرید، معتقد اور منقاد تھا۔

آپ کی بزرگی آپ کی بزرگی اور بزرگی کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ حضرت شاہ علام علی اپنے بعض مریدوں کو آپ کی خدمت میں بھیجا کرتے تھے۔ یہ مرید آپ کی خدمت بابرکت میں بعد تعلیم و تکمیل حاضر ہوتے تھے، لیکن ان کی تکمیل اسی وقت پوری بھی جاتی تھی کہ جب آپ ان کو مکمل پالتے۔

وفات شریف آپ، محرم ۱۲۵۱ھ کو جبار رحمت میں پریست ہوئے۔ آپ کا مزار فیض آثار دہلی میں حاجت روانے خلق ہے اور مشہور ہے۔

آپ کے خلفاء حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی اور حضرت مولانا نصیر الدین آپ کے ممتاز خلفاء ہیں۔

سیرت پاک آپ صاحب جذب تھے۔ ہمہ وقت مستغرق رہتے تھے۔ نسبت عشق آپ پر غالب تھی۔ آپ جامع شریعت و طریقت تھے۔ اسرار حقیقت سے واقف تھے۔ آپ مرشد کامل تھے۔ فقر، توکل، قناعت، زہد و ورع، عبادات، ریاضات، مجاہدات اور تقویٰ میں اپنی نظیر نہیں رکھتے تھے۔ آپ شیخ وقت تھے۔

تعلیمات سلسلہ مجددیہ جس کے آپ ایک ممتاز بزرگ ہیں۔ ذکر نفی اثبات اور ذکر اکرام ذات پر کافی زور دیتا ہے۔ حضرت مجدد نے کشف سے یہ بات دریافت کی کہ انسان دس لطائف سے مزین و مرکب ہے۔ پانچ لطائف عالم امر کے ہیں اور پانچ لطائف عالم خلق کے ہیں۔ قلب، روح، سیری اخفی اور اخفی عالم امر کے لطائف ہیں اور نفس و عناصر اربعہ عالم خلق کے لطائف ہیں۔

۱۔ صاحب انظار ہیں۔

عالم امر کا ہر ایک لطیفہ ایک پیغمبر کے زیرِ قدم واقع ہے۔ لطیفہ قلبِ حضرت آدم علیہ السلام کے زیرِ قدم واقع ہے۔ لطیفہ سیرِ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیرِ قدم واقع ہے۔ لطیفہ ختمی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زیرِ قدم واقع ہے اور لطیفہ ختمی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زیرِ قدم واقع ہے۔ اس کے بعد تین طریقے مقرر کئے۔ پہلا طریقہ ذکر، دوسرا طریقہ مراقبات اور تیسرا طریقہ توجہ مرشدیہ اہل اصول ہے۔

ذکر دو قسم کا ہے۔ ذکر اسمِ ذات اور ذکر لفظی اثبات۔

پہلا مراقبہ مراقبہ امدیت ہے۔ دوسرا مراقبہ فناء کے ذات۔ اس کو مراقبہ معیت بھی کہتے ہیں۔ پھر دائرہ ولایتِ صغریٰ کا مراقبہ ہے۔ پھر دائرہ کبریٰ کا مراقبہ ہے بعد ازاں دائرہ ولایتِ علیا کا مراقبہ ہے۔ پھر دائرہ کمالاتِ رسالت کا پھر دائرہ کمالاتِ اولوالعزم، پھر دائرہ حقیقتِ صلوات پھر دائرہ معبودیتِ مرت پھر دائرہ حقیقتِ ابراہیمی، پھر دائرہ حقیقتِ موسوی پھر دائرہ حقیقتِ محمدی پھر دائرہ حقیقتِ احمدی پھر دائرہ حقیقتِ پھر دائرہ حقیقتِ لائیں۔

توجہ مرشدیہ یہ مراد ہے کہ مرشد اپنے دل کو طالب کے دل کے مقابل کرے اور اس امر کی ہمت صرف کرے کہ ذکر کے لواحق جو اس کے ذل میں ہیں وہ طالب کے دل میں جلوہ گر ہوں۔ آپ نے تصویرِ شیخ پر بہت زور دیا ہے۔ آپ ذکرِ شش جہت کرتے تھے۔ یعنی لطیفہ عالم۔ اس کے بعد لفظی اثبات۔ بحسب دم باعد و طاق یعنی ایک دم میں اکیس بار پہنچاتے تھے یہ آپ کی توجہ کے چار طریقے تھے: نظری، لسانی، قلبی اور روحی۔

اقوال

آپ کے بعض اقوال حسبِ ذیل ہیں:

ہم سب عزیز و اقربا، دوست و آشناؤں کو چاہتے ہیں کہ کچھ سوئیں۔ لیکن کوئی نہیں

لے ساک اس لیکن جلد دوم ص ۱۶۱

ہوتا، جس کو خدا چاہتا ہے ہو جاتا ہے۔
 ایک توجہ میں سب مقامات طے ہو سکتے ہیں، لیکن مرید میں استعداد ہونی چاہئے۔
 غوث ہو یا قطب جو خلافت شرعاً کرے کچھ بھی نہیں۔

آورا دو وظائف

آپ حسب ذیل درود شریف پڑھا کرتے تھے:
 اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
 وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

آپ روزانہ دس ہزار بار درود شریف پڑھتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ کلہ طیبہ روزانہ بیچاس
 ہزار مرتبہ پڑھتے تھے۔ نماز ظہر کے بعد حزب البحر پڑھنا آپ کا معمول تھا یہ

حافظ شرف صاحب شاعر تھے۔ ایک روز آپ نے اپنی
 کشف و کرامات ٹوپی اُن کے سر پہ رکھ دی۔ اسی روز سے وہ ایک اچھے

شاعر ہو گئے۔

حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دہلی سے اپنی والدہ کو پانچ روپے بھیجا چاہتے
 تھے۔ آپ نے اُن سے روپے لئے اور فرمایا کہ بھیج دئے جائیں گے۔ بعد ازاں آپ نے
 حضرت مولانا سے فرمایا کہ اُن کے روپے اُن کی والدہ کے پاس پہنچ گئے۔ کچھ دنوں کے بعد
 جب حضرت مولانا صاحب والدہ سے ملنے گئے تو آپ کو معلوم ہوا کہ اسی رات کو آپ نے
 دروازے پر پکار کر وہ روپے آپ کی والدہ کو دئے، اور اُن کے بیٹے کی خیریت سے اُن کو
 مطلع فرمایا۔

باب ۲۳

حضرت شاہ ابوسعید دہلوی

حضرت شاہ ابوسعید جگر گوشہ اولیاء ہیں۔ آپ مخزن اسرار الہی ہیں۔ معدن

الوار لائناہی ہیں۔

خاندانی حالات
آپ کا نسب نامہ پدری حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی تک
اس طرح پہنچتا ہے:

ابوسعید بن شیخ صفی القدر بن شیخ عزیز القدر بن شیخ محمد عیسیٰ بن شیخ سعید الدین

بن شیخ محمد معصوم بن شیخ احمد سرہندی القلب مجدد الف ثانی ۲۔

والد بزرگوار آپ کے والد ماجد کا نام شیخ صفی القدر ہے۔

ولادت آپ ۲۲ رزی قعدہ ۱۱۹۶ھ کو مصطفیٰ آباد عرف رام پور میں پیدا ہوئے۔
نام: آپ کا نام ابوسعید ہے۔

شہادت الطالبین

تعلیم و تربیت دس سال کی عمر میں آپ نے قرآن مجید حفظ کیا۔ فارسی سیمت قرأت حاصل کی۔ علوم عقلیہ و نقلیہ میں کمال حاصل کیا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز سے حدیث کی سند حاصل کی۔

بیعت و خلافت تعلیم سے فارغ ہو کر خدا طلبی کا راستہ اختیار کیا۔ اول اپنے والد ماجد کی صحبت میں رہ کر استفادہ حاصل کیا۔ پھر والد بزرگوار کی اجازت سے حضرت شاہ درگاہی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کی بیعت سے مشرف ہوئے چند ہی روز میں حضرت شاہ درگاہی نے آپ کو اجازت و خلافت عطا کر کے رخصت فرمایا یہ پھر آپ رام پور سے دہلی تشریف لائے۔ ایک خط حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی خدمت میں ارسال فرمایا۔ حضرت قاضی صاحب نے آپ کے خط کا جواب دیتے ہوئے تحریر فرمایا کہ حضرت شاہ غلام علی سے بہتر کوئی اور درویش نظر نہیں آتا۔

اس خط کے ملنے کے بعد آپ حضرت شاہ غلام علی کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے۔ بیعت کا اشتیاق ظاہر کیا۔ آپ کی درخواست قبول ہوئی۔ حضرت شاہ غلام علی نے اپنے حلقہ ارادت میں آپ کو داخل کر کے سرفراز کیا۔ آپ کے پہلے پیر حضرت شاہ درگاہی اس وقت زندہ تھے۔ آپ ان کا دریا ہی ادب و احترام کرتے تھے، جیسا کہ پہلے کرتے تھے۔

شجرۂ بیعت آپ کا شجرۂ طریقت حضرت شیخ احمد سرہندی تک اس طرح پہنچتا ہے۔ ابو سعید وہ مرید حضرت شاہ غلام علی وہ مرید حضرت مرزا مظہر جان جاناں وہ مرید حضرت نذیر محمد بدایوں وہ مرید حضرت سیف الدین وہ مرید حضرت محمد معصوم وہ مرید حضرت شیخ احمد سرہندیؒ کہ آپ فرماتے ہیں کہ:

منصب قومیت الحمد للہ! ایک مدت دراز کے بعد سن ایک ہزار و چونتیس ۱۲۲۴

۱۲۹۶ء ہجرت مطاہرین ۱۲۹۶ء ہجرت مطاہرین ۱۲۹۶ء

ماہ جمادی الاول کی پندرہویں کو حضرت پیر کسنگیر نے بندہ کو قومیت کی
بشارت عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ چونکہ مجھ کو الہام ہوا ہے، اسی واسطے
میں نے تجھ کو یہ خوش خبری دی ہے۔“

آپ کو لکھنؤ سے طلب فرمایا۔ ایک مکتوب میں آپ کو تحریر فرمایا ہے

”میں دیکھ رہا ہوں کہ اس عالی شان خاندان کے مقامات کا آخری منصب
تمہارے متعلق کیا گیا ہے اور اس سے قبل اپنی سابق بیماری میں میں نے
دیکھا تھا کہ تم میری چار پائی پر بیٹھے ہو اور منصب قومیت تم کو عطا کیا گیا
ہے۔ ان توجہات عجیبہ غریبہ کے قابل تمہارے سوا اور کوئی نظر نہیں آتا۔
لہذا اس خط کو دیکھتے ہی تن تمہا اس طرف روانہ ہو جاؤ اور بر خوردار
احمد سعید کو اپنی جگہ چھوڑ آؤ۔“

ایک دوسرے مکتوب میں آپ کو تحریر فرمایا کہ بلکہ

”غیب سے القا ہو رہا ہے کہ ابو سعید کو طلب کرنا چاہئے اور حضرت
مجدد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارک بھی اس پر باعث ہے اور میں نے
دیکھا ہے کہ تم کو میں نے اپنی دائیں ران پر بٹھایا ہے اور وہ منصب جس
کے آثار غریب تم پر وارد ہوں گے، تمہارے پیر دیکھا ہے۔ حضرت
شاہ عبدالعزیز صاحب اور شہر کے اکثر رؤسا آپ کے اخلاق حسنہ اور
مسکنت طبع اور شکستہ عالی صداقتی مزاج اور امانت داری اور ذکر و شغل
اور تحمل و صبر پر اعتماد کر کے آپ کے بلوانے کو بلا شرکت احدیٰ و
دوست سمجھ رہے ہیں اور مجھ کو بھی الہام ہوا ہے کہ اس کام کی قابلیت صرف

۱۔ ہدایت الطالبین ص ۱۹۶، ۲۔ ہدایت الطالبین ص ۹۸-۱۰۱

آپ ہی میں ہے۔ یہاں رہو اور طریقہ شریفہ کو رواج دو اور روزگار و معاش
کی تدبیر بکوالہ خدا کرو۔

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

خدا کے تعالیٰ کا وعدہ کافی ہے۔

بغیر ان پیر و مرشد آپ دہلی آکر پیر و مرشد کی جگہ بیٹھے اور رشد و ہدایت میں مشغول ہو گئے۔

پند و نصائح ● آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو حسب ذیل نصیحتیں فرمائیں:

اپنی باطنی نسبت کو ہمیشہ محفوظ رکھنا۔

صنور و توجہ میں مشغول رہنا۔

جملہ اوقات و حالات میں یادداشت کو نہ چھوڑنا۔

تمام اعمال میں حضرت حبیب رب العالمین کے سنن کی مطابقت کرنا۔

اپنے تمام اوقات کو نوافل و عبادات کے ساتھ گزارنا اور کمال و تعذیل ارکان کے ساتھ

ادائے نماز کرنا اور دوسرے اوراد و اذکار و تلاوت کلام مجید و ورد و استغفار و

تفویض امور حضرت کر و کار سبحانہ سے معمور رکھنا۔

طریقہ کے سلوک سے مقصود اخلاق کی آراستگی اور جناب الہی میں ہمیشہ متوجہ رہنا ہے

تاکہ ہنگامی و نیاز مندی اور اخلاص ہر وقت موجود رہے۔ اس کا ظاہر حبیب خدا

صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پابند اور باطن ماسوائے حق سے روگرداں اور جناب

کبریائی سبحانہ کی طرف متوجہ رہے۔

غیب سے جو کچھ آمد ہو اپنی اور اپنے متعلقین کی ضرورتوں پر صرف کریں اور باقی ماندہ

فقرا پر تقسیم فرمادیں۔

آپ ۱۲۳۹ھ میں حرمین شریفہ کی زیارت کے لئے روانہ ہوئے۔

وفات شریفہ زیارت حرمین شریفہ سے مشرف ہو کر آپ دہلی روانہ ہوئے۔ ۱۲۳۹ھ

کو ٹونک میں رونق افروز ہوئے۔ بیماری کی وجہ سے وہیں قیام فرمایا۔ عید الفطر کے روزِ ظہر و عصر کے درمیان ۱۲۵ھ میں آپ نے وصال فرمایا۔ ٹونک میں تجہیز و تکفین کی گئی۔ چالیس روز کے بعد آپ کا تابوت دہلی لایا گیا اور نعش مبارک کو نکال کر دفن کیا گیا۔

خلیفہ آپ کے فرزند اکبر حضرت شاہ احمد سعید آپ کے خلیفہ اکبر اور سجاد نشین ہیں۔

سیرت مبارک آپ سختی و تلخی سے دل برداشتہ نہ ہوتے تھے۔ فقر و فاقہ پر فخر کرتے تھے۔ اپنے پیر و مرشد کے احکام کی پابندی سختی سے کرتے تھے۔ ایک بلند پایہ عالم تھے اور صاحبِ کرامت درویش تھے۔

علمی ذوق آپ کی کتاب ہدایت الطالبین آپ کی علمی یادگار ہے۔

تعلیمات طالب آپ کی تعلیمات سے کافی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔
اسم الظاہر و اسم الباطن کے درمیان فرق۔

آپ فرماتے ہیں: اسم الظاہر اور اسم الباطن کے درمیان یہ فرق ہے کہ اسم الظاہر کی سیر میں ذات کا لوظا کرنے کے بغیر سی صفاتی تجلیات وارد ہوتی ہیں اور اسم الباطن کی سیر میں گواہی صفت کی سببی تجلیات مینر آتی ہیں، مگر کبھی ذاتِ تعالیٰ و تقدست بھی مشاہدہ میں آہی جاتی ہے۔

کمالاتِ نبوت کا فیض آپ فرماتے ہیں: ”پیر و سنگیر نے اسی سال کے ذیقعد ۱۰۱۰ھ میں اپنے غلام کے

عنصر خاک پر توجہ فرمائی اور کمالاتِ نبوت کا فیض (یعنی تجلی ذاتی دائمی) میرے اس لطیفہ پر وارد فرمایا۔ اس مقام کے علوم و معارف بس یہی ہیں کہ تمام علوم و معارف مفقود ہو جائیں اور باطن کے تمام حالات ہی بے شناخت ہو جائیں اور اس مقام میں بے رنگی اور بے کیفی حاصل الوقت

۱۰ ہدایت الطالبین ص ۹۲ - کہ ہدایت الطالبین ص ۹۲-۹۱

ہو جاتی ہے اور ایمانیت اور عقائد میں بھی ہر طرح کی قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور استدلالی علم بدیہی ہو جاتا ہے اور اس مقام کے معارف انبیاء کرام کی شریعتیں ہیں۔ اس مقام میں باطن کی وسعت اور فراخی اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ تمام ولایت (عام اس سے کہ ولایتِ صغریٰ ہو یا ولایتِ کبریٰ یا ولایتِ علیا) کی وسعت و فراخی اس نسبت کے پہلو میں محض ناچیز اور تنگی ہی تنگی ہے اور کچھ بھی نہیں۔“

دائرہ حقیقتِ صلوات آپ فرماتے ہیں کہ: ”اس دائرہ میں بچوں

حضرت ذات کی کمال وسعت مشاہدہ میں آئی۔ اس مقام کی وسعت اندر بلندی کا کیا حال بیان کرے۔ مگر اس قدر تو ضرور جان لو کہ حقیقتِ قرآن مجید اس کا ایک جزو ہے اور دوسرا جزو حسیرو حقیقتِ کعبہ ہے۔ اس مقام کے واردات و کیفیات کی کیا وصف بیان کرے۔ اس مقام میں حضرت بچوں کی کمال وسعت کا مراقبہ کرتے ہیں۔ جس سالک نے اس مقدس حقیقت سے کچھ بھی خط حاصل کیا ہے وہ گویا اولے نماز کے وقت عالم دنیا سے نکل کر عالمِ آخرت میں داخل ہو جاتا ہے اور روستِ اخروی کے مشابہ حالت حاصل کر لیتا ہے۔ تکبیر تحریمیہ کے وقت دونوں جہاں سے ہاتھ اٹھا، اور دونوں جہاں میں پست ڈال کر اللہ اکبر کا نعرہ لگانا ہوا حضرت سلطانِ ذی شان جل شانہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے اور بارگاہِ جل جلالہ کی عظمت و کبریائی کی ہیبت کے آگے اپنے آپ کو ذلیل و ناچیز خیال کر کے محبوبِ حقیقی پر قربان ہونے جاتا ہے اور قرأت کے محبوبِ وجود سے جو اس مرتبہ

کے لائق ہے، موجود ہو کر حضرت حق سبحانہ کے ساتھ مکمل اور اس جناب سے مخاطب ہوتا ہے۔ اس کی زبان گویا نوسوی شجرہ بن جاتی ہے۔ جب رکوع کرتا ہے اور غارت درجے کا شروع بھی تو بالفطرہ زیادہ قرب کے ساتھ ممتاز ہوتا ہے۔

اور صبیح کرنے کے وقت ایک اور خاص کیفیت سے مشرف ہوتا ہے پھر اب تو خواہ مخواہ حمد و ثنا کرتا ہوا قومہ کرتا ہے اور دوبارہ حضرت حق کے حضور میں برابر سیدھا کھڑا ہوتا ہے۔

ازرقومہ کرنے میں میرے فہم ناقص میں یہ راز ہے کہ چونکہ اب ادا کے بعد ارادہ کرتا ہے تو قیام سے سجدہ کی طرف جانے میں رکوع سے سجود کی جانب جانے کی نسبت تزلزل اور انکسار زیادہ ہے۔ اور ادا کے بعد ارادے سجود کے وقت ایک خاص قرب جو حاصل ہوتا ہے اس کا کیا بیان کیا جائے۔ اس کے ادراک میں تو عقل بھی عاجز و قاصر ہے معلوم ہوتا ہے کہ ساری نماز کا خلاصہ سجود ہی سجود ہے۔

اور چونکہ قرب سجود سے نیاں ہوتا تھا کہ عتقا (مطلوب حقیقی) دام میں آچھنسا۔ لہذا اللہ اکبر کہتا ہوا جلسہ میں بیٹھ گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس سے برتر ہے کہ میں اس کی کا حقہ عبادت کر سکوں اور کما نبی اس کا قرب حاصل کر لوں۔

اور اسی سابق جرم کی جلسہ میں معافی مانگتا ہے۔

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي

پھر اور زیادہ قرب طلب کرنے کے واسطے دوبارہ سجدہ کرتا ہے۔ ازاں بعد تشہد میں بیٹھ کر اس نعمتِ قرب کے احسان و انعام پر باری تعالیٰ کی

جناب میں شکر و تحیات بجالاتا ہے۔

اور کلمہ شہادت کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارا قرب وغیرہ کا معاملہ توحید و

رسالت کی تصدیق و اقرار کے بغیر ناممکن ہے۔

پھر درود شریف اس واسطے پڑھتا ہے کہ یہ تمام نعمتیں آں حضرت

صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے طفیل حاصل ہوئی ہیں۔

اور ابراہیمی درود شریف اس وجہ سے اختیار کیا گیا ہے کہ ادا کرنے

نماز کے وقت محبوبِ حقیقی کے ساتھ خلوت میں آتی ہے اور خاص ہم نشینی اور

بخصوصیت معاصبت (منصبِ خلوت) تو صرف حضرت خلیلِ مبینیؑ اور

صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا حصہ ہے۔ گو یا درود شریف کی برکت کی باعث

اسی ہم نشینی کو طلب کرتا ہے۔

اقوال

رضعت پر عمل کرنا آدمی کو بشریت کی طرف کھینچ لے جاتا ہے۔

عزیمت پر عمل کرنا ملکیت کے ساتھ مناسبت پیدا کرتا ہے۔

جب حضرت حق سبحانہ تعالیٰ کی عنایت بے غایت کسی بندے کے شامل حال ہو جاتی ہے

تو اس کو اپنے دوستوں میں سے کسی ایک دوست کی خدمت میں پہنچا دیتے ہیں۔

جو شخص اپنے حالات اور اک و مبدائی کے ساتھ کسی دریافت نہیں کر سکتا اس کو تعالیٰ



کی بشارت دینا اور خوش خبری سننا ناگوار طریقہ قرار کو مہیا کرنا اور اس کی نسبت

بدگمانی پھیلانا ہے۔

آپ کے سوال کے چالیس روز کے بعد ابوت لونگ سے دہلی لایا گیا۔ جب ابوت کھولا

کرامت کیا تو معلوم ہوتا تھا کہ ابی غسل دیا گیا ہے۔ کسی قسم کی کوئی تبدیلی واقع نہ ہوئی تھی۔

توئی جو نیچے رکھی ہوئی تھی اس میں سے نہایت اچھی خوشبو آ رہی تھی۔



پبلشرز
زاویہ

زاویہ پبلشرز

6 مرکز الاویس (سستا ہوٹل) دربار مارکیٹ - لاہور

Voice: 042-7248657 Mobile: 0300-9467047